

ہدایت المریدین و ارشاد السالکین

تصنیف لطیف

حضرت مخدوم سید موسیٰ پاک شہید گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز

ترجمہ

پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک

تحقیق و تہذیب


سید سید علی ثانی جیلانی



**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

**پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ**





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہدایت المریدین و ارشاد السالکین

(المشہور بہ تیسیر الشاغلین)

تصنیف لطیف

حضرت مخدوم سید موسیٰ پاک شہید قدس اللہ سرہ العزیز



ترجمہ

پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک

تحقیق و تہذیب و حاشیہ

سید سید علی ثانی جیلانی

ادارہ صوت ہادی شیخو شریف، ضلع اوکاڑہ

کل الحق
محفوظ

بِحَقِّ اَدَارَةِ صَوْتِ بَادِي

128454

- نام کتاب : **هدایت المریدین وارشاد السالکین**
مصنف و مؤلف : **حضرت سید موسیٰ پاک شہید گیلانیؒ**
شرف اشاعت : **پیر سید بشیر الحسن گیلانی مد ظلہ العالی**
ترجمہ : **پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک**
تحقیق و تہذیب : **سید سید علی ثانی گیلانی**

۱۰ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ - ۶ دسمبر 2011ء

رابطہ کیلئے

- سید بشیر الحسن گیلانی کالاباغ، میانوالی: 0334-7655225
سید سید علی ثانی گیلانی، ساہیوال: 0300-6904721
پیر طاہر حسین لکھنوی قادری، جھنگ: 0345-7605097
سید رفاقت علیشاہ قادری، اسلام آباد: 0333-5121200

﴿ ملنے کے پتے ﴾

- مکتبہ قادریہ گنج بخش روڈ، لاہور - 04237226193
مکتبہ فریدیہ، ہائی سٹریٹ، ساہیوال - 040-4226812
مکتبہ بابا فرید، پاکپتن شریف - 0301-7241723



نواسہ رسول ﷺ، شہید کربلا، امام اہل الابدلاء
حسین علیہ السلام کے نام.....!

جن کے طفیل ابھی تک حریت اسلام
اور حق و صداقت
کی آواز باقی ہے۔



تارما از زخمہ اش لرزاں ہنوز
تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز





نگہ ابھی ہوئی ہے رنگ و بو میں
عقل کھوئی گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑے اے دل فغان صبح گاہی
اماں شاید ملے اللہ ہو میں



(اقبال)

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
17	نصاب عشق (تقریظ) پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری	1
23	نطق اول (دیباچہ) پروفیسر محمد شاہ کھگہ	2
43	مقدمہ سید سید علی ثانی جیلانی	3
56	مخدوم العالم و شیخ الکل (سوانح) پروفیسر محمد الیاس اعظمی	4
71	متن کتاب	5



باب اول

77

پنجگانہ فرض نمازوں، اذکار اور دعاؤں کے بارے میں

77	پہلی فصل سحر خیزی اور اسکے متعلقات	1
79	دعائے صبح	2
81	شہادت صبح	3
82	حصار آیت الکرسی	4
84	دوسری فصل نماز فجر اور اسکے متعلقات	5
84	نماز مسنونہ کی قسمیں	6
86	نماز میں خشوع و خضوع	7
90	وظیفہ اسماء الحسنیٰ	8
98	وظائف سورۃ بقرہ و آل عمران	9
100	مسیبات عشرہ	10
109	حرز ابوورداء <small>رضی اللہ عنہ</small>	11
110	سیدنا غوث <small>رضی اللہ عنہ</small> کا خاص وظیفہ	12

134	قناعت کیلئے آپ سے ایک اور وظیفہ	13
139	تیسرا وظیفہ	14
141	تیسری فصل نماز ظہر اور اسکے متعلقات	15
141	نماز کی تیاری کا طریقہ	16
142	صلوۃ الخضر	17
144	چوتھی فصل نماز عصر اور اسکے متعلقات	18
145	حرز ابو درداء <small>رضی اللہ عنہ</small>	19
146	پانچویں فصل نماز مغرب اور اسکے متعلقات	20
146	غروب آفتاب کی دعا	21
148	چھٹی فصل نماز عشاء اور اسکے متعلقات	22
148	نماز عشاء اور اسکے بعد کے وظائف	23
149	اور سونے سے پہلے کے وظائف	24



باب دوم

150

سنن غیر موقتہ کے بارے میں

150	پہلی فصل نماز اشراق اور اسکے متعلقات	1
151	نماز استعاذہ -	2
153	نماز استخارہ	3
155	نماز استجاب	4
156	نماز شکر النہار	5
157	مشکلات سے نجات کیلئے دعا	6
160	دوسری فصل نماز چاشت اور اسکے متعلقات	7
160	باطنی دشمن سے نجات کا طریقہ	8
161	خصوصی دعائے رغوشہ	8
168	تیسری فصل وقت زوال کی نماز کے متعلقات	9
168	نماز فائے	10

159	چوتھی فصل نماز اوّابین اور اسکے متعلقات	11
169	نماز اوّابین	12
170	پانچویں فصل قیام شب، نماز تہجد کے متعلقات	13
173	مغرب اور عشاء کے درمیانی نماز کی فضیلت	14
174	حضور ﷺ کی شب بیداری کا عالم	15
175	رات کو اٹھتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں	16
176	تہجد کے وقت وظائف نبوی ﷺ	17
186	چھٹی فصل نماز تسبیح اور اسکے متعلقات	18
186	نماز تسبیح کی فضیلت	19
186	نماز تسبیح کا طریقہ	20
186	نماز تسبیح کی قرأت	21



باب سوم

190

آداب تلاوت قرآن مجید، ذکر بالجہر، اشغال باطنی، مراقبہ،
آداب بارگاہ نبوی ﷺ، آداب مرید با شیخ اور آداب حضرت سید
محی الدین جیلانیؒ کے بارے میں

190	پہلی فصل تلاوت قرآن مجید اور اسکے متعلقات	1
190	تلاوت قرآن مجید کی فضیلت	2
190	تلاوت قرآن کے آداب	3
194	تلاوت قرآن کا وقت	4
194	ختم قرآن میں سنت نبوی ﷺ	5
195	دعائے ختم قرآن	6
198	دعائے سجدہ تلاوت	7
200	دوسری فصل ذکر جہر، اشغال باطنی اور اسکے متعلقات	8
200	آداب ذکر	9
202	اللہ جل جلالہ کا ذکر دلوں کی شفاء ہے	10

207	ذکر کی شرائط	11
208	پہلی شرط..... اخلاص نیت	12
208	دوسری شرط..... گناہوں سے توبہ	13
209	تیسری شرط..... طہارت جسمانی	14
209	چوتھی شرط..... حضور قلب	15
209	پانچویں شرط..... دل کا رابطہ مرشد کے ساتھ	16
209	ذکر جہر	17
210	سلسلہ قادریہ اور ذکر جہر کے طریقے	18
210	پہلا طریقہ (نفی اثبات)	19
212	دوسرا طریقہ..... یک ضربی و یک اثبات	20
212	تیسرا طریقہ..... دو ضربی بیک اثبات	21
212	چوتھا طریقہ..... سہ ضربی و سہ اثبات	22
213	پانچواں طریقہ..... سہ ضربی و چہار اثبات	23
213	چھٹا طریقہ..... چہار ضربی بیک اثبات	24
213	اثبات کے ذکر کا طریقہ	25
213	چار ضربی ذکر کا طریقہ	26
214	پانچ ضربی و پانچ رکنی ذکر	27
214	ذکر اسم ذات	28

215	ذکر اسم ذات کا طریقہ	29
215	شغل آیت الکرسی	30
216	کشف ارواح کیلئے شغل اسم یا احمد یا محمد ﷺ	31
216	شغل شیخ و مرشد	32
216	ذکر خفی	33
218	ذکر باطن	34
220	ہمہ وقت تصور شیخ میں رہنا	35
220	تصور شیخ اور ذکر اسم ذات کا طریقہ	36
221	دیگر طریقے	37
223	تیسری فصل مراقبہ اور اسکے متعلقات	38
223	اعمال کی اقسام	39
224	مراقبہ اول: خلوت و جلوت میں ماسوا اللہ سے انقطاع۔	40
225	مراقبہ دوم: مشاہدہ حق	41
227	چوتھی فصل محبت کے صورتی اور معنوی آداب	42
227	ادب کیا ہے.....؟	43
228	بے ادب قابل نفرت	44
229	بخدا خدا کا یہی ہے در	45

230	واسطہ نبوت کو چھوڑنے والا مردود ہے	46
231	سنت نبوی ﷺ کی پیروی	47
232	تمام سلاسل کے مشائخ کا ادب	48
232	شریعت و طریقت کا باہمی تلازم	49
232	توحید و سنت کا تلازم	50
234	پانچویں فصل شیخ سے مرید کے آداب اور متعلقات	51
235	پہلا ادب: شیخ پر کامل اعتقاد	52
236	دوسرا ادب: بارگاہ شیخ کی حضوری	53
237	تیسرا ادب: شیخ کو مرید، مال میں متصرف سمجھے	54
237	چوتھا ادب: شیخ پر اعتراض نہ کرے	55
238	پانچواں ادب: خواہش نفس کو ترک کرے	56
238	چھٹا ادب: شیخ کے حسن خلق پر اعتقاد کرے	57
239	ساتواں ادب: شیخ کی رائے سے اختلاف نہ کرے۔	58
239	آٹھواں ادب: شیخ کی بات کو انتہائی توجہ سے سنے۔	59
240	نواں ادب: شیخ کی بارگاہ میں گفتگو کے آداب	60
241	دسواں ادب: شیخ کے ساتھ بے تکلف نہ ہو	61

242	گیارہواں ادب: کثرت سوال سے اجتناب	61
243	بارہواں ادب: شیخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھے	62
243	تیرہواں ادب: اپنے اسرار شیخ کی خدمت میں عرض کرے۔	63
243	چودہواں ادب: مرید فنا فی الشیخ ہو	64
244	سیرکار محبوب سبحانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا تصور	65
245	حلیہ مبارک	66
247	چھٹی فصل متفرق اذکار اور دعائیں	67
250	حزب اول	68
255	رات کا دوگانہ	69
256	خصوصی وظیفہ	70
257	استجابت کا وظیفہ	71
257	روزانہ کی مواظبت	72
257	غالب دشمن سے پناہ کی دعا	73
258	دشمن پر غلبہ پانے کی دعا	74
259	سونے سے پہلے کے مناجات	75
263	وظیفہ برائے حصول مراد	76
264	دوگانہ صلوٰۃ غوثیہ کا طریقہ	77

264	نماز غوثیہ کا طریقہ	78
267	دو گانہ نماز کا ایک اور طریقہ	79
269	ایک مزید تیسرا طریقہ	80
289	قضائے حاجات کیلئے اسماء غوثیہ کا وظیفہ	81
291	مزید حاجات سے متعلقہ ایک اور وظیفہ	82
292	کفایت مہمات کیلئے ایک مزید وظیفہ	83
296	ذکر وصال غوثیہ ﷺ	84
298	نسب صفات جناب غوث الاعظم ﷺ	85



التماس دعا

حضرت پیر بشیر الحسن گیلانی اور انکے ساتھ معاونین جنہوں نے اس

کتاب کے اشاعت میں ہر طرح کا حصہ لیا ہے اللہ ﷻ انہیں اجر خیر سے نوازے اور

اس کتاب کو ان کیلئے صدقہ جاریہ کرے آمین.....!!



کلام الغوث ، غوث الکلام

چهل کاف:

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمَ يَكْفِيكَ وَ اِكْفَاةً
 كِفَاةً فَهَا كَمِيْنُ كَانِ مِنْ لَكِ
 تَكْرُكًا كَرًّا كَرًّا لَكِ كَرِيْفِي كَبِيْدِ
 نَحْكِي مُشْكِي كَشِيْكَةً كَلِكْ لَكِ
 كَفَامَا بِي كَفَاكَ الْكَافِ كُرْبِيَّةً
 يَا كَوَكْبًا كَانِ يَحْكِي كَوَكْبَ الْفَلَكِ

☆ تیرے پروردگار نے بہت سی مصیبتوں میں تیری کفایت کی، ان مصیبتوں سے ایسے حفاظت کی جیسے کمین گاہ میں لشکر سے کوئی بچ جائے۔

☆ یہ مصیبت مشابہہ ہے ایسی جماعت سے، جو ہتھیار سے لیس یا نیزہ بردار ہو، جیسے کہ مضبوط، جوان، موٹا تازہ اونٹ۔

☆ رب عزوجل کفایت کرے اس چیز کی جو میرے ساتھ ہے، میرے علم کے مطابق، تمام رنج اور مصیبتوں سے، اے ستارے تو ثبات اور بقائے روشنی میں آسمانی ستارے کی طرح ہے۔

(حضور غوث اعظمؒ)

نصاب عشق

الحمد لله على كامل نعمائه وصلوة وسلام على سيد انبيائه

وعلى آله واصحابه واوليائه.

حضور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ نے ہی کرۂ ارض پر تبلیغ و اشاعتِ اسلام کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ لیکن برصغیر پاک و ہند بطور خاص ان اللہ والوں کی اسلامی خدمات کا رہن کرم ہے۔ بتکدہ ہند کے اندھیرے میں نورِ اسلام کو پھیلانے والے یہ عباد الرحمن ظالم حکمرانوں کی مخالفت کے باوجود اعلائے کلمۂ حق کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی صداقت اور اخلاص کی برکت سے لوگ جوق در جوق دامنِ اسلام سے یوں وابستہ ہوئے کہ اپنی زندگیاں دین کیلئے وقف کر دیں۔ فاتحین اہل ہند کا مال و زر لوٹ کر جاتے رہے لیکن یہ نفوسِ قدسیہ ان کے دلوں میں گھر کرتے رہے۔ صوفیاء کی

خانقاہیں ہمیشہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور امنِ عالم کی علمبردار رہی ہیں۔ ان کی اصلاحی سرگرمیاں، رواداری، محبت اور اخلاقِ تمام انسانیت کیلئے سود مند تھا گویا ان کا معیار تھا۔

آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفست

با دوستان تطف ، با دشمنان مدارا

(فلاحِ دو جہاں کی تفسیر انہی دو حرفوں میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ مہربانی

اور دشمنوں سے خاطر مدارات سے پیش آنا)

اہل اللہ کی محبت سے اہل ہند کے دلوں میں عشقِ الہی کے چشمے جاری ہو گئے

اور مندروں میں بھجن گانے والے اب ذکرِ الہی کی لذت میں سرشار رہنے لگے۔ اللہ کی یاد نے
عافلوں کو شاغل اور ناقصوں کو کامل بنا دیا۔

ہر گدا را ذکر او سلطان کند

ذکر او بس زیورِ ایماں بود

(ہر گدا کو اس کے ذکر نے سلطان بنا دیا، کیونکہ اس کا ذکر ہی ایمان کا زیور ہے)

ہر کہ دیوانہ بود در ذکرِ حق

زیر پائش عرش و کرسی ہر طبق

(جو کوئی ذکرِ حق میں دیوانہ ہو گیا اس کے زیرِ پا عرش و کرسی اور سارے آسمان ہو گئے)

ذکرِ الہی سرمایہٴ حیات ہے۔ زندگی اصل وہی ہے جو یادِ محبوب میں بسر ہو جائے اور

جو لحظاتِ یادِ الہی سے غفلت میں گزریں وہ فانی و بے معنی ہیں۔ قلبِ انسانی جب تک ذکر کی

لذتوں سے آشنا نہیں ہو جاتا مضمحل و مضطرب رہتا ہے۔ حوادثِ زمانہ کے طوفانوں کے

تھپیڑے اُسے نحس و خاشاک کی طرح اڑاتے پھرتے ہیں۔ جب انسانی جسم کا مرکز و محور

(دل) ہی بے کیف و بے سرور و پشمرده ہو جائے تو باقی اعضاء کو دولت سکون کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں فکرِ انسانی پریشانی کا شکار ہو کر خُدا و صلاحیتوں کو کھو بیٹھتی ہے حتیٰ کہ زندگی کی شام کو سوائے حسرت و یاس..... اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جن بزرگ ہستیوں کے دل عشقِ الہی کے انگاروں سے دہکتے رہتے ہیں۔ منزل کا تعین اور اسکی طرف عزمِ صمیم کے ساتھ پیش قدمی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یادِ محبوب کے شعلے حصولِ نصب العین میں ان کیلئے مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں بار بار انسان کو ذکرِ الہی کی جانب رغبت دلائی گئی ہے اور غفلت و کاہلی کی عمیق گہرائیوں سے نکلنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دلکش اور اچھوتے انداز میں اپنے کلام میں ارشاد فرمایا۔
 فاذکروانی اذکرکم واشکروالی ولا تکفرون۔ ”تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، کس قدر محبت اور پیار کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ بھلا مقدر کی یاوری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ کا رب ﷻ خود اسے یاد کرے۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا خدا مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ دریافت کیا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جواب دیا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔“

لیکن خداوند کریم نے صرف یاد کرنے کو ہی کافی نہیں فرمایا بلکہ قبولیتِ دعا و مددِ ا کا مژدہ جانفزا بھی سنا دیا۔ اَدْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ ”تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا“ مزید تھوڑا بہت ذکر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرتِ ذکر کا بار بار حکم فرمایا ہے

تاکہ کوئی سانس اور لمحہ حیات یادِ الہی کے بغیر نہ گزرنے پائے۔ کہیں صبح و شام کا ذکر تو کہیں اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی ذکر کا فرمان ہو جب عالم خواب میں دنیا مست ہو تو راتوں کو جاگ کر نزم بستروں کو چھوڑ کر محبوب حقیقی کے ذکر و فکر میں محو و بے خود ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ کسی عارف کامل نے کیا خوب کہا ہے:

اوقات ہماں بود کہ با یار بسر شد

باقی ہمہ بے حاصلی وی خردی بود

(زندگی کے قیمتی لمحات تو وہی تھے جو یادِ الہی میں بسر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا

وہ بے فائدہ اور نادانی تھا)

ذکر اذکار و وظائف اور ذوق عبادت خالق دو جہاں کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ مولا کریم کی اس عنایت بے پایاں کے ثمرات اس وقت حاصل ہونگے جب سجدہ ہائے نیاز قیام و رکوع کے گداز اور وظائف و ازکار میں حق ﷺ کی محبت اور عشق رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلاوت شامل ہوگی۔ اسلام کا نظام عبادت کبھی رہبانیت کا درس نہیں دیتا بلکہ اس کے پیش نظر ایسے کردار کی تخلیق ہے جو جذبہ عمل سے مزین اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کی ضامن ہو۔ بزرگان دین نے وظائف و اشغال کو جہاں اپنے مریدین کے سینوں میں محفوظ کیا، ساتھ ہی تحریری صورت میں بھی ڈھال دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان اوراد سے فیضیاب ہو سکیں۔ زیر نظر کتاب ”ہدایۃ المریدین و ارشاد السالکین“ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ قادر یہ خاندان کے ایک مہر درخشاں اور نیر تاباں مخدوم الکمل حضرت سید جمال الدین موسیٰ گیلانی المعروف موسیٰ پاک شہید ملتانی نور اللہ تعالیٰ مرقدہ کے وظائف و اشغال اور اذکار و اوراد کا مجموعہ ہے جو کتب معتبرہ اور ثقہ روایات کے ساتھ نسل

ورنسل حضور غوث الثقلین سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور آپ کے اخلافِ مکرمین کے معمولاتِ شریفہ میں سے ہیں۔ حدیثِ پاک میں ہے ”کل اناء یترشح بما فیہ“۔ ”ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے“۔

یہ کتاب ہمارے سلسلہ طریقت میں ایک ”تربتی نصاب“ اور ”دستور العمل“ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ایک طرف محبتِ الہی کے زمزمے ہیں تو دوسری طرف عشقِ رسول ﷺ کے نغمے روح کی تازگی کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ اہل طریقت کے لیے یہ ایک سنگِ میل سے کم نہیں۔ اس میں درج تمام عبادات و نوافل، ادعیہ و اذکار جو مشائخِ قادر یہ کے معمولات میں رہے، لہذا متوسلین سلسلہ کیلئے اس سے بڑھ کر پیرانِ عظام کا تبرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ یہ اعمال و اشغال مردہ دلوں کیلئے اکسیر ہیں۔ اللہ والوں کے اُوراد کا ایک ایک حرف اپنے اندر عرفان و آگہی کا بحرِ بے کنار رکھتا ہے۔ یہ ان اکابر امت کے معمولات ہیں جو علمِ نبوت کے وارث تھے۔ یہ قال نہیں، اہل حال کا وظیفہ جاں ہے۔ اہل خرد کو کیا معلوم، ان کی عظمت کا اندازہ کوئی اہل نظر ہی لگا سکتا ہے۔

الحمد لله ثم الحمد لله! مشفق و مہربان من حضرت سید بشیر الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی طویل جدوجہد اور سعی پیہم کا ثمرہ اور برادرِ مکرم حضرت سید سید علی ثانی گیلانی مد اللہ تعالیٰ ظلہ العالی بالصحة والسلامة کی ترتیب و تدوین اور تحقیق کا ایک خوبصورت گلدستہ یارانِ شریعت و طریقت کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ثانی کی وسعتِ علمی، بالغِ نظری اور تحقیقی معیار کسی تقریب یا تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ کریم نے انہیں بڑی فیاضی کے ساتھ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اپنے مشائخ و اسلافِ رحمة اللہ تعالیٰ علیہم کی خدمت کا جذبہ ان کے خمیر میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس راہ میں ان کی

بے پناہ مصروفیت، نفیس طبیعت، اپنوں کی بے رخی اور حوصلہ شکنی..... کبھی ان کے پائے استقلال کو لرزاں نہیں کر سکی یہ ”وفاداری بشرط استواری“ کے جذبے سے چلے جا رہے ہیں۔
 میں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات و خدمات کو منظر عام پر لانے کی جو تڑپ ان میں دیکھی ہے وہ قابل رشک ہے۔ خاندان گیلانیہ قادریہ شیخو شریف میں اس وقت ان کا وجود غنیمت ہے۔ مولیٰ عجل ان کا یہ شوق فراواں اور جذب دروں ہمیشہ سلامت با کرامت باحفاظت رکھے تاکہ سلسلہ شریف کی خدمت کا یہ قافلہ یونہی رواں دواں رہے۔

فجزاه المولى تعالىٰ عنا وعن سائر المسلمين بحق طه و يسين

آمین یارب العالمین

یہ کس کے ذکر سے روشن ہے گفتگو کا چراغ
 یہ کس کے عشق سے باقی ہے داستاں کا وجود

خاک راہ صاحب دلاں

پیر محمد طاہر حسین قادری غفرلہ

5 دسمبر 2011ء / 9 محرم الحرام 1433ھ

خانقاہ منگانی شریف، ضلع جھنگ

128454

نُطقِ اوّل

اسلام کی ترویج میں سادات گیلانیہ نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، زہد و عبادت اور مجاہدہ نفس میں بھی سلسلہ قادریہ تمام سلاسل سے مشکل ہے۔ سلسلہ قادریہ میں اوراد و وظائف میں بڑی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ انسانی جسم خاک کی اور فانی ہے لیکن روح ابدی اور لافانی ہے۔ ذکر خدا تعالیٰ سے روح کو لطیف سے لطیف بنایا جاتا ہے۔ رات کے وظائف، تہجد کے وقت اوراد، اور دعائیں کرنا سلسلہ قادریہ کا معمول ہے۔ ایک شیخ جب مرید کو ان مراحل سے گزارتا ہے تو روح کی کثافتوں کو جُہد اور مجاہدہ ہی سے دور کرتا ہے۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید گیلانی ملتانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی زیر نظر کتاب شاغلین کیلئے آسان کی گئی ہے اور مریدین کی تربیت و راہنمائی ہی کے لیے ہے۔ اس میں شب بیداری، قیام تہجد اور اسماء غوث اعظم ﷺ کا ورد، عبادت کرنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہے۔

علم تصوف اور صوفیاء کی شب بیداری اور وظائف بے معنی ہو جاتے ہیں اگر خلوص نیت نہ ہو..... اور اذو وظائف اور شب بیداری، روح کو لطیف نہیں کرتے، نماز تہجد اور مراقبے روحانی معراج کا ذریعہ بالکل نہیں بنتے، جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو:

یہ حکمت نکلوتی، یہ علم لاہوتی
 حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور
 تری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
 دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

انسانی روح کی طلب اپنی اصل میں واصل ہونے میں ہے، روح خدا تعالیٰ کا امر ہے اور اس کے متعلق جاننے کیلئے عقل اور شعور بے بس اور عاجز ہیں، روح کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہے اسی وجہ سے دانشوروں اور عقل مندوں نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہ کہہ کر مخلوق پر کم علمی کی مہر ثبت کر دی ہے ”تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے“۔

اسی طرح ایک گروہ نے پوچھا، روح بدن میں داخل ہے یا خارج، متصل ہے یا منفصل؟ امام غزالی نے جواباً کہا: ”روح نہ تو بدن میں داخل ہے نہ خارج، نہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل کیونکہ یہ صفات جسم سے متعلق ہیں اور روح جسم نہیں۔“

حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی

سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری!

حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اپنی کتاب ”راہ و رسم منزلہا“ میں روح سے متعلق کچھ اس طرح فرماتے ہیں: ”جب روح کے متعلق مکان معلوم نہیں کہ جسم کے کس مخصوص حصے میں اس کا قیام ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کیفیت اور مکانیت سے برتر اور پاک ہے۔ لہذا وہ مکان اور کیفیت سے موصوف نہیں بلکہ روح جسم میں اس طرح موجود ہے کہ اس سے جسم کی کوئی شے خالی نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے، کوئی مکان اس سے خالی نہیں اور ساتھ ہی وہ زمان و مکاں سے منزہ بھی ہے۔“

مولانا روم فرماتے ہیں:

اتصالِ بے تکلیف بے قیاس

ہست رب الناس را باجان ناس

”رب العالمین کا مخلوق کی جان سے ایسا اتصال ہے، جو قیاس اور کیف و کم کے پیمانوں میں نہیں تو لا جا سکتا۔“

حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی ؒ کے متعلق روایات میں ہے، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں وجود ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ یعنی اس کی نشاندہی کی جائے۔ آپ ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے ارشاد فرمایا پہلے تم اپنے جسم میں موجود روح کی نشاندہی کرو کہ وہ کس عضو میں موجود ہے اور کس میں نہیں۔ کہنے لگا کہ روح تو پورے جسم انسانی میں موجود ہوتی ہے، مگر کسی عضو میں اس کے وجود کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح خالق کائنات، کائنات میں موجود ہے، مگر کسی شے اور مقام میں اس کا تعین اور نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔

گویا بقول بابا فغانی شیرازی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾:

مشکل حکایتیست کہ ہر ذرہ عین اوست

اما نمی توان کہ اشارت بہ او کنند

روح انسانی جو اپنی اصل سرشت کے لحاظ سے ایک لطیف و نورانی مخلوق ہے اسکا اصل مقام عالم ارواح ہے۔ جہاں وہ خدائے متعال کی محبت اور ذکر و فکر کی سعادت سے بہرہ ور تھی اور تمام روحانی معائب اور اخلاقی رذائل سے پاک تھی جن کا گھر ناسوت یعنی عالم اجسام ہے لیکن جب وہ بمشیت خداوندی جسم عنصری سے متعلق ہو کر عالم اجسام میں آئی تو یہ لازمی امر تھا کہ اس کی ان سابقہ سعادات میں کمی آجائے جو عالم ارواح میں اسے میسر تھیں۔ بغض و نفاق، نزاع و فساد، تکبر و کینہ وغیرہ جو کہ عالم سفلی سے ہیں اور یہ ایک بدترین نقصان و خسران کی حالت ہے، جس کو عوام کی ارواح محسوس نہیں کرتیں، جو کہ اپنے مشاغل کی مستی میں غافل ہیں۔ لیکن جو قلب بصیر اور نفس عبرت گیر رکھتا ہے یا پیر کامل کی تربیت نے اس کے دل سے حجاب غفلت اٹھا دیا ہے۔ اس کی روح تڑپتی ہے کہ وہ کس اعلیٰ مقام سے تنزل کر کے کس ادنیٰ عالم میں اتر آئی ہے اور کیسی کیسی سعادتوں سے محروم ہو گئی ہے اور کیسی آلودگیوں میں گھر گئی ہے۔ ایسی روح لطیف اور پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ اپنے مقام کو محسوس کر کے دست تا سف ملتی ہے اور روتی ہے:

طائر گلشن قدسم چہ دہم شرح فراق

کہ درین دا مگہ حادثہ چون افتادم

(حافظ شیرازی)

لسان العصر سید اکبر الہ آبادی اسی موضوع کے متعلق کچھ اس طرح فرماتے ہیں:

کچھ نہ پوچھاے ہم نشین میرا نشین تھا کہاں؟
اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں؟

سید محمد موسیٰ پاک شہید ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے اپنی اس کتاب میں مریدین کی تربیت، اور ادو وظائف، مجاہدہ اور ریاضت کرنے کے طریق بتائے ہیں، جس سے روح لطیف تر ہو جاتی ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگنا، نوافل پڑھنے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور لیٹتے اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرنا مشروط ہے: الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحنک فقنا عذاب النار۔ (ال عمران)

”جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔“

مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔ حضرت سید علی ہجویری ؒ داتا گنج بخش ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اپنی کتاب کشف المحجوب میں نفس کے متعلق فرماتے ہیں: ”نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے حیات اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ سب برے اخلاق اور مذموم افعال کا سبب نفس ہے۔ نفس اور روح دونوں قالب انسانی میں نہایت نازک چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں جیسے کائنات میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ۔ نفس کے خلاف چلنا سب عادتوں سے بالاتر ہے اور سب مجاہدوں کا نقطہ کمال ہے۔ مخالفت نفس کے بغیر راہ حق دستیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت باعث ہلاکت اور اس کی مخالفت وجہ

نجات ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے مخالفتِ نفس کا حکم دیا ہے۔ نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ (النازعات)

”ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔“

انسانی عقل عاجز ہے، وہ امورِ خداوندی پر بحث نہیں کر سکتی جب تک کہ فضلِ خداوندی نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفسِ انسانی کو تین نام دیئے ہیں۔ نفسِ امارہ، نفسِ لوامہ، نفسِ مطمئنہ

”وَمَا اَبْرَىٰ نَفْسِي، اِنَّ النَّفْسَ لَاطْمِرَةٌ بِالسَّوْءِ اِلَّا مَرَحِمُ رَبِّي، اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ“

”میں اپنے نفس (کے شر) سے بری نہیں۔ بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔“

نفسِ امارہ جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اسے اگر حضرت یوسف عليه السلام کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور کسرِ نفسی کے ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی اور اگر یہ عزیزۃ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے) تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف عليه السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ یہ تو اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اسکی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی نفس کی

شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ نفس کے وسوسے تو قرآن مجید سے ثابت ہیں، سورہ ق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ“

”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا نفس جو وسوسے ڈالتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔“

قرآن مجید نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے:

”وَلَا اقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ“ (القیمة)

”اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔“

نفس لوامہ بھلائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں تاہم آخرت میں تو سب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔ اور تیسرے درجے کا نفس جس کو اپنی طرف جنت کی خوش خبری دیتے ہوئے دعوت دی ہے اور اسے مطمئن نفس کہا ہے یعنی بڑے اطمینان والا نفس اور یہی کامل ترین نفس ہے جو شیخ کی نظر سے اور مجاہدہ و ریاضت سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے اسے دنیاوی غلاظتوں اور کثافتوں کی بے چینی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) کر کے اطمینان حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے۔

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً“

”فادخلی فی عبدی، وادخلی جنتی“

”اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں جا“۔

اپنی ذات کو پہچاننا یعنی اپنے نفس سے واقف ہونا اور پھر اپنے رب سے واصل ہونا، یہ راستہ صرف شیخ کی نظر سے طے کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔ حضور ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی بہبود و فلاح مقصود ہوتی ہے تو وہ اس کو نفس کے عیب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ کشف المحجوب میں نقل ہے حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا: اے داؤد.....! ”اپنے نفس سے عداوت کر، میری دوستی اس کی عداوت میں ہے“۔ عرفان ذات ضروری ہے کیونکہ جو اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو حادث دیکھ کر حق تعالیٰ کو قدیم دیکھ سکے اور اپنی فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے۔ نص قرآنی اس پر شاہد ہے کہ حق تعالیٰ نے کفار کو اپنی ذات کی جہالت میں مبتلا کیا اور فرمایا ”ومن یرغب عن ملة ابراهيم الا من سفہ نفسه“۔ ”ابراہیم کی ملت سے وہ دستبردار ہوتا ہے جو اپنے نفس سے بے خبر ہے“۔ ایک شیخ کامل نے فرمایا: جو اپنے نفس سے بے خبر ہو وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔ طالبان درگاہ حق کیلئے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں تاکہ روح و عقل کو معاونت ملے۔

خوننابہ دل خور کہ شرابی بہ ازین نیست

دندان بہ جگرزن کہ کبابی بہ ازین نیست

درکنز و ہدایہ نقوان یافت خدا را
در صفحہ دل بین کہ کتابی بہ ازین نیست

(عبدالرحمن جامی)

”دل کا خون پیو کہ اس سے بڑھ کر شراب نہیں۔ اپنے جگر کو کھاؤ کہ اس سے بڑھ کر
کباب نہیں کنز و ہدایہ میں خدا تعالیٰ کو نہیں پاسکتا بلکہ اپنے دل کے صفحہ کو پڑھو کہ اس سے بڑھ کر
کوئی کتاب نہیں۔“

روح کی لطافت، نفس کی پاکیزگی و طہارت، روحانی معراج اور عرفان ذات شیخ
کی نظر سے حاصل ہوتا ہے اور پھر ان سارے مقامات کی کاملیت بلاشبہ حضرت پیران پیر سید
عبدالقادر گیلانی، غوث صمدانی، شہباز لامکانی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے حاصل ہوتی ہے۔ تمام سلاسل
غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ ہیں۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری
رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہِ غوثیت میں عرض کیا، حضرت مجھے عراق کی ولایت عنایت فرمادیجئے میرے لیے
یہ بڑا مقام ہے۔ جناب سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملک عراق کی ولایت تو میں شیخ
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر چکا ہوں، تمہیں ہندوستان کی ولایت مرحمت فرماتا ہوں
(یہ سب میرے پروردگار کا کرم ہے) لہذا آپ کو سلطان ہند کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
ثابت ہوا کہ جب تک سلسلہ قادریہ کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر نہ ہو ولایت کا
درجہ ہی نہیں دیا جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو خدائے متعال نے بے شمار
انعامات سے نوازا ہے۔

”عطانی رفعة نلت المنالی“

بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کو ہی بارگاہِ صمدیت میں اک خاص مقام حاصل ہے۔

”حیات الامیر“ معروف بہ محمد غوث بالا پیر گیلانی مؤلف سید افضل حسین گیلانی نے ایک واقعہ کچھ اس طرح رقم کیا ہے:

”حضرت محمد غوث بالا پیر ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے ایک محفل میں فرمایا: ”کہ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے انتہائی کٹھن اور مشکل مجاہدات میں انتہا وقت صرف کیا اگر فقیر اس دور میں ہوتا تو ان کو اس قدر مشکلات کا سامنا نہ کرنے دیتا ”ہو“ کی ایک ہی ضرب سے ”مقام قرب“ تک پہنچا دیتا“، (بابا فرید صاحب ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ والا کنواں آج بھی اچ میں موجود ہے) یہ فرمان سن کر حاضرین دم بخود ہو کر غوث الثقلین ؒ کے پوتے کی شان جلالت ملاحظہ کر رہے تھے۔ جس کا فرمان ہے:

انا الحسنی والمخدع مقامی
واقدامی علی عنق الرجال

ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں
فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق!

پیر سید مہر علی شاہ گیلانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے ایک محفل میں سیدنا غوث الاعظم ؒ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی شان بے پایاں کا ذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ بعض سجادہ نشین حضرات کو جناب غوث پاک ؒ کا ارشاد قد می ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ (میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے) اپنے سلسلہ کے اکابرین مشائخ مثل خواجہ بزرگ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ اور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ وغیر ہم کے متعلق گراں گزرتا ہے اس لیے وہ حضرات محبوب سبحانی کے اس قول مبارک کے متعلق

مختلف تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ اس سے ان کا منشاء اپنے مشائخ سلسلہ کی تعظیم اور کمال محبت ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انصاف کرنا چاہیے، یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے کہ جب یہ کلمہ حالیہ حضور ﷺ سے صادر ہوا تھا اس وقت سعید میں حضرت خواجہ جمیری ﷺ ایک پہاڑ پر یاد الہی میں مشغول تھے۔ آپ ﷺ نے جب غیب سے یہ کلمہ اپنے گوش ہوش سے سنا تو بہ ادب تمام آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: علی راسی وعینی ”میرے سر آنکھوں پر“۔ بعض حضرات سیدنا غوث اعظم ﷺ اور حضور غریب نواز جمیری ﷺ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بلکہ ہم عصر ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ سلسلہ صابر یہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت شیخ محمد اکرم صابری ﷺ نے اپنی مشہور کتاب ”اقتباس الانوار“ میں حضور غریب نواز جمیری ﷺ رحمۃ اللہ علیہ کی حضور غوث اعظم ﷺ سے ملاقات اور استفادہ کو محققانہ انداز میں ثابت فرمایا ہے۔

آپ ﷺ کے فیوض و برکات کا سلسلہ وصال کے بعد بھی بدستور جاری ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقام جذب و ولایت کا فاتح اول قرار دیتے ہوئے جناب سیدۃ النساء ﷺ، حسنین شریفین ﷺ، وبقیہ ائمہ اہل بیت کرام ﷺ کو اسی نسبت کے اقطاب، بیان فرما کر سیدنا غوث الاعظم ﷺ کی اس مقام میں ایک خصوصی شان تحریر کی ہے نیز اپنی کتاب ”ہمعات“ میں فرمایا:

”و در اولیائے امت و اصحاب طرق اقوے، کسیکہ بعد تمام راہ جذب باکد وجوہ، بہ اصل این نسبت (اویسیہ) میل کردہ است و در آن جا بوجہ اتم قدم زدہ است، حضرت شیخ محی الدین

عبدالقادر جیلانی اند، ولہذا گفته اند کہ ایشان در قبر خود مثل احیا
تصرف می کنند۔“

”اور امت کے اولیائے عظام میں سے راہ جذب کی تکمیل کے بعد جس شخص نے
کامل و مکمل طور پر اس نسبت اویسیہ کی اصل کی طرف رجوع کر کے وہاں کامل استقامت سے
قدم رکھا ہے وہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آن
جناب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ نے آں جناب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ دور و نزدیک ہر جگہ
یکساں تصرف فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمعصر اور بعد میں آنے والے تمام اولیائے کرام
کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا وسیلہ گبری اور واسطہ عظمیٰ ہیں۔

شیخ عبدالحق بلخی نے اپنی کتاب ”خوارق الاحباب فی
معرفة الاقطاب“ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں
ارشاد فرمایا کہ ڈیڑھ سو سال بعد بخارا میں ایک درویش بہاؤ الدین نامی پیدا ہوگا، جو ہم سے
ایک خاص نعمت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ جب حضرات خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ
نے میدان سلوک میں قدم رکھا تو حضرت خضر علیہ السلام کے اشارے پر حضرت غوث
الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو کر ”الغیاث الغیاث یا محبوب سبحانی“ پکارتے ہوئے
سو گئے اور خواب میں آں جناب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے سرفراز ہوئے۔

”روح المعانی“ میں حضرت مجدد سے نقل ہے کہ قطبیت کبریٰ کا مقام حضرت امام
مہدی علیہ السلام تک جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت کے ساتھ مختص ہے۔ حضرت

شیخ محمد اکرم چشتی، صابری، قدوسی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ "اقتباس الانوار" میں آں جناب کے متعلق لکھتے ہیں کہ: جس کسی کو ظاہری باطنی فیض حاصل ہوا، سیدنا غوث الاعظم ؒ کی وساطت سے ہی ہوا۔ خواہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو۔ کوئی ولی آپ ؒ کی مہر کے بغیر منظور اور معتبر نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے آپ ؒ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام تصرفات کی باگ ڈور آپ ؒ کے ہاتھ میں دے دی ہے، جسے چاہیں کسی منصب ولایت پر مقرر فرمادیں، جسے چاہیں ایک آن میں معزول فرمادیں۔ (ماخذاً از "مہر منیر")۔

اپنی تحریر کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی ؒ کی سیرت، تعلیمات اور کرامت پر کئی دفتر درکار ہیں، خدا تعالیٰ بحق بنی فاطمہ ؑ ساری سانسوں اور لمحات سادات گیلانیہ کی خدمت میں گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔

قبلہ اہل صفا، حضرت غوث الثقلین^{رض}

دستگیر ہمہ جا، حضرت غوث الثقلین^{رض}

مردہ دل گشتہ ام و نام تو محی الدین است

مردہ را زندہ نما، حضرت غوث الثقلین^{رض}

(خواجہ قطب الدین، مختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ)

سرزمین ہند کفر و گمراہی کا مرکز و منبع تھی۔ ہر زمانے میں دین مبین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے اولیائے عظام بالخصوص سادات گرامی آتے رہے اور نور اسلام سے اس کفرستان کو ہدایت و روشنی سے مستفید کرتے رہے۔ سید علی ہجویری داتا گنج بخش ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اور خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اس خوبصورت کڑی کے نگینے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں تقریباً تمام سلاسل تبلیغ اسلام میں مشغول رہے۔ سلسلہ

قادر یہ پیش پیش اور نمایاں رہا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی، غوث صمدانی شہباز لامکانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دین اسلام کو زندہ کرنے والے تھے۔ دین اسلام کو زندہ و تابندہ کرنے میں آپ کے بعد آپ کی اولاد امجاد بھی بڑا نمایاں کردار انجام دیتی رہی ہے۔ پاک و ہند میں تقریباً سب سے پہلے سلسلہ قادر یہ کے قطب الاقطاب بندگی سید محمد غوث گیلانی حلبی اوچی رحمۃ اللہ علیہ اشاعت اسلام کیلئے وارد ہوئے تھے۔ آپ عالم شباب میں ہی عرب و عجم اور ترکستان و خراسان کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان میں وارد ہوئے اور لاہور کے محلہ کوفت گراں میں مقیم رہے۔ اسلام کی اشاعت و ترویج کیلئے یہاں مسجد تعمیر کرائی، پھر ناگور تشریف لے گئے اور وہاں مختصر قیام کے بعد حلب واپس تشریف لے گئے۔ دوبارہ اُچ شریف وارد ہوئے اور مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کا وصال عہد سکندر لودھی میں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ خاندان سادات کے عہد میں یا خاندان لودھی کے اوائل میں تشریف لائے ہوں۔ مزار پر انوار اچ شریف میں ہے۔

سیدنا محمد غوث حلبی اچوی رحمۃ اللہ علیہ کے چار بیٹے تھے۔ ان میں ایک لا ولد باقی تینوں کی اولاد تھی۔ بڑے صاحبزادے سید عبدالقادر ثانی گیلانی اچوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا اسم گرامی سید زین العابدین اور دوسرے سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید زین العابدین کے بڑے مشہور و معروف صاحبزادے سید محمد غوث بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ (م: جمعرات ۵ شوال ۹۵۹ھ) کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار ستگھرہ ضلع اوکاڑہ کے نواح میں ہے آپ بڑے صاحب کرامات ولی اللہ تھے۔ دریائے راوی، گنجی بار کا علاقہ آپ ہی کے فیض سے مستفیض ہے۔ سید عبدالرزاق گیلانی کے بیٹے سید حامد جہاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام سید عبدالقادر ثالث

(رحمتہ اللہ علیہ) اور دوسرے سید ابوالحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ ملتانی تھے۔ آپ کا نام سید محمد موسیٰ گیلانی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ اور کنیت ابوالحسن تھی۔ آپ کی پیدائش مردم خیز خطہ اچ شریف میں ۹۵۲ھ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب بارہ واسطوں سے سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ سے جا ملتا ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

سید ابوالحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید حامد جہاں گنج بخش ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید عبدالرزاق گیلانی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید عبدالقادر ثانی گیلانی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید محمد غوث حلبی اچوی گیلانی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید شمس الدین محمد گیلانی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید محمد شاہ میر ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن شیخ سید علی ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن شیخ سید مسعود ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن شیخ سید احمد ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید ابونصر صفی الدین عبدالسلام ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سید سیف الدین عبدالوہاب ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ بن سیدنا غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر گیلانی غوث صمدانی۔ رضوان اللہ علیہم

ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید حامد گنج بخش ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ سے حاصل کی جو علوم ظاہری و باطنی سے لبریز تھے۔ آپ نے اپنے شاگرد رشید کو علم نافع سے سرفراز فرمایا۔ آپ نے شرعی تدریس اور سلوک کے مدارج بھی انہی سے حاصل کیے۔ حفظ قرآن، علم التفسیر و الحدیث، فقہ، صرف و نحو، تجوید اور کافیہ وغیرہ بچپن ہی میں نہایت قلیل عرصہ میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی کیونکہ حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہید ﴿رحمتہ اللہ علیہ﴾ کو قدرت نے بہت ہی اعلیٰ جبلی خصوصیات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ابھی علم ظاہری کی منزلیں طے کر ہی رہے تھے کہ آپ کو حقیقت اور روحانیت کی طرف ایک خاص رغبت ہو گئی تھی۔ کثرت سے تلاوت قرآن ذکر و فکر اور شب بیداری کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی کسی کامل

و کمل ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کیلئے مضطرب و بیقرار ہونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ: ”آخر کار خلاق عالم نے میری عقدہ کشائی کی کہ مجھے والد گرامی نے ایک دن بحالت ذوق فرمایا کہ آؤ جو فیض مجھے دست بدست حضرت جدِ اعلیٰ سید عبدالقادر جیلانی غوثِ صمدانی سے ملا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ دراز کرو۔ میں نے خوشی سے اپنا ہاتھ والد گرامی کے دست تصرف میں دے دیا۔ بوقت دستگیری فرمایا کہ جو کچھ کرو گے وہ نقد بہ نقد حاصل ہوگا۔ شریعت و طریقت کو ملحوظ رکھنا۔“

حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہیدِ خود اپنے والد گرامی اور شیخ طریقت کا انداز تربیت کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: صبح کی نماز کے بعد والد گرامی مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وظائف پڑھواتے اور ذکر جہر بطور قاعدہ قادری کرواتے تھے۔ میں ابھی نو سال کا تھا کہ آپ نے مجھے بعض اسماء الہیہ اور ادعیہ مسنونہ کی تلقین بھی لگی تھی اور میں نے کبھی بھی اس وظیفہ کو ترک نہیں کیا۔ تلاوت کلام پاک و ذکر طیبہ شوق سے کرتا، ذکر کی کثرت اور شوق کا یہ عالم تھا کہ کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی، والدہ محترمہ نے والد گرامی کو بتایا کہ ذکر خدا تعالیٰ میں کھانے تک کی پروہ نہیں کرتے اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میں ہر وقت قبلہ والد گرامی کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ ایک بار والد صاحب نے میری یہ کیفیت اور ریاضت دیکھ کر فرمایا: ”باہرا نود شود کہ از دوستان حق شوی“۔ بابا! جلد وہ وقت آئے گا کہ تمہارا شمار اولیائے حق میں ہوگا۔“

راہ طریقت اور سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے بہت سے صوفیاء متزلزل اور لڑکھڑا جاتے ہیں۔ شیخ کامل کی نظر اور توجہ کے بغیر یہ راستہ بڑا کٹھن اور مشکل ہے۔

بہ می سجاوہ رنگیں کن گرت پیر مغان گوید

کہ سالک ہی خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہید ملتانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اپنے اسلاف کے نقش قدم

پر چلتے ہوئے راہ طریقت میں پہلے اپنے جد امجد حضرت شیخ سید عبدالرزاق گیلانی ﴿رحمۃ اللہ

علیہ﴾ سے اکتساب فیض کیا بعد ازاں سلوک و طریقت کی تمام منازل اپنے شیخ و مربی

و والد گرامی کی براہ راست نگرانی میں طے کیں۔ سلوک و معرفت میں مقامات بلند اور مدارج

ارجمند حاصل کر کے جمال الدین ابوالحسن کا خطاب پایا تھا۔ عبادت و ریاضت اور ارشاد و

ہدایت میں یگانہ روزگار تھے۔

حضرت سید ابوالحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی ملتانی کا شجرہ نسب

ہی آپ کا شجرہ طریقت بھی ہے۔

حضرت سید محمد موسیٰ پاک ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کو سردار اولیاء، قطب الاقطاب

حضور سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ سے خاص محبت اور روحانی تعلق کی دولت حاصل تھی۔ آپ

ہمیشہ تصور غوثیت مآب میں مگن رہتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے تھے:

”مجھے پیر دستگیر روشن ضمیر سید عبدالقادر گیلانی کے شرف زیارت کا بھی فخر حاصل

ہے۔“ اور حضرت غوث الاعظم ﷺ نے فرمایا: ”اب مرید کیا کرو۔“ آپ بڑے صاحب

کشف و کرامات تھے اور شاہی درباروں میں بھی بہ بانگ دہل بات کرتے بلکہ اکبری

دربار میں باقاعدہ اذان دلواتے اور خود جماعت کرواتے اور نماز پڑھتے تھے۔ کسی کو جرأت نہ

ہوتی کہ مداخلت کر سکے۔ حضرت سید محمد موسیٰ ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ شریعت کے معاملے میں اس

قدرت تھے اور اتنے پابند تھے کہ وہ اس معاملے میں پادشاہ کی پروا نہ کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ

کا دین اسلام سے منحرف ہونا اور دین الہی کے نام پر خرافات اور دربار شاہی کے دیگر معاملات جو دین اسلام کی کھلم کھلا دشمنی پر مبنی تھے، کو دیکھ کر بھلا سید موسیٰ پاک شہید ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ جیسا اسلامی غیرت و حمیت کا علمبردار شخص کیوں کر خاموش رہ سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے دربار شاہی کی دین سے بغاوت پر احتجاج بھی کیا۔ دربار میں جب اذان و نماز پر قدغن لگائی گئی تو اس مشکل وقت میں حضرت محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی ہی ذات گرامی تھی جس نے اکبری جاہ و جلال اور شخصی آمرانہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے جب نماز کا وقت آیا تو اکبر بادشاہ کی موجودگی میں بلند آواز سے اذان دے کر دربار میں ہی باجماعت نماز ادا کی۔ آپ کی اس جرأت مندانہ اور بے باک کردار کے سامنے بادشاہ وقت سمیت کسی کو بھی دم مارنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

حضرت شیخ محمد موسیٰ پاک ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ گیلانی ایک مدت تک لشکر شاہی میں اسلام کا بول بالا کرتے رہے اور کئی شہر نشینوں کو اس بادیہ پیمایا کی بدولت روحانی تازگی اور استقامت نصیب ہوئی۔ آپ کچھ عرصہ دکن، فتح پور سیکری اور آگرہ میں رہنے کے بعد دہلی آ گئے۔ جہاں ۶ شوال المکرم ۹۸۵ ہجری قمری کو امام الحدیث حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے آپ کے ہاتھ پر بامر پدری بیت کی۔ دہلی سے آپ مستقل طور پر ملتان تشریف لے آئے۔ ملتان میں آپ کا حلقہ مریدین کافی وسیع ہوا اور بلخ، بخارا، توران، ایران، افغانستان اور ہندوستان تک پہنچ گیا۔ غرض یہ کہ حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہید ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی سعی جمیلہ سے پورے براعظم ایشیاء اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو قابل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔ جب آپ ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ روحانی اشغال میں مصروف تھے۔ عین اسی وقت لنگاہوں نے آپ کے مریدوں کی بستی پر حملہ کر دیا، آپ نے

فرمایا: مجھے اطلاع صحیح ملی ہے یعنی میری رحلت کا وقت آ گیا ہے۔ جو نہی آپ کی سواری کو ڈاکوؤں نے دیکھا تو بھاگ گئے۔ سلطان نامی مرد و لنگاہ نے چھپ کر تیر مارا جو آپ کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ اسی تیر سے جان بر نہ ہو سکے۔ علوم دینیہ کے ماہر، کلام ربانی کے واقف اسرار، طریقت و حقیقت کے دانائے رموز، حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہید ۲۳ شعبان المعظم ۱۰۱۰ ہجری قمری کی رات کو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے: ”اناللہ وانا الیہ راجعون“۔ آپ کا مزار اقدس ملتان شریف میں ہے۔ جہاں آپ استراحت فرما رہے ہیں اس کی ایک روحانی کشش ہے جو حضرت پیر سید خواجہ مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت سید محمد موسیٰ پاک شہید کے مزار پاک میں بڑی کشش ہے۔ پہلی بار جب میں ملتان گیا تو پاک دروازہ سے گزرتے وقت اچانک میرا رخ کسی غیبی طاقت نے ایک خانقاہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ سامنے ایک بڑی اونچی ڈیوڑھی تھی اور آگے دالان تھا۔ جہاں ایک مولوی صاحب غیر مقلدوں کی تردید میں تقریر کر رہے تھے مگر دلائل ایسے بودے اور بے سرو پاتھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ سامعین سب کے سب غیر مقلد کیوں نہیں ہو جاتے۔ مگر اس اندرونی کشش نے ہمیں وہاں زیادہ دیر رکھنے نہ دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو حضرت سید جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید کا مزار پاک نظر پڑا۔ جو معلوم ہوا کہ گیلانی النسب ہیں اور یہ اپنے ہی گھرانے اور خاندان کی کشش تھی جو کھینچنے لیے جارہی تھی۔ حضرت ممدوح ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ نے مزار پاک میں سے فرمایا کہ قرابت کا یہ طریق نہیں ہے کہ نزدیک رہتے ہوئے بھی ملاقات نہ کی جائے..... سبحان اللہ!!!

اسکے بعد ہمیشہ پاک پتین جاتے ہوئے، حضرت کے مزار پہ حاضری ضرور دیا کرتے تھے۔

میں جناب پیر سید سید علی ثانی گیلانی حفظہ اللہ تعالیٰ وسلمہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے سلسلہ عالیہ کے قطب اور اپنے اجداد میں سے مہتاب تاب دار حضور سید جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی ملتانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی خوبصورت اور روحانیات سے لبریز، سلسلہ قادر یہ کے وظائف و اوراد پر مشتمل کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے چنا، اس قلمی نسخہ کا مطالعہ کرتے ہوئے انسانی کیفیات پاکیزہ و لطیف ہو جاتی ہیں یہ میرا علمی مشاہدہ ہے، یہ اعزاز جناب صاحبزادہ پیر سید سید علی ثانی گیلانی کو حاصل ہے، میں انہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ خاندان گیلانیہ کا فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور علمی و دینی کاموں میں مزید ترقی دے۔ حال ہی میں ایک کتاب ”انیس المظاہر فی سیرت السید عبدالقادر جیلانی ؒ“ پر حواشی و تعلیقات لکھ کر ”ادارہ صوت ہادی“ سے شائع کروائی ہے۔ جس کی خانقاہوں اور بالخصوص قادر یہ درگاہوں پر بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ کریم سید سید علی ثانی گیلانی دامت برکاتہم کے روحانی مدارج بلند فرمائے اور اپنے جد اعلیٰ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی ؒ کے فیض سرمدی سے ولایت کا بلند مرتبہ نصیب فرمائے آمین ثم آمین۔

دستگیرا کر مہر تو مہر علیؑ تے، تیرے باجھ ہے کون اللہ را سیاں دا

نیاز آ گیس:

پروفیسر محمد شاہ کھگہ،

ننکانہ صاحب

مُقَدِّمَةٌ

اللہ ﷻ کا سپاس گزار ہوں، تمام تحیات و طیبات اور ہر طرح کی تحمید و تجید صرف اسی کو سزاوار ہے۔ جو کل یوم ہو فی شان کے تحت نئے انوار اپنے محبوبین پر منعکس فرماتا ہے، اور کنت کنزاً مخفیاً کے اسرار نہاں اپنے محبوبین پر کھولتا ہے۔ اور کبھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم کے مژدہ جانفزا سے سالکین حق کو نئی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ ہزار ہا درود و سلام اس نبی ہادی ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر، جن کے طفیل کائنات کی حقیقتوں او ماہیتوں کے بھیدوں کو کھولا گیا، جو اس راہ عشق کے اولین مسافر (والنجم اذا ہوی) تھے، ثابت قدمی (ما صاحبکم وما غوی) سے اس راہ کو عبور کیا، صابر و رابط (وما یناطق عن الہوی) رہے، اللہ خالق اور اسکی مخلوق کے درمیان (ان ہو الا وحی یوحی) مخصوص رابطہ فرمایا، اور ان کو ایسے علوم و معارف (علمہ شدید القوی) سے نوازا جو ان کو ایک قوت والی ہستی نے عطا فرمائے تھے۔ تاکہ ان علوم

معارف کے سبب اس رابطے کی بنیاد ”ابد“ آخرت کی کامیابی پر رکھی جاسکے۔

ذکر..... اور ذکر اللہ کائنات کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا بیان ہوگا تو ادھورا رہے گا۔ اس کی کیفیت تو صرف ذاکر ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کسی مجازی معشوق کے عشق میں جب ذاکر کی کیفیت یوں ہو جائے کہ اس کا ذکر آتے ہی دل بھر آئے اور آنکھیں پر نم ہو جائیں

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل

بسقط اللوى بين الدخول فحو مل

تو پھر محبوب حقیقی کے ذکر میں لذت، یگانگت اور وارسی کا عالم کیا ہوگا۔ محبت و محبوب میں کچھ ایسی بھی رمزیں ہوا کرتی ہیں جو کسی تیسرے کے سمجھنے کی نہیں۔

میان عاشق و معشوق رمز نیست

کر اما کاتبین را ہم خبر نیست

اللہ جل جلالہ نے قرآن (جس کو ذکر بھی کہا گیا ہے) اسمیں حکم فرمایا ایہا الذین

امنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً [احزاب: ۴۱] اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔

ذکر کثیراً کی تاکید کسی بھی اہل علم سے مخفی نہیں، اور نہ ہی کثرت کے معنی سے ہی کوئی شخص

ناواقف ہے۔ ایک جگہ اس کیفیت کو یوں واضح کیا گیا: فاذکروا اللہ کذاکرا بئکم أو أشدّ

ذکراً [بقرہ: ۲۰۰] ”پس اللہ کا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی

زیادہ“۔ اور پھر ذاکرین اور ذاکرات کو انعام کا وعدہ دیتے ہوئے فرمایا: والذاکرین اللہ

کثیراً والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجراً عظیماً [احزاب: ۳۰] اللہ کا ذکر کثرت

سے کرنے والوں اور کرنے والیوں کیلئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اور دیکھیے کہ ذکر سے رُوگردانی کرنے والوں کیلئے کتنی سخت وعید فرمائی: ومن

يعش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطنا فهو له قرين [زخرف: ۳۶] کہ ”جو جان بوجھ کر
 رحمن کے ذکر سے منہ پھیرے، ہم اس پر ایک شیطان کو چمٹا دیتے ہیں جو اسکا (ہر وقت
 کا) ساتھی بن کر رہ جاتا ہے۔“ قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو، آپ نے ایسے کئی
 بد نصیبوں کی زندگیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہوگا جو چلتے پھرتے شیطان کی ساتھی بن چکے ہیں
 اور انکی زندگی میں کہیں خیر کی کوئی روشنی نہیں۔ الامان!! یہ ذکر سے دوری کی دنیاوی سزا ہے اور
 جو آخرت میں دی جائے گی وہ بھی ملاحظہ کریں: ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة
 ضنكا و نحسره يوم القيمة اعمى O قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت
 بصيرا O قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها ج و كذلك اليوم تنسى O

[طہ: ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۶]

”جس نے میرے ذکر سے اعراض (گریز) کیا اس پر اسکی زندگی (روزی) تنگ
 کر دی جائے گی، اور ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا کہ میرے رب تو
 نے مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں تو بینا تھا.....؟ فرمایا: کہ یہ اس لئے ہے کہ تیرے پاس ہماری
 آیات آئیں پس تو نے ان کو بھلا دیا، اسی لئے آج تم بھلا دیے گئے ہو۔“

فضل ذکر و حمد میں ایک حدیث قدسی بھی ملاحظہ کیجئے: کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں
 ایک بندہ جب یہ کہتا ہے یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم
 سلطانك (تو فرشتے یہ سن کر عاجز ہو جاتے ہیں نہیں سمجھ پاتے کہ کیا اجر لکھیں) آسمان کی
 طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب!! تیرے
 بندے نے ایک بات کہی جسے ہم نہیں سمجھ پائے کہ کیا لکھیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے (حالانکہ وہ
 خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا) میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں

کہ وہ کہتا ہے: یارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
اللہ ﷻ فرماتا ہے اسی طرح لکھ لو جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا اس کا اجر میں ہی دوں گا۔
(سنن نسائی، باب فضل الحمدین)

لیجئے جناب.....!! اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ بعض اذکار ایسے ہیں جو قرآن
نہیں مگر ایسا ذکر ہیں کہ فرشتے اس کا اجر لکھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری بات کہ کچھ بندے بھی
ایسے ہیں جو ایسے ایسے ذکر جانتے ہیں جو فرشتے بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انکارب انکے اس
ذکر کا راز فاش کرتا ہے۔ کل کو بروز ملاقات اس کا اجر عطا فرمائے گا، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا
نہ کسی کان نے سنا۔

ذکر پہ اتنی گفتگو صرف اسی وجہ سے تھی کہ زیر نظر کتاب ”ذکر اللہ“ کے مندرجات پر
ہی مشتمل ہے۔ اور ایسے ذکر پر جو اللہ ﷻ نے اپنے خاص بندوں کو اپنی خاص رحمت سے
القاء فرمائے ہیں۔



آئیے کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ کتاب کا نام
’ہدایۃ المریدین و ارشاد السالکین‘، جس کو مریدین کی سہولت کیلئے ’تیسیر
الشاغین‘ بھی کہا گیا ہے۔ یہ دو دمان گیلانی نے قادر یہ کے ایک درختوں اور تاباں ستارے
مخدوم سید ابوالحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید گیلانی اچوی ملتانی (رحمۃ اللہ علیہ) کی تحریر کردہ
ہے۔ یہ تمام اوراد و اذکار پر مشتمل ہے، جو حضرت غوث الاسلام و المسلمین، پیران پیر السید
الشیخ عبدالقادر جیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) سے منسوب ہیں۔ جو مبتدی مریدین سے لے کر منتہی سالکین تک،
سب کیلئے ایک نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا آسان لفظوں میں یہ کتاب سلسلہ قادر یہ

کے مریدین و متوسلین کیلئے ایک مکمل نصاب ہے۔



حضرت مخدوم سید محمد غوث اچوی حلبی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ جو حلب سے ترک سکونت کر کے (۸۸۷ھ) میں اوج شریف میں قیام پزیر ہوئے، آپؒ، حضور سیدنا غوث الثقلین الحسنی و الحسینی البجلانی کے فرزند اول سید سیف الدین عبدالوہاب ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی اولاد میں سے ہیں۔ مخدوم اول اُچ، سید محمد غوث ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کے قدوم میمنت لزوم سے نہ صرف اُچ کی کھوئی ہوئی آبرو بحال ہوئی بلکہ کئی تشنہ دامن سالکین راہ حق کی پیاس بھی بجھی۔ آنجناب کی ذات اور آپ کی اولاد امجاد سے پورے برصغیر میں سلسلہ رشد و ہدایت چل نکلا۔ ویسے تو آنجناب کے چاروں صاحبزادے ہی نور علی نور کی مثل صادق تھے، مگر چند خانقاہوں کے فیض نے تو بحر بیکراں کی طرح سارے پاک و ہند کو سیراب کیا۔

حضرت مخدوم کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبدالقادر ثانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی اولاد سے بالخصوص دو ہستیوں نے شہرت دوام حاصل کی، ایک آپکے پوتے سیدنا محمد غوث بالا پیر سنگھروی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اور دوسرے آپکے پڑپوتے سید موسیٰ پاک شہید ملتانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾۔ دوسرے صاحبزادے سید عبداللہ ربانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی اولاد میں سے سید صوفی علی لاہوری ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ اور سید شیخ اسماعیل محدث ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾، سید عبدالقادر شاہ گدا ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾، مرکز علم عرفان تھے۔ تیسرے اور سب سے چھوٹے صاحبزادے سید مبارک حقانی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ سے سلسلہ نوشاہیہ کو شہرت دوام ملی۔ مخدوم اول بڑے صاحب اسلوب شاعر بھی تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ (جو حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید بھی تھے) فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالرحمن جامی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ جیسے نابغہ روزگار بھی

آپ سے اپنے اشعار کی اصلاح کرواتے تھے۔ تہران یونیورسٹی میں آپ کے دیوان ”دیوان قادری“ پر پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کا مقالہ لکھا جا رہا ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب اسلام آباد سے اسکا ترجمہ اور تشریح رقم فرما رہے ہیں۔ ذوق طبع کیلئے دو اشعار ملاحظہ کریں:

زِ جامِ عشقِ سرمستم، دلِ ولیدِ رفتہ از دستم
شدم مست از دولتِ عشقت میسر این قدر مارا
مگر چوبِ قادری نالد جرس در وادیِ فرقت
کہ ساز و سوز او بخشد هوایِ همسفر مارا



اب سنیے اس مخطوطہ اور اسکے ترجمہ کی کہانی۔ سب سے پہلے برادرم طاہر حسین قادری زید مجدہ نے اس کی فوٹو کاپی ارسال کی اور بڑی مسرت سے بتایا کہ جلد ہی سید بشیر الحسن گیلانی آف کالا باغ اس کا ترجمہ بھی شائع کروا رہے ہیں۔ مجھے اکثر اوقات اس کا انتظار رہتا تھا۔ کم و بیش دو ماہ بعد اچانک ایک دن پیر سید بشیر الحسن صاحب کا فون آ گیا۔ میں ایک لمحہ کیلئے ساکت ہو کے رہ گیا، موصوف نے چند محبت بھرے الفاظ میرے سپرد کرنے کے بعد فرمایا کہ دراصل میں اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بصد شوق اس خدمت کی یقین دہانی کروائی۔ فون پہ رابطہ رہا۔ اسی دوران آنجناب نے مسودہ (معہ کمپوزنگ) بھی ارسال کر دیا۔ پھر ایک دن جناب کا فون آیا کہ میں براستہ ملتان ساہیوال پہنچ رہا ہوں، میری خوشی کی انتہا نہ تھی جو کہ اپنوں کو ایک مدت کے بعد ملنے پہ ہوا کرتی ہے اور پھر میری ان سے ملاقات بھی پہلی تھی۔ جناب نے ایک رات قیام ہمارے فرمایا اور

چند قیمتی معلومات کے ساتھ مخطوطہ اور ترجمہ کے جملہ حقوق بھی میرے سپرد فرما دیے۔ آنجناب مخدوم اول سید محمد غوث اچوی کے دوسرے صاحبزادے سید عبداللہ ربانی کی اولاد سے ہیں [۱]۔ اس بات کو چھ ماہ بیت گئے (ان کی کرم فرمائیاں اور میری نالائقیوں کی داستان لمبی ہو جائے گی) بلا تمہید اس مخطوطہ کی کمیابی کی داستان سنئے۔ ورق گردانی کرتے ہوئے چند چیزیں میرے علم میں آئی ہیں جو قارئین کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نسخہ کا سائز ۲۳×۳۶/۱۶ ہے۔ زبان فارسی، اوراد و وظائف تمام تر عربی زبان میں ہیں۔ کل صفحات ۱۶۵ ہیں۔ سیاہ روشنائی سے بقلم جلی لکھا گیا ہے۔ صفحہ کے ارد گرد سیاہ (Black)، سرخ (Red) اور پیلا (Yellow) حاشیہ اسکی زیب و زینت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اس حاشیہ کے باہر مزید و اونچ کا فاصلہ دے کر نیلا (Blue) حاشیہ لگایا گیا ہے، جسکے اندر متن میں رہ جانے والے الفاظ اور اغلاط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صفحہ ۵۳ اور ۵۴ کے مندرجات میں ہم آہنگی نہیں، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے کوئی متن رہ گیا ہو [۲]۔ وہی رہ جانے والا متن اس صفحہ کے حاشیہ میں دیا گیا ہے۔ مخطوط کے آخر میں یہ عبارت نقل ہے۔ ”ایں کتاب در حق ملک سید غلام حسین علی شاہ بن سید عنایت علی شاہ بن سید شاہ محمد غوث گیلانی

[۱] سید بشیر الحسن گیلانی بن سید نذیر حسین بن سید فضل حسین بن سید غلام حسین بن سید عنایت حسین بن سید محمد غوث بن سید صوفی علی بن سید عرب شاہ بن سید حاجی میر بن حضرت اسماعیل محدث بن حاجی پیر قاسم علی بن سید صوفی علی لاہوری بن سید بدرالدین بن سید اسماعیل بن سید عبداللہ ربانی بن سید محمد غوث اچوی حلہی مخدوم اول اچ مبارک۔

[۲] جو ہم نے ایک اور نسخہ کی مدد سے مکمل کیا۔

ایں کتاب بہ یک دعویٰ میکند معظم است بہ شریعت“۔ کاتب کا نام درج نہیں ہے۔ یہ عبارت بعد میں لکھی معلوم پڑتی ہے۔ سید غلام حسین، موصوف سید بشیر الحسن کے پرداد ہیں۔ ایک اہم اور آخری بات وہ یہ کہ ورق گردانی پر اولین صفحات پر ایک مہر نظر پڑی، جس پر ”عبداللہ جیلانے گل گلزاد میرن شاہ ۱۱۸۰“ رقم ہے۔ غور کرنے پر حیرت گم ہو گئی کہ یہ مہر سید میرن شاہ بن سید عبداللہ بن سید اسماعیل محدث ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کی ثبت کردہ ہے۔ یہاں ایک عین ممکن قیاس نے آن جگہ لی کہ کتاب کا خطی نسخہ دراصل سید اسماعیل محدث ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کے کتب خانہ کا ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا کون طالب علم آپ کے نام نامی سے واقف نہیں صاحب ”شفا الصدور“، مدینہ طیبہ میں حدیث شریف کا درس دینے کا شرف حاصل ہے۔ اور حضرت سید سید علی کردی ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ حضور غوث اعظم کی درگاہ کے خلیفہ مجاز سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ بے شمار خلق خدا کی علمی خدمات کے بعد (۱۱۰۷ھ) کو لاہور میں وصال فرمایا، تکیہ اہلی والا نزد خالد بن ولید ہال پنجاب یونیورسٹی لاہور میں آرام فرما ہیں۔ دراصل یہ نسخہ حضرت محدث سے انکے بیٹے سید عبداللہ (م ۱۱۴۱ھ) کو وراثتاً منتقل ہوا پھر اسکے بعد سفر طے کرتا ہوا یادگار اسلاف سید بشیر الحسن گیلانی کے پاس پہنچا۔ جو سید عبداللہ ﴿رحمۃ اللہ علیہ﴾ کے بھائی حاجی میر کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کار عظیم کے صدقے اجر عظیم سے نوازے۔ آمین!

تیسیر الشاغلین اور ہدایۃ المریدین میں فرق

تیسیر الشاغلین اور ہدایۃ المریدین ایک ہی کتاب کے دو

مختلف نام ہیں۔ نام کے فرق کی وجہ ہے، اسکی وضاحت مخطوط کے اوّل میں اس طرح ملتی

ہے: ”عنه مربوطت تیسیراً للشاغلین به بحذف اسناد
تسطیر یافته و مسمی بھدایۃ المریدین و ارشاد
السالکین۔“

اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناموں میں اختلاف کیوں ہے۔ اس کے
باوجود جو تیسیر الشاغلین کا مطبوعہ (۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء) نسخہ میرے زیر مطالعہ ہے، اسناد تو اس
میں بھی حذف ہیں، شاید اس کے اصل مخطوط میں ہوں۔ اگرچہ یہ ایک ہی کتاب ہے مگر ہم
اسے مخطوطہ میں دیے گئے نام سے ہی پکاریں اور شائع کریں گے تاکہ اس مخطوط کی حیثیت
برقرار رہے۔

دوسری اہم بات کہ مضامین اگرچہ ایک جیسے ہی ہیں مگر زبان و بیان اور الفاظ میں
فرق اکثر جگہ پر واقع ہوا ہے مثلاً تیسیر میں ایک عبارت یوں ہے: ومن رغبت
جوارح ارکانہ لخدمتک فاجاب..... تو..... ہدایۃ میں یوں ہے: فاصاب واجعلنا
ممن دعوت جوارح ارکانہ لخدمتہ فاجاب..... بلکہ مخطوط میں تو غلط عبارت دعیت
لکھا گیا ہے۔

ایک دوسری جگہ ملاحظہ کریں:

اول الذکر میں یا لا الہ الا انت جل ربی فقد رحم ربی فہو معین لمن صبر..... اور
مؤخر الذکر میں: یا لا الہ الا انت جل ربی فقد عززنی فقد ہو معین لما صبر ہے۔

ایک جگہ مزید: ”وقد حطت الاجمال اجمالها علی ساحة جناب

قدسک معطرۃ بنسائم نسیمات قریبک وانسک مستجیرۃ بک۔“ (تیسیر الشاغلین)

”وقد حطت الاجمال اجمالها علی جناب قدسک معطرۃ بنسائم

نسیمات قربك وانسك مستجيرة بك“۔ (ہدایت المریدین)

یہاں ہم یہ فیصلہ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ ان میں سے کتابت کے لحاظ سے کون سا نسخہ صحیح اور اغلاط سے پاک ہے۔ دونوں میں ہی کئی جگہ غلط عبارات پائی جاتی ہیں۔ ایک مزید اور اس ضمن میں آخری بات کہ ”ہدایۃ المریدین“ کے نسخہ میں کئی جگہ اوراد و وظائف زیادہ ہیں، جو تیسیر الشاغلین میں نہیں جیسے مسبوعات عشر سے پہلے سورہ بقرہ اور آل عمران سے متعلق جو اوراد ہیں یہ تیسیر کے نسخہ میں نہیں..... بہر حال یہ اختلاف ہم ساتھ ساتھ حاشیہ میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی فیصلہ کن بات بھی یہی ہے کہ ”تیسیر الشاغلین“ کے نسخہ کی نسبت یہ مخطوط، مکمل اور صحیح ہے۔



سید صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کا ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر خالق داد (جو راقم الحروف کے استاذ مکرم بھی ہیں) نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جناب ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی فرمائش پر کیا تھا۔ اس ترجمہ پر کئی بار اس طرح بھی زور آزمائی ہوئی کہ جس نے دیکھا اس کو اپنا بنا لینا چاہا..... حیرت ہے کہ یہ بڑے بڑے شیروں کے نوالے سے بچ نکلا۔ سید صاحب کی مخلصانہ اور فقیرانہ طبیعت نے یہ نہیں پسند کیا کہ اس کے ساتھ کوئی یوں علمی ادبی دہشت گردی کرے۔ مجھے دے کر فرمانے لگے کہ اب مطمئن ہوں کہ شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ بددیانتی نہیں کرے گا۔

ہاں اس زمرے میں ایک اور صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہے، پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب آف قصور انہوں نے نہایت محنت سے اسکی کمپوزنگ سے لے کر پروف ریڈنگ تک خدمات انجام دیں اور ساتھ ہی کم و بیش (۱۰۰) صفحہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی

سوانح حیات پر تحریر فرمایا، اس کا ملخص کتاب میں شامل ہے جب کہ مکمل سوانح کسی دوسرے وقت میں شائع کی جائے گی۔ ہاں مگر انہوں نے کتاب کے متن پر اتنی توجہ نہیں دی، جتنی کہ انہوں نے سوانح پہ فرمائی۔



اس ساری کہانی کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سب کچھ مکمل تھا تو پھر میں نے اس میں کیا خدمت سر انجام دی.....؟ تو اس سوال کا جواب سابقہ ایڈیشن ”تیسیر الشاغلین“ تصحیح و ترجمہ ڈاکٹر مہر عبدالحق اور ساتھ اس موجودہ کتاب کا مسودہ جو اشاعت کے مراحل سے گزرنے ہی والا تھا (میرے سبب التوا کا باعث ہوا) ان ہر دو کو دیکھ کر فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

تمام اہل علم و ادب کے سامنے بصد عجز عرض گزار ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ تو صرف میرے پیران سلسلہ اور خصوصاً حضور غوث اعظم کی توجہ کا کرشمہ ہے۔ مجھے اپنی علمی کم مائیگی اور قلمی بے وقعتی کا پوری طرح احساس ہے۔

میں ایک بار پھر ممنون ہوں اپنے استاذ پروفیسر ڈاکٹر خالق داد ملک اور ساتھ ہی پروفیسر محمد الیاس اعظمی صاحب کا جنہوں نے میرا کام آسان کر دیا۔

آخر میں جناب سید بشیر الحسن کو سپاس نامہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کارِ عظیم کی انجام دہی کیلئے اپنی ضعف عمری کے باوجود بے شمار زحماتیں گوارا کیں اور ساتھ اسکی تمام تر مالی خدمت بھی اپنے سر لی ہے۔ اللہ ﷻ انکی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین!!



میرے ساتھ اس کام میں جنہوں نے تعاون کیا انکی فہرست خاصی طویل ہے ان کا

ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے محسن قبلہ پیر طاہر حسین آف منگانی شریف اس کام کے اصلی محرک اور روح رواں ہیں ان کے ساتھ ہی سید رفاقت علی شاہ اور ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب، جو کئی جگہ نہایت ادق عبارات کے متعلق راہنمائی کا سبب بنے، نہایت مشکور ہوں۔ ساتھ ہی عزیزم پروفیسر محمد شاہ کھگہ اور مولانا غلام رسول ربانی نے انتہائی توجہ، باریک بینی اور عرق ریزی سے پروف ریڈنگ فرمائی ہے۔ اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ جناب اسلم ایاز صاحب نے پرنٹنگ کے مراحل بڑی کامیابی سے طے کروائے ہیں اور ساتھ ہی دو ننھے طالب علم محمد ریاض قادری اور محمد عباس قادری نے مشینی خطاطی میں دلچسپی لی ہے، خدا سب کو سلامت رکھے۔ یہاں حضرت شیخ محدث دہلویؒ کے دعائیہ کلمات دہراتا ہوں۔

باد یارب تا قیامت دولت جیلانیاں

کم مباد از قدرت بحق صولت جیلانیاں

آج جب یہ کلمات لکھ رہا ہوں تو ۱۰ محرم الحرام کا سورج ڈوب رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرا دل بھی ڈوبا جا رہا ہے دورانق پارنوا سے رسول امام اہل الابتلاء فی الکرب والبتلاء کا سراقدس نیزے پر بلند ہو کر حریت اسلام کا پیغام دے رہا ہے اور اہل بیت رسول ﷺ کے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ خاک و خون میں غلطیدہ بدن یہ شہادت دے رہا ہے کہ خود کو غلطان کر لیا ہے مگر ظلم و جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھ دی ہے۔

پس بنائے لا الہ گردیدہ است

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

باطل آخرداغ حسرت میری است

زندہ حق از قوت شبیری است

اہل حق حریت آموز از حسین

در نوائے زندگی سوز از حسین

رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعله ہا اندوختیم
 ساتھ ہی اذان مغرب کا وقت ہو چلا ہے، اذان یہ پیغام دے رہی ہے کہ
 حسین علیہ السلام کا خدا زندہ ہے، اور زندہ رہنے کی طاقت بخشا ہے۔ خدا کی آواز پر لبیک کہنا
 حسین علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرا قلم اب جواب دیتا جا رہا ہے، کرب و بلا کی کیفیت طاری ہے،
 خود کو سنبھالا نہیں تو پیمانہ چھلک جائے گا۔ ساتھ ہی میرا عشق مجھے یہ سبق سکھا رہا ہے کہ صرف یہ
 ہی کیا زندگی کی ساری پونجی ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر ڈالوں۔
 تو..... میں یہ کتاب سید الشہداء امام عالی مقام حسین کے نام انتساب کرتا ہوں۔ کیونکہ

تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز
 ملت خوابیدہ را بیدار کرد
 موج خوں او چمن ایجاد کرد

تار ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز
 خون او تفسیر این اسرار کرد
 تا قیامت قطع استبداد کرد

سید سید علی ثانی جیلانی

۱۰ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ / 6 دسمبر 2011ء

پی۔ سی۔ ایس۔ آفیسرز کالونی، شہ گوشتہ۔ ساہیوال

مخدوم العالم میسر میراں شیخ الکل سید موسیٰ پاک شہیدؒ

اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے ساتھ ہی اس کی رشد و ہدایت کے لئے اور اسے (انسان کو) اس کے مقاصد تخلیق سے آگاہ کرنے کے لیے نبوت و رسالت کی صورت میں ایک سلسلہ نور کا آغاز کیا۔ اس سلسلہ نور کا نقطہ آغاز انسان اول حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے جب کہ نقطہ کمال حضور پر نور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔

حضرت انبیاء کرام ایک طرف انسان کی انفرادی اصلاح کر کے اسے انسان مرتضیٰ

کے مقام سے آشنا کرتے رہے، تو دوسری طرف وہ حاکم مطلق کے پسندیدہ نظام حیات کو اس کائنات ارضی پر جاری کرنے کا فریضہ بھی سرانجام دیتے رہے ہیں۔ مگر جب یہ سلسلہ نور نبوت محمدیہ کی صورت میں اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر تہذیب انسانی بھی اپنی آخری منزل پر جا کر رک جاتی ہے۔ یوں انسان کامل و اکمل حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو تہذیب و اخلاق اور اقدار حیات کی روشنی میں نوع انسانی کو اس مقدس وجود کے آفتاب حیات سے نصیب ہوئی ہے سو اچودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود انسانی تہذیب کا پہیہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ آج اگر انسانیت کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی اصول ہیں یا اس کے سامنے کوئی لائق تقلید نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسوہ محمدی ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔

گذشتہ چودہ صدیوں میں انسان نے کئی انقلاباتِ زمانہ دیکھے، زندگی کے ہر میدان میں مزاج و طبیعت میں اختلاف کے مظاہر بھی اس نے دیکھے ہیں۔ اگر بڑے بڑے جابر اور ظالم مزاج رکھنے والے فرعون صفت لوگ مسند اقتدار پر فائز رہے ہیں، تو ان کے مقابلہ میں اسوہ محمدی ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی پیکر صاحبانِ صدق و صفاء اور جرأت و استقامت کے کوہ گراں اور خلق محمدی ﷺ کے مظہر مردانِ حق سے بھی یہ خطہ ارضی کبھی خالی نہیں رہا۔ انہی مردانِ حق اور رجالِ دین کی پر خلوص محنتوں کا ثمر ہے کہ آج دینِ حق کی کھیتی سر سبز و شاداب اور کفر کی ہر قسم کی یلغار میں بھی لہلہاتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی اس شادابی سے خوف زدہ ہو کر عالم کفر لرزہ بر اندام ہے۔ چنانچہ وہ اسی خوف میں مبتلا اس چراغِ حق کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتا ہے مگر اس احکم الحاکمین کا یہ اعلان ہے:

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

شیخ الکل حضرت سید موسیٰ پاک شہیدؒ

(۹۵۲ھ.....۱۰۱۰ھ)

مدینۃ الاولیاء ملتان میں سادات حسنیہ گیلانیہ قادریہ کے موسسِ اعلیٰ حضرت سید موسیٰ پاک شہیدؒ تھے جیسا کہ منشی عبدالرحمن لکھتے ہیں:

”مدینۃ الاولیاء ملتان میں سادات حسنیہ قادریہ کی بنیاد ۹۸۵ھ میں شیخ الکل مخدوم حافظ سید ابوالحسن جمال الدین موسیٰ الگیلانی المعروف موسیٰ پاک شہیدؒ نے رکھی جن کا شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت حضرت غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے توسط سے نواسہ رسول ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے جا ملتا ہے۔“

آئندہ سطور میں آپ کے مفصل حالات نذر قرطاس کئے جاتے ہیں:

نام:

آپ کا نام نامی حضرت سید محمد موسیٰ الگیلانی

کنیت:

ابوالحسن

القابات:

اہل معرفت و نظر اور اہل عقیدت و محبت علماء و مشائخ نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو مختلف مقامات پر درج ذیل القابات سے یاد کیا ہے۔
’سلطان المحققین، عمدہ الواصلین، قطب العالم، جمال الاسلام وغیرہ‘

خطاب:

مفتی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں:

”علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی کے زیر سایہ پائی تھی۔ پدر بزرگوار سے سلوک و معرفت میں مقاماتِ بلند اور مدارجِ ارجمند حاصل کر کے جمال الدین ابوالحسن کا خطاب پایا تھا۔“

ولادت مبارکہ:

آپ کے تمام تذکرہ نگار آپ کے سن ولادت پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ۹۵۲ھ میں مردم خیز خطہ پاک اُچ شریف میں ہوئی۔

سلسلہ نسب

شیخ الکلمی الدین ثانی حضرت سید حافظ ابوالحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے غوث الاغیث، میر میراں حضور میراں محی الدین سید عبدالقادر البجیلانی قدس سرہ النورانی سے جا ملتا ہے۔

۱۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ

۲۔ سیدنا سیف الدین عبدالوہاب

۳۔ سیدنا شیخ ابونصر صفی الدین عبدالسلام

۴۔ سیدنا شیخ سید احمد

۵۔ سیدنا شیخ سید مسعود

۶۔ سیدنا شیخ سید علی

۷۔ سیدنا شیخ سید شاہ میر

۸۔ سیدنا شیخ سید شمس الدین محمدؒ

۹۔ سیدنا شیخ سید محمد غوث الکیلائیؒ

۱۰۔ سیدنا مخدوم شیخ سید عبدالقادر ثنائیؒ

۱۱۔ سیدنا مخدوم شیخ سید عبدالرزاق الکیلائیؒ

۱۲۔ سیدنا مخدوم شیخ سید حامد جہاں گنج بخشؒ

۱۳۔ سیدنا مخدوم المخادیم شیخ الکل سید ابوالحسن حافظ جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید

رحمة الله عليه رحمة واسعة

تعلیم و تربیت

حضرت شیخ الکل ابوالحسن جمال الدین قدس سرہ العزیز نے علوم ظاہر کی تعلیم اپنے والد ماجد شیخ سید حامد گنج بخشؒ سے حاصل کی جو علوم ظاہری و باطنی کے مجمع البحرین تھے۔ استاد کامل نے اپنے اس تلمیذ رشید کے اندر علم نافع کی وہ چنگاری روشن کر دی تھی کہ جس نے مستقبل کی تمام علمی منزلوں کو آسان کر دیا۔
تخصیص علم میں انہماک کا عالم:

حضرت شیخ الکل کو بچپن ہی سے تخصیص علم کا شوق جنوں کی حد تک ودیعت کیا گیا تھا۔ تخصیص علم میں آپ کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کھانے کی خبر نہ رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

”کھانا کھانے میں تساہل کرتا تھا۔ میری والدہ بعض اوقات میرے والد ماجد سے شاکہ ہوتی تھیں کہ ذکر خدا میں کھانے تک کی پرواہ نہیں کرتے اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔“

خوش نویسی کا ذوق

زمانہ طالب علمی اور اس کے بعد بھی آپ کو خوش نویسی کی طرف کمال رغبت حاصل تھی۔ تیسیر الشاغلین کے مقدمہ نگار کے بقول:

”خوشنویسی کے لیے کثرت سے مشق کرتے تھے۔“

بیعت ارادت

ابھی علم ظاہری کی منزلیں طے کر ہی رہے تھے کہ آپ کو روحانیت کی طرف ایک خاص رغبت حاصل ہو گئی تھی۔ بلکہ اس سے بھی پہلے جب کہ ابھی آپ طفولیت کی بہاریں ہی دیکھ رہے تھے کہ کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر و فکر اور شب بیداری کی لذتوں سے لطف اندوں ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں:

”جب معلوم ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلة فرمان الہی ہے یہ شوق دامن گیر ہوا کہ چونکہ وسیلہ پکڑنا شرط سالک ہے اس لیے یہ دولت بھی حاصل ہو عرصہ تک اس خیال میں مضطرب رہا آخر کار خلاق عالم نے میری عقدہ کشائی کی کہ مجھے والد شریف نے ایک دن بحالت ذوق فرمایا کہ بابا آؤ جو فیض مجھے دست بدست حضرت جد اعلیٰ حضرت غوثِ صدیقی قدس سرہ سے پہنچا ہے وہ لینے کے لیے ہاتھ دراز کرو۔“

ذوق عبادت و ریاضت

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن مقدس اور مقربین بارگاہ سے عظمت حق اور دین کی سر بلندی اور انسانیت کی رشد و ہدایت کا اہم ترین کام لینا ہوتا ہے ابتدائے حیات سے ہی ان کی تربیت کچھ اس انداز سے فرماتا ہے کہ وہ زہد و ریاضت، تقویٰ و طہارت اور بلند

کردار کی جان گسل بھٹی سے گزر کر جب کندن بن جاتے ہیں تو پھر انہیں مسند اصلاح ہدایت پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت مستمرہ کے مطابق اعلائے کلمۃ الحق اور بادہ ضلالت میں سرگرداں انسانیت کی اصلاح کا نبوی کام لینا تھا۔ آپ ابھی بچپن میں ہی تھے آپ کو حضور حق سے یاد الہی، ذوق عبادت اور شوق ریاضت اس حد تک ودیعت کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنے وجود جسم و جان تک کی کوئی خبر نہ رہتی تھی، خود آپ کا اپنا قول ہے کہ:

”تلاوت کلام پاک و ذکر طیبہ شوق سے کرتا تھا، ذکر کی حالت تھی کہ کھانا کھانے میں بھی تساہل کرتا میری والدہ ماجدہ میرے والد ماجد سے شاکی ہوتیں کہ ذکر خدا میں کھانے تک کی پرواہ نہیں کرتے اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔“

خلافت و سجادگی

جب طالب صادق اور سالک راہ حق نے منازل سلوک طے کر لیں تو مرشد و مربی نے کمال عنایت کے ساتھ ایک روز بحالت ذوق فرمایا:

فخذ ما اتینک و کن من الشاکرین

”جو کچھ تمہیں عطا کیا اسے پکڑو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔“

بعد ازاں خاص خرقہ مبارک و سجادہ اور تسبیح عطا فرمایا اور ایک انگوٹھی بھی جو اس وقت آپ پہنے ہوئے تھے مرجمت فرمائی۔

والد گرامی کی وصیت:

شیخ کامل حضرت سید حامد گنج بخش و جہاں بخش نے اپنے خلف صادق اور مرید مخلص کو خرقہ خلافت پہناتے ہوئے درج ذیل وصیتیں ارشاد فرمائیں جو خود حضرت موسیٰ پاک نے

اپنی زبان سے یوں بیاں کی ہیں۔

۱۔ جو کچھ کرو گے وہ نقد بہ نقد حاصل ہوگا

۲۔ شریعت و ایمان کو ملحوظ خاطر رکھ کر حقیقت کے درجہ پر پہنچنا اول پرشش شریعت

ہے اگر شریعت نے کسی کی شکایت کی تو پھر مشکل ہے۔

۳۔ اپنے فرائض و معمولات کو ادا کیا کرو اور اس نعمت کا جس پر چاہو اظہار کرو یعنی

جس کو چاہو نواز دو۔“

ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

شجرہ سلسلہ قادریہ

شیخ الکل حضرت سید ابوالحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید کا سلسلہ طریقت میر

میراں پیران پیر، محی الدین حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی سرہ النورانی سے

متصل ہے۔ (جو حضرت کا شجرہ نسب ہے وہی شجرہ طریقت بھی ہے)

فیضان رسالت مآب ﷺ

صاحب خزینۃ الاصفیاء تحریر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پاک شہید

حالت بیداری میں حضور اقدس ﷺ کے جمال جہاں آرا سے

بھی مشرف ہوئے تھے۔“

بارگاہِ غوثیت مآب سے بیعت کرنے کی اجازت

حضرت شیخ الکل کو سردار اولیاء قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث الاعظم قدس سرہ

سے خاص محبت اور روحانی تعلق کی دولت حاصل تھی۔ آپ ہمیشہ تصور غوثیت مآب میں مگن

رہتے تھے۔ بقول مفتی غلام سرور لاہوری:

”حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اویسی تھے۔“

خود ارشاد فرماتے ہیں:

”مجھے پیر دستگیر حضرت غوثِ صدیقیؒ کے شرف زیارت کا بھی فخر حاصل ہے فرمایا

اب مرید کیا کرو اور دست و اذن خلق کی اجازت فرمائی الحمد للہ کہ مسرور شدم و

مامور شدم۔“

عہد اکبری میں مذہبی انتشار پسندی

اکبر نے اپنے دور حکومت میں فتح پور سیکری میں ایوان شاہی کے قریب ۱۵۷۸ء/ ۹۸۳ھ میں ایک عبادت خانہ کو تعمیر کیا۔ جہاں ہر جمعہ کی نماز کے بعد شیخ کی خانقاہ سے آ کر یہاں دربار خاص منعقد ہوتا تھا، جس میں مشائخ وقت، علماء و فضلاء اور چند مقرب درگاہ شریک ہوتے تھے اور خدا شناسی اور حق پرستی کی حکایتیں اور روایتیں بیان ہوتی تھیں۔ اکبر نے عبادت خانے کی مجالس کا اہتمام خاص مذہبی ذوق سے کیا تھا لیکن بالآخر انہی نے اسے بد مذہبی کا راستہ دکھایا۔

دین الہی (دین اکبری)

زیر نظر تحریر کا اصل موضوع دین الہی یا دین اکبری پر تحقیق و تنقید نہیں ہے اس لئے اس کے تاریخی پس منظر اور پیش منظر سے صرف نظر کرتے ہوئے اس نو ساختہ سیاسی مذہب کے چند اہم نکات عام قارئین کی معلومات کے لئے درج کئے جاتے ہیں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کن حالات میں اور کس شان سے دفاع دین کا فریضہ سرانجام دیا تھا۔ دین الہی کے چند اہم اور قابل ذکر نکات ملاحظہ ہوں۔

یہاں پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس دین الہی سے متعلق معلومات کا سب سے بڑا اور قدیم ذریعہ ملا عبد القادر بدایونی کی کتاب منتخب التواریخ ہی ہے جہاں سے بعد کے مورخین، مصنفین اور نقاد نے دین الہی کے بارے میں اخذ و اقتباس کیا ہے۔ ہم ذیل میں علمائے ہند کا شاندار ماضی کے حوالے سے چند اہم امور ذکر کر رہے ہیں۔

- ۱۔ دن میں چار مرتبہ آفتاب پرستی کرنا۔
- ۲۔ مظاہر فطرت آگ، ہوا، پانی، درخت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوبر تک کی پرستش کرتا تھا۔
- ۳۔ سود اور جو احلال کر دیا گیا تھا۔
- ۴۔ غسل جنابت کو منسوخ کر دیا گیا۔
- ۵۔ بارہ سال کی عمر سے پہلے بچوں کے ختنے کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔
- ۶۔ خنزیر اور کتوں کا احترام کیا جانے لگا۔
- ۷۔ گائے، بھینس اونٹ کے گوشت کی ممانعت کر دی گئی جب کہ اس کے مقابلہ میں شیر اور بھیڑیے کے گوشت کو حلال قرار دے دیا گیا۔
- ۸۔ اگر کوئی ہندو عورت اسلام قبول کر لے تو اسے دوبارہ جبراً ہندو مذہب والوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔
- ۹۔ دربار میں نماز پنجگانہ موقوف کر دی گئی۔
- ۱۰۔ سجدہ تعظیسی کو لازم قرار دے دیا گیا۔
- ۱۱۔ عورت اگر خاوند سے عمر میں بارہ برس بڑی ہو تو شوہر کو اس کے ساتھ جماع کرنا منع کر دیا گیا۔

- ۱۲۔ بادشاہ کو خدا کا اوتار قرار دے دیا گیا۔
- ۱۳۔ شراب نوشی کی عام اجازت دے دی گئی۔
- ۱۴۔ قرابت قریبہ لڑکیوں سے شادی کرنا منع کر دیا گیا کہ اس سے اولاد ضعیف پیدا ہوتی ہے اور رغبت بھی کم ہوتی ہے۔

۱۵۔ اسم پاک محمد اور احمد سے اعلانیہ نفرت کا اظہار کیا جانے لگا۔

دین الہی یا اکبر کے مذہبی خیالات کا یہ خلاصہ ہے جو ہم نے نذر قارئین کیا ہے۔ ان حالات میں بھلا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ بصیرت سے بھی نواز رکھا ہو کب خاموش رہ سکتا تھا؟ ایسا کرنا تو غیرت دینی کے ہی خلاف تھا۔ سو حضرت سید موسیٰ پاک شہید نے ان حالات میں نعرہ حق بلند کیا۔

صاحب سلسلہ کوثر شیخ محمد اکرام آپ (سید موسیٰ پاک) کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”شیخ موسیٰ گیلانی ایک عرصے تک لشکر شاہی اور دارالسلطنت میں اسلام کا بول بالا کرتے رہے اور کئی شہر نشینوں کو اس بادیہ پیمایا کی بدولت روحانی تازگی اور استقامت نصیب ہوئی۔“

حضرت شیخ محقق کونڈر سپاس پیش کرتے ہوئے حضرت موسیٰ پاک کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”آپ پر اکبری دربار کے اثرات غالب نہ آسکے۔ آپ نے بیعت کی تو وہ بھی ایک ایسے بزرگ سے جو اس زمانے میں بھی اکبر کے دیوان خانے میں اذان دے کر باجماعت نماز شروع کر دیتے تھے۔“

نامور مورخ محمد اعجاز الحق قدوسی لکھتے ہیں:

”شیخ موسیٰ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے اور اتنے پابند تھے کہ وہ اس معاملے میں بادشاہ کی بھی پروا نہ کرتے تھے۔“

سلسلہ عالیہ قادریہ کی اشاعت:

حضرت شیخ الکل سید موسیٰ پاک شہید گیلانی علیہ الرحمۃ کو اگرچہ بہت سے سلاسل تصوف میں اجازت حاصل تھی مگر آپ ملحق الا صاغر والا کا بر شیخ المشائخ پیران پیر دستگیر میراں محی الدین قطب ربانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ النورانی سے کمال درجہ عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے آپ طالبین کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہی بیعت کرتے اور اصول قادریہ پر ہی مریدین کی روحانی تربیت فرماتے تھے۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں۔

”حضرت موسیٰ پاک شہید نے ملتان میں قال اللہ وقال رسول اللہ سے مسند ارشاد قادریہ کے متوسلین کے دلوں کو گرمادیا اور یہ حلقہ ارادت بلخ و بخارا، ایران، توران، افغانستان اور ہندوستان تک پھیلتا چلا گیا کیوں کہ اس وقت آپ حضرت غوث الاعظم کے نائب کی حیثیت سے برصغیر میں روحانی پیشوا اور قادریہ سلسلہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کی صحبت میں جو پہنچ جاتا آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ آپ زبردست مہذب الاخلاق اور معمار کردار شخصیت تھے۔“

غرض یہ کہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید کی سعی جمیلہ سے پورے براعظم ایشیاء اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو قابل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔

شہادت:

مولانا نور احمد فریدی اپنی کتاب ”تاریخ ملتان جلد دوم“ میں آپ کی شہادت کا واقعہ علامہ مفتی محمد بقا فاروقی الملتانی کی روایت کے مطابق یوں بیان کرتے ہیں:

”حضرت مخدوم اپنی اراضیات میں گئے ہوئے تھے۔ ایک گاؤں میں قیام تھا۔ چند روز کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا تو حضور نے لشکر ملازمین اور ارادت مندوں کو پہلے روانہ کر دیا۔ اس وقت کو غنیمت جان کر لنگاہوں کے ایک گروہ نے آپ کے مریدوں کی اس بستی پر حملہ کر دیا آپ اور ادا و اذکار میں مصروف تھے اطلاع ملی تو فرمایا۔

اشارہ صحیح ہوا، رحلت کا وقت آ پہنچا“

اسی وقت ہاتھی پر سوار ہو کر چند رفیقوں کے ہمراہ ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مگر جونہی ان بدکاروں نے آپ کی سواری دیکھی بھاگ اٹھے۔ مگر ایک سلطان نامی مرد و دلنگاہ نے جس کی قسمت میں آپ کا قاتل ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اس نے چھپ کر ایسا تیر مارا جو حضرت کے پہلو میں پیوست ہو کر رہ گیا اور اسی صدمہ سے علوم دینیہ کے ماہر، کلام ربانی کے واقف اسرار، حقیقت و طریقت کے دانائے رموز، حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ الرحمۃ ۲۳ شعبان المعظم ۱۰۱۰ھ کی رات کو رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ”انا لله و انا الیہ راجعون“

تدفین:

شہادت کے بعد جب تدفین کا مرحلہ آیا تو پہلے آپ کو والد بزرگوار کے قدموں میں سپرد خاک کیا گیا تو اس کے بعد عالم رویا میں آپ کے جانشینوں کو حضرت کے والد گرامی

نے فرمایا کہ

”تم نے اپنے زمانہ کے قطب الاقطاب کو میری پابنتی میں دفن کر دیا ہے۔ جس سے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے۔“

چنانچہ اس اشارہ کے پانے کے بعد آپ کے صاحبزادگان نے وہاں سے آپ کو نکال کر منگے ہٹی میں آپ کو دفن کیا۔

جسد مبارک کی ملتان منتقلی:

منگے ہٹی میں دوسری بار تدفین کے بعد پندرہ سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کے صاحبزادے سید حامد گنج بخش کو خیال پیدا ہوا کہ آپ کو ملتان میں دفن کیا جائے چنانچہ ایک مرتبہ پھر قبر کشائی کے بعد آپ کو ملتان جہاں اس وقت آپ کا دربار گوہر بار، فرحت آثار ہے میں منتقل کر کے دفن کیا گیا لیکن یہ آپ کی بعد از وصال بھی زندہ کرامت تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کا جسد مبارک بالکل تروتازہ اور صحیح سلامت تھا۔

اولاد امجاد:

منعم حقیقی نے دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو صلیبی اولاد کی دولت نعمت سے بھی سرفراز فرما رکھا تھا۔ تذکروں میں آپ کے صاحبزادگان کے درج ذیل اسماء گرامی ہمیں ملتے ہیں۔

۱۔ حضرت سید حامد گنج بخش ثانی رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ حضرت سید جان محمد رحمۃ اللہ علیہ

۳۔ حضرت سید عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ

۴۔ حضرت سید یحییٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

خلفائے عظام:

حضرت شیخ الکل سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے شیخ اور صاحب سجادہ تھے، آپ نے بھی اس فیض قادریہ کو آگے پہنچانے کے لیے ایسے رجال تیار کئے جو سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے ان کو شرف خلافت سے نواز کر دنیائے انسانی کی اصلاح کا فریضہ ان کے سپرد کیا۔ مختلف تذکروں اور آپ کے احوال پر مشتمل کتب میں آپ کے درج ذیل خلفاء کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔

۱۔ حضرت مخدوم سید حامد گنج بخش ثانی (فرزند اکبر اور جانشین اول)

۲۔ حضرت شاہ داؤد بندگی کرمانی (بانی مسند ارشاد شیر گڑھ ضلع اوکاڑہ)

۳۔ حضرت سید شیر شاہ مشہدی (بانی مسند ارشاد شیر شاہ ملتان)

۴۔ حضرت بابا میاں شیر کرم علی قادری (بانی مسند ارشاد سیال شریف ضلع سرگودھا۔

جدخامس حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی)

جیسا کہ مولانا قاری غلام احمد سیالوی نے اپنی کتاب ”انوار قمریہ“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

۵۔ شیخ محقق، امام المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔




(اقتباس ”سوانح حیات حضرت مخدوم کل“ از پروفیسر

محمد الیاس اعظمی صاحب، جس کو ادارہ ہذا نے صفحات


کی کمی کے باعث تلخیص کے بعد پیش کیا ہے۔)





مخطوطات کا پہلا صفحہ


مخطوط ہذا کا دوسرا صفحہ



مخطوط کے دو صفحات جن کی عبارت میں مطابقت نہیں



مخطوط کا آخری صفحہ



مخطوط کی مہر (حضرت سید اسماعیل محدث لاہوری کے صاحبزادے
اور پوتے کی ثبت کردہ مہر جس پر 1180 مرقوم ہے)



مزارد (حضرت کی مزار کا اندرونی منظر)

هدایة المریدین

و

إرشاد السالکین

مصنفة

حضرت مخدوم سید جمال الدین محمد موسیٰ

پاک شہید گیلانی،

اچوی ثم ملتانی قدس اللہ سرہ العزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پرہیزگاروں کیلئے اچھا انجام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جو نبیوں کے سردار اور متقیوں کے پیشوا ہیں، پر درود سلام ہو۔ اہل بیت اطہار، اصحاب، تبعین سنت اور ملت پر سلامتی ہو۔

شیخ العالم باعمل، ولی اللہ و عارف، سید السادات و منبع البرکات، پاکیزہ صفات راضی برضائے الہی، ہمارے شیخ و آقا و مولانا حضرت ابوالفتح ۱۔ جمال الدین شیخ موسیٰ بن سید حامد بن سید عبدالرزاق بن سید عبدالقادر بن سید محمد بن شمس الدین بن سید شاہ میر بن سید علی بن سید مسعود بن سید احمد بن سید صفی الدین بن سید عبدالوہاب بن قطب ربانی، غوث صمدانی، غوث الثقلین، شیخ الاسلام و غوث المسلمین ابو محمد محی الدین السید عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی (اللہ تعالیٰ ان کی ارواح مبارکہ کو پاکیزہ فرمائے اور دین و دنیا میں ان کی برکات اور فیضان کو ہمارا مقدر

۱۔ آپ کی مشہور کنیت ابوالحسن ہے۔

بنائے) نے فرمایا کہ یہ رسالہ مبارکہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ بزرگان کرام کے طریقہ پر منقول بعض وظائف و اوراد کے بارے میں ہے، جو عبادات و تقربات، ادعیہ و اذکار اور اشغال باطنی پر مشتمل ہیں، یہ تمام اعمال و اشغال مستند کتابوں اور ان نفوس قدسیہ سے روایت کئے گئے ہیں، جن کا سلسلہ روایت حضرت غوث الثقلین قطب الخاقین، شیخ شیوخ العالم محی الدین سید عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ عالیہ کے متوسلین اور وظیفہ خوانوں کی سہولت کے لئے اسناد روایات کو حذف کر کے لکھ دیا گیا ہے اور اس رسالے کا نام ”ہدایت المریدین و ارشاد السالکین“ ہے۔

یہ رسالہ تین ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب میں چند فصلیں ہیں۔

باب اول

پنجگانہ فرض نمازوں، اذکار اور دعاؤں کے بارے میں، اور چھ فصلوں پر مشتمل ہے۔

پہلی فصل :

نماز فجر کی سنتوں، صبح کے وظائف و اوراد اور دعاؤں کے بارے میں۔

دوسری فصل :

نماز فجر کی دعاؤں اور ذکر کے بارے میں۔

تیسری فصل :

نماز ظہر کے اذکار اور دعاؤں کے بارے میں۔

چوتھی فصل :

نماز عصر کے اذکار اور دعاؤں کے بارے میں۔

پانچویں فصل:

نماز مغرب کے اذکار اور دعاؤں کے بارے میں۔

چھٹی فصل:

نماز عشاء کے اذکار، دعاؤں اور سونے کے وقت کے وظائف و اوراد کے بارے میں۔



دوسرا باب

غیر موکدہ سنتوں کے بارے میں، اس باب بھی میں چھ فصلیں ہیں۔

پہلی فصل:

نماز اشراق اور اس کی دعائیں۔

دوسری فصل:

نماز چاشت اور اس کی دعائیں۔

تیسری فصل:

وقت زوال ختم ہونے کی نماز اور اس کی دعائیں

چوتھی فصل:

نماز اوابین کے بارے میں۔

پانچویں فصل:

نماز شب اور ذکر، نماز تہجد، اذکار اور دعاؤں کے بارے میں۔

چھٹی فصل:

نماز تسبیح اور اس کی دعاؤں کے بارے میں۔

تیسرا باب

آداب تلاوت قرآن مجید، آواز بلند ذکر کرنا، خفیہ اشغال اور پوشیدہ ذکر، ذکر مراقبہ سلسلہ قادریہ کی روش کے مطابق، حضور اکرم ﷺ کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرید اپنے شیخ کے ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ہمارے شیخ کے آداب کے مطابق، ہمارے شیخ و سردار اور قبلہ و کعبہ السید الشیخ محی الدین سید عبدالقادر الحسنی والحسینی جیلانی کے ذکر و اذکار کے بارے میں، یہ اذکار متفرقہ چھ فصلوں پر مشتمل ہیں۔

پہلی فصل :

تلاوت قرآن مجید کے آداب کے بارے میں۔

دوسری فصل :

ذکر بالجہر اور باطنی مشاغل اور اسکی روش کے بارے میں۔

تیسری فصل :

مراقبہ کے بارے میں۔

چوتھی فصل :

حضور اکرم ﷺ کے چند صوری و معنوی آداب اور محبت کے بارے میں۔

پانچویں فصل :

شیخ طریقت کے ساتھ ادب و احترام کے بارے میں۔

چھٹی فصل :

متفرق ذکر و اذکار کے بارے میں۔



باب اوّل

﴿پنجگانہ فرض نمازوں، اذکار اور دعاؤں کے بارے میں﴾

پہلی فصل:

﴿صبح کے اور ادواذکار، اور نماز فجر کی سنتوں اور جو کچھ اس سے متعلق ہے﴾

جاننا چاہیے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سوال و دعا افضل ہے یا سکوت و خاموشی؟ بعض نے دعا کو سکوت پر فضیلت دی ہے اور کچھ لوگوں نے سکوت و رضا کو دعا پر ترجیح دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سکوت میں خالص تسلیم و رضا ہے اور دعا میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضا پر ایک قسم کی شکایت اور عدم رضا کا پہلو پایا جاتا ہے، بندہ دعا کر کے گویا اپنے ارادے کو حق سبحانہ تعالیٰ کے اختیار و مشیت پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی تدبیر و تقدیر پر اکتفا نہیں کرتا اس لئے وہ اسے بارگاہ ایزدی کے آداب کو ترک کرنا سمجھتے ہیں۔

لیکن محققین نے دعا و سکوت میں سے ہر ایک کی فضیلت کو مشروط قرار دیا ہے وہ فرماتے

ہیں کہ اوقات مختلف ہیں، بعض حالتوں میں سکوت سے دعا بدرجہا بہتر ہوتی ہے۔ جب بند دعا کرنے میں حضور قلب، انہماک، شرح صدر اور رغبت و انس دیکھے اور اس کا دل دعا کی جانب اشارہ کرے تو سکوت سے دعا کئی درجے افضل و اولیٰ ہے۔ اسی طرح بعض مخصوص اوقات میں طلب و دعا سے سکوت و سکون فائق ہوتا ہے، اس بات کی شناسائی بھی وقت سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دل میں انقباض اور رغبت محسوس کرے یا استغراق و وجدان اور معرفت و حال کی کیفیت طاری ہو اور دعا ان کیفیات کے مخالف و ناموافق ہو تو ایسے وقت میں دعا کی بجائے سکوت و سکون بہتر ہے۔

چونکہ دعا کا مقصود، تضرع و تذلل، عاجزی و انکساری، استعانت و استقامت اور اظہار احتیاج و عبودیت ہے تو سالک کو چاہیے کہ جنی اوقات میں جو حالت موافق و معاون ہو اس کے مطابق عمل کرے، خواہ دعا بہ زبان قائل ہو زبان سے اپنی حاجت طلب کرے یا بہ زبان حال ہو کہ بندے کی حالت خود عرض کناں ہو یا بہ زبان تعرض ہو کہ حق تعالیٰ کے ذکر اور مدح و ثناء میں منہمک ہو۔

اے درویش ہمہ تن گوش ہو کر بن! ما سوی اللہ کو دل سے غائب کرنے اور قلب کو صرف اسی کی یاد میں محور کھنے کی کوشش کر، بلکہ خیال کر کہ تیرا ایک سانس بھی ذکر حق کے بغیر باہر نہ آئے، اگر اپنی حالت پر دھیان نہ دے گا تو حسرت و افسوس کے سوا تجھ پر کچھ منکشف نہ ہوگا، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، غرضیکہ ہر حالت و فعل اور ہر وضع و طور میں تیرے قلب و زبان کو ذکر الہی میں رطب اللسان رہنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ہر گھڑی تجھ پر برستی رہیں، بالخصوص آدھی رات، آخر شب اور وقت سحر کا خیال رکھ کیونکہ یہ وقت حصول مقصود و مطلوب کے لئے بہت افضل ہے پس تجھے چاہیے کہ نالہ و آہ سحر گاہی اور دعوات و استغفار کی

کثرت کرے، اور دعائیں، اذکار جو بزرگانِ قادر یہ سے منقول ہیں، اپنا معمول بنا..... اور
وقت سحر کہہ:

دعائے صبح

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ
النُّشُورُ.

”اے اللہ! صبح کی ابتداء تیرے ہی نام سے کی اور شام بھی تیرے ہی نام سے کی،
تیرے نام کے سہارے جیتے ہیں اور ہماری موت بھی تیرے نام پر ہوگی اور تیری طرف ہی
اٹھائے جائیں گے۔“
اور یہ بھی کہے:

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

”میں راضی ہوا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد ﷺ کے نبی
ہونے پر۔“

اور سورہ انعام کی تین آیتیں اپنا وظیفہ بنا لے جو کہ یہ ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ط ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَ ط
وَاجَلَ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ط
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ م ا

ل (الانعام: ۶، ۱-۳)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تارکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ (معبودانِ باطلہ کو) اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں ۵ (اللہ) وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا (یعنی کڑھ ارضی پر حیاتِ انسانی کی کیمیائی ابتداء اس سے کی)۔ پھر اس نے (تمہاری موت کی) میعاد مقرر فرمادی، اور (العقادِ قیامت کا) معینہ وقت اسی کے پاس (مقرر) ہے پھر (بھی) تم شک کرتے ہو ۵ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ ہی (معبودِ برحق) ہے، جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر (سب باتوں) کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ (اسے بھی) جانتا ہے ۵“

پھر کہے:

فَالِقُ الْاَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ مَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

پھر پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَبِكَ النُّشُوْرُ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَالْعِظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ لِلّٰهِ وَالْجَبْرُوْتُ لِلّٰهِ وَالسُّلْطٰنُ لِلّٰهِ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا كُلُّهُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ عَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ اَبِيْنَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

”اے اللہ! ابتداء صبح تیرے ہی نام سے کی اور شام بھی تیرے نام سے کی، تیرے نام کے سہارے جیتے ہیں اور ہماری موت بھی تیرے نام پر ہوگی اور تیری طرف ہی اٹھائے جائیں گے، ہم سب بیدار ہوئے اور تمام بادشاہی و عظمت، قوت و کبریائی اور اقتدار و

سلطنت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی رات دن اور جو کچھ ان میں بستا ہے سب اسی قاہر و جابر و وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، ہم نے فطرت اسلام، پاکیزہ کلمے، دین مصطفیٰ اور ملت ابراہیم پر صبح کی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور سلامتی کے راستے پر قائم تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔“

اس کے بعد کہے:

شہادت صبح

عَلَىٰ هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَحْيِي وَ عَلَيْهَا نَمُوتُ وَ عَلَيْهَا نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
”ہم اسی گواہی پر زندہ ہیں اور اسی پر ہمیں موت آئے گی اور اسی پر اٹھائے جائیں گے۔“

ان شاء اللہ۔

اور یہ بھی کہے:

اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ جَدِيدٌ فَافْتَحْهُ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَ اخْتِمَهُ لِي بِمَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ ارْزُقْنِي فِيهِ حَسَنَةً وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّي وَ ذَكِّهَا وَ فِيَّ ضَعْفَهَا لِي وَ مَا عَمِلْتُ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَاعْفُرْهَا لِي إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

”اے اللہ، یہ ایک نیا دن ہے اس کی ابتداء مجھے اپنی اطاعت کی توفیق دے کر فرما۔ اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ اس کا مجھ پر خاتمہ فرما۔ اس میں مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اسے پاکیزہ بنا اور میرے لئے دوچند فرما دے اور اس دن مجھ سے جو گناہ سرزد ہو جائیں انہیں معاف فرما تو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

پھر تین سو گیارہ مرتبہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھے اور ہر اٹھارہویں

مرتبہ کے بعد دو یا تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ پڑھے، اس کے بعد تین سو گیارہ مرتبہ اللَّهُ اللَّهُ کہے اور ایک ہزار ایک مرتبہ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ کہے اور سو بار نبی کریم ﷺ پر اس طرح درود شریف پڑھے جو سلسلہ قادریہ میں مختار ہے۔

تو پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ

حصار آیت الکرسی

اور ہر صبح و شام حصار کرے جو غوث المسلمین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور مداومت عمل کا مظاہر کرے، اس کا طریقہ اس طرح ہے:

آیت الکرسی تا عظیم ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر دم کرے۔ اور پھر ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں ہاتھ پر بھی دم کرے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ کر اپنے سامنے کی جانب دم کرے، چوتھی مرتبہ پڑھ کر اپنی پیٹھ کی جانب دم کرے، پانچویں مرتبہ پڑھ کر آسمان کی جانب اور اپنے سر پر دم کرے، چھٹی مرتبہ پڑھ کر اپنے تمام اعضاء پر دم کرے اور ساتویں مرتبہ پڑھ کر اس کے ساتھ ہی کہے:

حَصَّنْتُ نَفْسِي وَ رُوحِي وَ جَسَدِي وَ دِينِي وَ أَوْلَادِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ مَا
أَحَبُّ وَ مَا أَسْأَلُكَ فِي خَزَائِنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقَافِلَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مَفَاتِيحُهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا
خَيْرًا وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا.

”میں نے محفوظ کر لیا اپنے نفس روح، جسم، دین، اہل و عیال، مال اور اپنی محبوب چیزوں کو اور جو کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خزانوں میں داخل کرتا ہوں جن کے تالے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) اور جن کی چابیاں: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم (نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے مگر اللہ کی توفیق و مہربانی سے جو بلند اور عظمتوں والا ہے) ہیں۔ اور اللہ تجھے ان کی طرف سے کافی ہوگا اور وہی سنتے والا اور جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منکرین کو ان کے غصے کے ساتھ ناکام بنا دیا، وہ کچھ بھلائی نہ پاسکے اور اللہ تعالیٰ مومنین کو جنگ و قتال میں کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔“

یہ پڑھ کر اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دم کرے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تمام اعضا اور جسم پر پھیرے۔

اس کے بعد بَاقِی وَ اَنْتَ الْکَافِیْ اِیْکَ سُوْغِیَارَہ (۱۱۱) مرتبہ پڑھے۔



۱۔ اس امر میں ایک وظیفہ اور بھی میرے پیران سلسلہ میں مروج ہے۔

شش اطراف کی جانب مندرجہ ذیل کلمات پڑھ کر دم کرے۔

(۱) آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینہ پہ پھونک مارے۔ (۲) سورۃ التوبہ، آیت ۵۱ پڑھ کر مغرب کی

طرف (۳) سورۃ یونس آیت ۱۰۷ مشرق کی طرف (۴) سورۃ ہود آیت ۶، شمال کی

طرف (۵) سورۃ عنکبوت آیت ۶۰ جنوب کی طرف (۶) سورۃ فاطر آیت ۲ آسمان کی طرف

(۷) سورۃ زمر آیت ۳۸ زمین کی طرف (۸) سورۃ توبہ آیت ۱۲۸، ۱۲۹ پڑھ کر اپنے سینہ پہ

پھونکے۔ ظاہری و باطنی فوائد محتاج بیان نہیں بلکہ سالک خود محسوس کرے گا۔

دوسری فصل:

﴿ نماز فجر کے اوراد و وظائف کے بیان میں ﴾

اے طالب حق! ہر فرض نماز کے لئے نیا وضو کر اور تمام اعضاء وضو کو اچھی طرح دھو، وضو کرتے وقت حضور قلب ہو، تاکہ اس حضور قلب کی نورانی برکتیں ان اوقات میں تجھ پر نازل ہوں، کیونکہ نماز میں حضور اور خضوع و خشوع کا انحصار وضو میں حضور قلب حاصل ہونے پر ہے، جس قدر وضو میں سہو و غفلت ہوگی اسی قدر نماز میں وسوسہ ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے پانی بہانے کا خاص خیال رکھے اور اپنے اوپر شیطانی وسوسوں کا دروازہ نہ کھولے کیونکہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ

للو وضوء شیطان یقال له الولہان فاتقوا وساوس الشیطان.

”وضو کے لئے ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے پس تم شیطان کے وسوسوں سے بچو۔“

نماز مسنونہ کی قسمیں

واضح رہے کہ نماز مسنون کی دو قسمیں ہیں (۱) مؤقتہ (جن کے لیے وقت مقرر ہو)

(۲) غیر مؤقتہ (جن کے لیے وقت مقرر نہ ہو) غیر مؤقتہ کسی تعداد میں منحصر نہیں۔

☆ اور مؤقتہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔

[۱] راتبہ (مؤکدہ) [۲] غیر راتبہ (غیر مؤکدہ)

سنت مؤکدہ وہ ہیں جو فرض پر مرتب ہوں یعنی وہ نماز جو فرائض کے ساتھ بطور وظیفہ

پڑھی جاتی ہیں اور غیر مؤکدہ جو فرض پر مرتب نہ ہوں یعنی جو فرائض کے ساتھ بطور وظیفہ زائد نہ پڑھی جائیں مؤکدہ فرض کے تعداد میں پانچ ہیں، دو رکعت مؤکدہ صبح، چھ رکعت ظہر (چار فرض سے پہلے اور دو رکعت فرض کے بعد) ایک قول کے مطابق عصر کے چار فرض سے پہلے بھی چار رکعت مؤکدہ ہیں لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چار رکعت مؤکدہ غیر مؤقتہ ہیں، اور مغرب کی نماز میں دو رکعت مؤکدہ ہیں، عشاء کے فرض کے بعد دو رکعت مؤکدہ عشاء ہیں۔

جان لے کہ جب کوئی شخص فجر کی دو سنت اپنے گھر میں ادا کرے تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ”الکافرون“ اور دوسری رکعت میں ”سورہ اخلاص“ پڑھے، فرض ادا کرنے کے بعد ستر مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے اور حیات قلبی کی دعائے مانگے:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ

”میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔“

اور ایک مرتبہ یہ پڑھے:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِي قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ

أَبَدًا يَا اللَّهُ

”اے وہ ذات جو خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے ہمیشہ کیلئے زندہ فرما۔“

اور اگر گنجائش وقت ہو تو ایک مرتبہ سورہ ق پڑھ لے ورنہ وقت کے مطابق مذکورہ

اور ادوٹائف میں سے جو کچھ پڑھ سکے، پڑھ لے۔

نماز میں خشوع و خضوع

اور ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے تاکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہو سکے اور ہر نماز بالخصوص فرض نماز کو نہایت خضوع و خشوع سے ادا کرے کیونکہ کامل عقل والا وہی ہے جس کی تمام ہمت اور کوشش نماز کے اہتمام اور اس کی تکمیل میں صرف ہو۔ تمام آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہایت اچھے طریقے سے کرے اور قرآن مجید کا جو لفظ زبان پر آئے اس کے معانی میں غور و فکر کرے، تاکہ زبان جو دل کی ترجمان ہوتی ہے تیرے دل کے کلام کو بیان کرنے والی ہو۔ اگر زبان دل کی ترجمانی کرنے والی نہ ہو تو ہندہ حق سبحانہ تعالیٰ سے نہ تو سرگوشی کے طریقہ پر کلام کرنے والا ہوگا اور نہ ہی سمجھنے کے طریقہ پر سننے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ نماز کی ہر وہ ہیئت جس میں خضوع و خشوع حاصل ہو اختیار کر سکتا ہے۔ سوائے فرائض میں اور بالخصوص نماز باجماعت میں (کہ اس میں نماز کو لمبا کرنا مشکل ہوتا ہے) اس ہیئت سے کسی دوسری ہیئت کی طرف ذہن کو منتقل نہ کرے تاکہ خشوع و خضوع سے روح کو ذوق حاصل ہو۔ اور نماز کے آداب سے یہ بھی ہے کہ ان تمام دنیوی امور سے دل کو خالی کر دے جو دل کی پریشانی، من کی بے چینی اور طرح طرح کے اوہام پیدا کرنے کا باعث بنیں۔ تاکہ نماز میں حضور قلب حاصل ہو اور یہ احساس ہو کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا چاہ رہا ہوں۔ غفلت میں مدہوش نہ ہو اور جو چیز دل کو مگر کرے، اسے اعتدال کی ہیئت سے بدل کر اطمینان حاصل کرے اور نماز ادا کرنے سے قبل زائل کر دے۔ واضح رہے وضو قبل از وقت کر لیا جائے اور نماز کیلئے مستعد ہو، فرض سے پہلے سنتوں کے ادا کرنے میں حکمت یہ ہے اگر مخلوق کے ساتھ میل جول کے باعث دل میں

کدورت کے اثرات نے راہ پالی ہے تو وہ سنت کی برکت سے زائل ہو جائیں اور دل پوری طرح فریضہ کیلئے صالح ہو جائے۔

اسکی برکت سے زائل ہو جائیں اور دل پوری طرح فریضہ کے لیے صالح ہو جائے، اسمیں مناجات کی لیاقت اور کلام الہی کیلئے وسعت پیدا ہو جائے اور یہ معلوم کر لے کہ وہ کس کے حضور میں حاضر ہونے والا ہے جیسا کہ خارج میں ہر چیز کا ایک خاصہ ہے جو اسی سے مخصوص ہے، ایسے ہی نماز کی صورت میں بھی ایک خاصیت ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے اور دیگر اذکار و اعمال میں نہیں پائی جاتی بلکہ ان کیفیات میں سے ہر کیفیت میں خدا کے اسرار و حکم پوشیدہ ہیں جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں اور اہل وجدان ذوق کے طریقہ سے ان میں لذت حاصل کرتے ہیں (اور اللہ ہی سیدھے راستے کی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔

اے درویش یہ بات ذہن نشین کر لے کہ لغت میں صلوة کا لفظ دُعا کے معنی میں اور شریعت میں تمام قسم کے اذکار اور چند جسمانی قلبی اور فعلی ہیئتوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، دُعا کی اکمل اور احسن صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کے تمام اعضاء و اجزاء کے ساتھ قوی، فعلی اور عملی طور پر نہایت عجز و انکساری اور استغراق کے ساتھ اپنے آقا کو یوں پکار کہ اس کا سراپا زبان ہو جائے اور اس کے وجود کا ایک ذرہ بھی دعا کرنے میں پیچھے نہ رہے۔

اور یہ منقول ہے کہ صلوة لفظ صلۃ سے مشتق ہے یعنی حقیقت میں نمازی وہ ہے جو نماز کی حالت میں مشاہدہ معبود حقیقی کے نور کے غلبہ سے اور وجود کے نقوش کی تلاش میں مخلوق سے جدا ہو کر واصل باللہ ہو جائے جیسے کہ سرور کائنات علیہ افضل الصلوات، شب معراج بارگاہ ربوبیت میں واصل ہوئے اور اپنی امت کے خواص کے لے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ اس طرح بیان فرمایا کہ الصلوة معراج المومن (نماز مومن کیلئے معراج ہے)

اور اسی طرح حضرت غوث اعظمؒ نے فرمایا:

الصَّلَاةُ صَلَاةُ اللَّهِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ عَنْ غَيْرِهِ (ماسوی اللہ سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا نام نماز ہے۔)

جب فجر کی فرض نماز سے فارغ ہو کر سلام کہے تو جلسہ تشہد سے اپنے پاؤں مڑنے سے پہلے دس بار کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے اسکا کوئی شریک نہیں، اسی کیلئے بادشاہی ہے اور اسی کیلئے حمد ہے۔ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔

اور سورہ اخلاص دس مرتبہ بیٹھ کر پڑھے اور ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

اور ۳۳ بار وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھے۔

اور سات بار کلمہ استغفر اللہ کا تکرار کرے، اس کے بعد تنہائی میں چلا جائے اور قبلہ رو ہو کر مذکورہ ذیل وظائف میں مشغول ہو جائے اور ایک مرتبہ اس دعا کا ورد کرے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ السَّلَامِ الْمُنَزَّلِ الْقُدُّوسِ الطَّاهِرِ هُوَ الْأَطْهَرُ الْمُطَهَّرُ يَا دَهْرُ يَا دَيْهَوْرُ يَا دِيهَارُ يَا أزلُ يَا أَبَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ يَا مَنْ لَا يُعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يُعْلَمُ أَيْنَ هُوَ يَا كَانَ يَا كَيْنَانُ يَا رُوحُ يَا
 كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ يَا تِنٌّ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ (☆ هَيَّا أَشْرَاهِيَا أُذُونِي أَصْبَاوُثُ ☆)
 يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ سُبْحَانَكَ عَلِيَّ حَلِيمِكُ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ
 عَلِيَّ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
 عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

ترجمہ :- اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے پوشیدہ نام کیساتھ جو محفوظ ہے سلامتی
 والا ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، سب سے زیادہ پاک ہے، پاکیزگی دینے والا ہے، اے موجد
 زمانہ، اے ہمیشہ رہنے والے، ازلی وابدی، جو نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور
 اس کا کوئی ہمسر نہیں، اے وہ ذات، اے وہ ہستی جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اے وہ ذات
 جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا، اے وہ ذات جس کے بارے کوئی علم نہیں رکھتا ہے، کہ
 وہ کہاں ہے، اے وہ ذات جو موجود ہے اے روح اے وہ ذات جو ہر وجود سے قبل موجود
 تھی اور ہر وجود کے بعد باقی رہے گی، اے عظیم کاموں کو جلا بخشنے والے میں اللہ تعالیٰ کی ہر
 عیب سے پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے تیرے علم کے بعد تیرے علم پر، تیری

☆ یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں بمعنی یا حی یا قیوم یا ذنک صباحاً مساءً .

ایک جگہ یوں بھی درج ہیں: آھیاً شراھیاً آذناى اصباوُث .

[الفیوضات الربانیة فی المآثر والاوراد القادریة]

ذات پاک ہے تیری قدرت کے بعد تیرے عفو پر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سمیع و علیم ہے اے اللہ محمد ﷺ اور آپ کی اولاد پر ہر چیز کی تعداد کے برابر درود و سلام بھیج جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجا بیشک تو لائق ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔ خدائے متعال کے ننانوے صفاتی نام پڑھ۔

اسماء الحسنیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ هُوَ ، الرَّحْمٰنُ ، الرَّحِیْمُ ، الْمَلِکُ ، الْقُدُّوسُ ،
السَّلَامُ ، الْمُؤْمِنُ ، الْمُهِیْمِنُ ، الْعَزِیْزُ ، الْجَبَّارُ ، الْمُتَكَبِّرُ ، الْخَالِقُ ، الْبَارِئُ ،
الْمُصَوِّرُ ، الْغَفَّارُ ، الْقَهَّارُ ، الْوَهَّابُ ، الرَّزَّاقُ ، الْفَتَّاحُ ، الْعَلِیْمُ ، الْقَابِضُ ،
الْبَاسِطُ ، الْخَافِضُ ، الرَّافِعُ ، الْمُعِزُّ ، الْمُدِلُّ ، السَّمِیْعُ ، الْبَصِیْرُ ، الْحَكِیْمُ ،
الْعَدْلُ ، اللَّطِیْفُ ، الْخَبِیْرُ ، الْحَلِیْمُ ، الْعَظِیْمُ ، الْغَفُوْرُ ، الشَّكُوْرُ ، الْعَلِیُّ ،
الْكَبِیْرُ ، الْحَفِیْظُ ، الْمُقِیْتُ ، الْحَسِیْبُ ، الْجَلِیْلُ ، الْكَرِیْمُ ، الرَّقِیْبُ ،
الْمُجِیْبُ ، الْوَاسِعُ ، الْحَكِیْمُ ، الْوَدُوْدُ ، الْمَجِیْدُ ، الْبَاعِثُ ، الشَّهِیْدُ ، الْحَقُّ ،
الْوَكِیْلُ ، الْقَوِیُّ ، الْمَتِیْنُ ، الْوَالِیُّ ، الْحَمِیْدُ ، الْمُحْصِیُّ ، الْمُبْدِیُّ ، الْمَعِیْدُ ،
الْمُحِیُّ ، الْمُمِیْتُ ، الْحَىُّ ، الْقِیُّوْمُ ، الْوَاحِدُ ، الْمَاجِدُ ، الْاَحَدُ ، الصَّمَدُ ،
الْقَادِرُ ، الْمُقْتَدِرُ ، الْمُقَدِّمُ ، الْمُوْخِرُ ، الْاَوَّلُ ، الْاٰخِرُ ، الظَّاهِرُ ، الْبَاطِنُ ،
الْعَالِیُّ ، الْمُتَعَالِیُّ ، الْبَرُّ ، التَّوَابُ ، الْمُنْعَمُ ، الْمُنْتَقِمُ ، الْعَفُوْ ، الرَّوُّوْفُ ،

الْمَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الرَّبُّ، الْمُقْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ،
 الْمُغْنِي، الْمَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ،
 الصَّبُورُ الَّذِي لَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَالْيَك
 الْمَصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. مُحَمَّدُ الرَّسُولُ السَّيِّدُ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ
 الْأَمِينُ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(اللہ رحمن ورحیم کے نام مبارک سے ابتداء، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جو
 بہت رحم کر نیوالا ہے نہایت مہربان، سلطان با اختیار، بڑا پاک، تمام نقصانات سے محفوظ، اپنے
 عذاب سے امین دینے والا، نگہبان غالب وقوی، بڑے دباؤ والا، عظمت و بزرگی والا، ہر چیز کا
 پیدا کرنے والا، ہر چیز کا موجد، طرح طرح کی صورتیں بنانے والا، بہت بخشنے والا، غلبہ
 رکھنے والا، بہت عطاء کرنے والا، روزی پہنچانے والا، مشکل کشا، بہت علم رکھنے والا، بندوں
 کی روزی محدود کر نیوالا، روزی فراخ کرنے والا، نافرمانوں کو نیست کر نیوالا، فرمانبرداروں
 کو بلند کر نیوالا، عزت دینے دینے والا، ذلیل کرنے والا، بہت سننے والا، ظاہر و باطن کو دیکھنے
 والا، حقائق اشیاء کا عالم، منصف، باریک بین، آگاہ بردبار، بڑا بزرگ، بہت بخشنے والا،
 قدردان، بہت اونچا، تمام چیزوں سے بزرگ، نگہبان، مخلوق کو روزی پہنچانے والا، کافی،
 بزرگ قدر، بزرگ سخی، حفاظت کرنے والا، دُعا قبول کرنے والا، وسیع معلومات والا، مخلوق کا
 حاکم، نیک بندوں کو دوست رکھنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، حاضر، ثابت کارساز، توانا،
 استوار، تمام امور کا متولی، لائق ستائش، ہر چیز کو احاطہ علم میں کر نیوالا، ابتداء کرنے والا،
 دوبارہ پیدا کرنے والا، زندہ کر نیوالا، مارنے والا، زندہ، کارخانہ عالم کو سنبھالنے والا، تنہا،
 بزرگی والا، یکتا، بے نیاز، قدرت والا، صاحب قدرت، اپنے دوستوں کو بارگاہ عزت کی

طرف بڑھانے والا، دشمنوں کو لطف و کرم سے پیچھے ہٹانے والا، سب سے پہلا، سب سے پچھلا آشکارا بلحاظ قدرت، پوشیدہ بلحاظ اپنی ذات کے بلند مرتبہ، مخلوقات کی صفات سے پاک، اپنے لطف سے نیکی کر نیوالا، توبہ قبول کرنے والا، نعمتیں عطاء کرنے والا، بدلہ لینے والا، گناہوں کو مٹانے والا، بہت شفقت کرنے والا، ملک کا مالک، بزرگی و عزت والا، پروردگار عالم، عادل و منصف، تمام مخلوقات کو جمع کر نیوالا، بے پرواہ لوگوں کو بے پرواہ کر نیوالا، تکلیف سے روکنے والا، قدر و شکر کا خالق، نفع و خیر کا خالق، ہدایت دینے والا، موجد، باقی رہنے والا، موجودات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا، صاحب رشید، بڑا صبر کرنے والا ہے، جس کی مثل کوئی نہیں، اور وہ سمیع علیم ہے، اے پروردگار تیری بخشش کے خواستگار ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ہی سب سے بڑھ کر ناصر و مددگار ہے سیدنا محمد ﷺ صادق امین اور کائنات کے رب کے رسول ہیں)

اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا وَبِحَقِّ شَرَفِهَا وَكَرَامَتِهَا وَحَقَائِقِهَا وَدَقَائِقِهَا وَتَفْسِيرِهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَكْرِيمِهَا أَنْ تُعْطِيَ لَنَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الْآخِرَةِ وَأَنْ تُصِرَفَ عَنَّا شَرُّ الدُّنْيَا وَشَرُّ الْآخِرَةِ وَأَنْ لَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اے میرے اللہ میں ان تمام اسماء مبارکہ کے شرف و فضیلت حقیقت و ماہیت ان کی عظمت و عزت کے وسیلہ سے دست سوال دراز کرتا ہوں، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دنیا و آخرت کے شر کو ہم سے دور فرما ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر دنیا و آخرت میں رحم نہ کرے اے اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا
 ذَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا قَسَارًا إِلَّا أَصْلَحْتَهُ وَلَا شَرًّا إِلَّا صَرَفْتَهُ وَلَا غَمًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ
 وَلَا قَبِيحًا إِلَّا سَتَرْتَهُ وَلَا سَقَمًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا فَقْرًا إِلَّا أَغْنَيْتَهُ وَلَا عُسْرًا إِلَّا
 يَسَّرْتَهُ وَلَا نَذْرًا إِلَّا وَفَيْتَهُ وَلَا خَطِيئَةً إِلَّا كَفَرْتَهَا وَلَا حَسَنَةً إِلَّا اصْطَفَيْتَهَا وَلَا
 سَيِّئَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَلَا فِتْرَةً إِلَّا سَدَدْتَهَا وَلَا كُرْبَةً إِلَّا كَشَفْتَهَا وَلَا نِعْمَةً إِلَّا
 تَمَمْتَهَا وَلَا فَضْلًا إِلَّا اسْبَغْتَهُ وَلَا قَحْطًا إِلَّا أَرْفَعْتَهُ وَلَا بَلَاءً وَلَا وَبَاءً إِلَّا
 رَفَعْتَهُمَا ☆ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

”اے اللہ ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے سب گناہ معاف فرما دے ہمارے غموں کو دور
 فرما دے۔ ہمارے قرض ادا فرما دے۔ جبر و زیادتی کو درست فرما۔ برائیوں کو پھیر لے غموں کو
 ہلکا فرما دے۔ ہماری بری باتوں کو چھپالے۔ بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ فقر و تنگدستی کو غنا میں
 تبدیل فرما دے۔ تنگی کو آسانی میں ڈھال دے۔ ہماری نذر و نیاز کو پورا فرما۔ ہماری غلطیوں کو
 مٹا دے۔ ہمارے لئے نیکیوں کو ہی منتخب فرما۔ ہماری برائیوں اور غلط کاریوں کو درست فرما
 دے۔ مصائب و تکالیف کو دور فرما۔ اپنی نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما۔ اپنے فضل و رحمت کو ہم پر
 کامل فرما۔ قحط و خشک سالی کو اٹھالے بلاؤں اور وباؤں کو دور فرما دے۔ اے سب سے زیادہ
 رحیم و کریم تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں۔“

اس کے بعد دس مرتبہ پڑھے:

☆ دَفَعْتُهُمَا. مزید ایک نسخہ میں یہ ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

”پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو کہو مجھے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے۔“

اور دس مرتبہ یہ بھی پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

”اے اللہ، اے پناہ دینے والے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔“

اور تین بار یہ بھی پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَبِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

”اللہ کے نام سے ابتداء جس اسم مبارک کے باعث زمین و آسمان کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سمیع و علیم ہے۔“

اور تین مرتبہ پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وَأَقْضِ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَتْرُكْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَنَجِّنَا مِنْ عَذَابِكَ وَجَنِّبْنَا مِنْ سَخَطِكَ.

”اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہی قابل ستائش ہے۔ اللہ کی ذات پاک اور عظیم ہے۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت مگر اسی بلند و عظیم ذات کی توفیق سے۔“

ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما۔ ہم پر فضل فرما۔ اپنی رحمت کی بارش فرما۔ ہم پر اپنی برکات نازل فرما اور ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ فرما۔ اپنے عذاب سے نجات دے۔ اپنے غصہ سے بچالے۔“

اور تین باریہ بھی پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ رِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمُنْتَهَى عِلْمِهِ
وَمَلَاءَ سَمَوَاتِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

”میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں مخلوق کی تعداد، عرش عظیم کے وزن، اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا، آسمانوں کی برائی اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔“

اور دس مرتبہ یہ پڑھے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَالظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

”اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کی ذات پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی سب سے عظیم ہے۔ نہ تو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اور میں اللہ تعالیٰ اول و آخر اور ظاہر و باطن سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ساری بادشاہی اسی کی ہے سب ستائش اسی کی ہے اور اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اس کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنْتَ هَدَيْتَنِي وَ أَنْتَ تَطْعَمُنِي وَ أَنْتَ تَسْقِينِي وَ أَنْتَ تُمِيتُنِي وَ أَنْتَ تُحْيِينِي وَ أَنْتَ رَبِّي لَا رَبَّ لِي سِوَاكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ حُدُكَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ اسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ.

”اے میرے اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی، تو ہی مجھے کھلاتا ہے اور تو ہی مجھے پلاتا ہے تو ہی مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے تو ہی میرا پروردگار ہے تیرے سوا کسی اور رب کا وجود نہیں، تیرے سوا کوئی اور ہستی عبادت کے لائق نہیں۔ صرف تو ہی معبود ہے میں تجھی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔“

ایک بار یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِلَّا أَنْتَ وَ تَبَّ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوَنِي فِي رِضَاكَ ضَعْفِي وَ اجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي وَ بُلْغَتِي وَ بَشِّرْنِي بِرَحْمَتِكَ الَّتِي أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ خُذْ لِي الْخَيْرَ بِنَاصِيَتِي وَ اجْعَلْ وَفَاءً فِي صُدُورِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَهْدًا عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَ الْأَخْلَاقِ وَ الْأَهْوَاءِ وَ الْأَذْوَاءِ.

”اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں حسب استطاعت تیرے عہد و وعدہ پر قائم ہوں جو اعمال میں نے کیے

ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ بے شک گناہوں کا معاف فرمانے والا صرف تو ہی ہے۔ میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میں کمزور و ناتواں ہوں اپنی رضا کیلئے میری کمزوری کو قوت میں تبدیل فرما اور اسلام کو میری آخری خواہش اور انتہائے مقصود بنا مجھے اپنی اس رحمت کی بشارت فرما جس کی میں امید کرتا ہوں مجھے نیکی و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور مؤمنین کے دلوں میں اپنے پاس عہد و وفا پیدا فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے اللہ مجھے برے کاموں، برے اخلاق، بری خواہشات اور بیماریوں سے بچا۔“

اور تین دفعہ یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں دانستہ طور پر اور اگر نادانستہ طور پر ایسا کروں تو تیری مغفرت چاہتا ہوں۔“

اور تین مرتبہ یہ پڑھے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

”میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اے میرے رب! میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے اور تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ (شیاطین) حاضر ہوں۔“

اور تین باریہ بھی پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي
عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ.

”اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتی ہے اور
اس سے جو دو پاؤں پر چلتی ہے اور اس سے جو چار پاؤں پر چلتی ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا
ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

وظائف سورۃ بقرۃ و آل عمران

﴿ اور ہر پنجگانہ نماز کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ، آیۃ الکرسی اور آیت شہد اللہ اِنَّهُ لَا
اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ. ☆

اور آیت قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُرْتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ☆
پڑھے۔

اور ایک روایت کے مطابق آیت شہد اللہ اِنَّهُ اور قُلِ اللّٰهُمَّ کے بجائے اَمِنْ

☆ (آل عمران: ۱۸، ۱۹) ☆ (آل عمران: ۳، ۲۶)

الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
 وَرُسُلِهِ قَفَّ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ قَفَّ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
 رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
 مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ
 عَنَّا وَقِمْ قِفَّةَ وَاعْفِرْ لَنَا وَقِفَّةَ وَأَرْحَمْنَا وَقِفَّةَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ۔ (بقرہ، ۲: ۲۸۵) پڑھے۔

اور ایک مرتبہ یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَخْطَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَذْوَاءِ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَ اسْتَغْفِرُكَ لِمَا
 لَا أَعْلَمُ.

”اے اللہ ہمیں برے کاموں، برے اخلاق، خطاؤں، نفسانی خواہشات اور بیماریوں
 سے محفوظ رکھ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دانستہ طور پر تیرے ساتھ
 شریک ٹھہراؤں اور تیری مغفرت چاہتا ہوں اگر نادانستہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو۔“

اور تین بار یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ
 الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ أَحِينَا مُتَمَسِّكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ.

”اے اللہ محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیج۔ اے اللہ اے اسلام کے والی!

ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے کاربند رہیں اور اسلام کے ساتھ ہی تجھ سے ملاقات کریں۔ اے اللہ اے اللہ درود و سلام ہو تمام مخلوق سے بہتر محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر۔ ﴿ [۱]

مسیبعت عشرہ پڑھنے کا طریقہ

اس کے بعد ان مسیبتات عشرہ [۲] کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اس طرح ترتیب کے ساتھ پڑھے: (۱) سورۃ فاتحہ (۲) سورۃ الناس (۳) سورۃ فلق (۴) سورۃ اخلاص (۵) سورۃ الکافرون اور (۶) آیۃ الکرسی میں سے ہر ایک کو بسم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ پڑھے۔ (۷) سات مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اور ایک مرتبہ: عَدُوْ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَمَلَأْ مَا عَلِمَ اللّٰهُ اور ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ (۸) اور سات بار یہ پڑھے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا وَاغْفِرْ لَّهُمَا اَللّٰهُمَّ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

”اے اللہ میرے والدین کے اور ان کی تمام اولاد کے گناہ بخش دے۔ میرے والدین

[۱] قوسین اے اندر دیے گئے یہ اوراد ”تیسیر الشاغلین“ کے دوسرے نسخے میں نہیں ہیں۔

[۲] سات سات مرتبہ پڑھے جانے والے دس اوراد کو مسیبتات عشرہ کہا جاتا ہے۔

پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور ان دونوں کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مؤمن مردوں اور عورتوں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو وفات پا گئے ہیں سب کے گناہ بخش دے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔“

(۹) اور سات بار یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي عَاجِلًا وَآجِلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ
أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ بَرٌّ
رَوْفٌ رَحِيمٌ.

”اے اللہ اے میرے پروردگار میرے ساتھ جلدی یادیر سے دین و دنیا اور آخرت میں وہی کچھ کر جس کا تو اہل ہے اے ہمارے آقا وہ کچھ نہ فرما جس کے ہم اہل ہیں بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا، سخی و کریم اور رؤف و رحیم ہے۔“

اس کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھے:

(۱۰) سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الدِّيَانِ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الشَّدِيدِ
الْأَرْكَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ
سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ. (نماز عصر کے بعد یوں کہے:) مَنْ يَذْهَبُ
بِالنَّهَارِ وَيَأْتِي بِاللَّيْلِ.

”پاک ہے اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات جو غلبے و قدرت والی ہے پاک ہے بہت اشتیاق رکھنے والا بہت احسان کرنے والا، پاک ہے۔ اللہ کی ذات جس کی گرفت مضبوط ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جسے کوئی حالت دوسری

حالت سے ہٹا کر اپنی جانب مشغول نہیں کرتی، پاک ہے وہ ہستی جو رات کے بعد دن کو لاتی ہے..... اور دن کے بعد رات کو لاتی ہے۔“

اور ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ سُبْحَانَ مَنْ لَهُ لُطْفٌ خَفِيٌّ سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

”اے اللہ تیری ذات کتنی پاکیزہ ہے اور تیری ذات قابل ستائش ہے علم کے باوجود بردباری پر، تیری ذات کتنی عظیم الشان ہے قدرت پانے کے بعد معاف فرمادینے پر، پاک ہے وہ ذات جس کی بے پایاں مہربانیاں ہیں۔ یا اللہ اسی کی تسبیح و تقدیس ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو اور زمین و آسمان میں اسی کی حمد و ثنا ہے رات کے وقت اور جب تم دن کرتے ہو وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو اور زمین کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا پاک ہے تیرے رب عزت والے کی ذات ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام و درود ہو رسولوں اور پیغمبروں پر اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پروردگار عالم ہے اور قابل ستائش صرف اللہ ہے جو سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے اور زمین و آسمان میں اسی کی بڑائی ہے اور

وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

پھر اکیس مرتبہ یا جَبَّارُ کا ورد کرے اور اس کے بعد کہے۔

☆ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ ذَنْبِي يَا سَتَّارُ اسْتُرْ عَيْبِي يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي يَا سَلَامُ
سَلِّمْنِي يَا تَوَّابُ تَبَّ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِي بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاَعْصِمْنِي بِالْاِسْلَامِ
قَاعِدًا وَاَعْصِمْنِي بِالْاِسْلَامِ وَاِفْدًا وَلَا تُشِمْتُ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ غَيْرِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَاتٍ اَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيَّتِهَا اَسْأَلُكَ الْخَيْرَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ.

”اے بہت زیادہ بخشنے والے! میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے عیبوں کو
چھپانے والے! میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اے رحم فرمانے والے! مجھ پر رحم فرما اے
سلامتی والے! مجھے سلامتی کے ساتھ رکھ۔ اے توبہ قبول کرنے والے! میری توبہ قبول فرما۔
اے اللہ مجھے اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ کر کھڑے ہونے کی حالت میں اور اسلام کے ساتھ
محفوظ رکھ بیٹھنے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں مجھے اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ۔ میرے
دشمنوں کو میری مصیبت پر خوش کر اور نہ ہی حسد کرنے والے کو اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا
ہوں اپنے نفس کے شر سے، غیر کے شر سے اور ہر اس شے کے شر سے جس کی پیشانی تیرے
ہاتھ میں ہے۔ میں تجھ ہی سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا سوال کرتا ہوں۔“

اور ستر مرتبہ یہ پڑھے:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

☆ دوسرے نسخے میں اس جگہ یا جَبَّارُ اُجْبِرْ قَلْبِيْ کے الفاظ بھی ہیں۔

اور ستر بار کلمہ الْحَسِيبُ کا ورد کرے۔

اور ایک باریہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِذَا ذَكَرَهُ الْأَبْرَارُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ
 اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَصَلْوَةٌ لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا وَلَا يُحْصَى عَدْدُهَا صَلْوَةٌ تُشْحِنُ الْهَوَاءَ
 وَتَمْلَأُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ الْعُلَى صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ حَتَّى تَرْضَى صَلْوَاةً لَا
 حَدَّ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَصَلِّ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَوَتِكَ شَيْءٌ وَارْحَمْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ
 الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 مِنَ الْمَنْزِلَةِ الْمُقْعَدِ الْمُقْرَبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ
 وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خَلِقَ وَمَا تَخْلُقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 بِعَدَدِ مَا قَامَ وَقَعَدَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ يَوْمَنَا يَوْمَ التَّوْبَةِ وَاجْعَلْ يَوْمَنَا يَوْمَ الرَّحْمَةِ
 وَاجْعَلْ يَوْمَنَا يَوْمَ الْمَغْفِرَةِ وَاجْعَلْ يَوْمَنَا يَوْمَ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ جُلُوسَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلْ قِيَامَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلْ سُكُوتَنَا
 لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلْ كَلَامَنَا لَكَ خَالِصًا وَاجْعَلْ سُكُونَنَا لَكَ خَالِصًا
 وَاخْرِجِ الرَّيَاءَ وَالشُّكَّ مِنْ قُلُوبِنَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ
 النِّفَاقِ وَأَعْمَالِنَا مِنَ الرَّيَاءِ وَالسِّنْتِنَا مِنَ الْكُذْبِ وَالغِيْبَةِ وَفُرُوجِنَا مِنَ الزِّنَا
 وَبُطُونِنَا مِنَ الْحَرَامِ وَعُيُونِنَا مِنَ الْخِيَانَةِ وَأَيْدِينَا مِنَ السَّرْقَةِ وَالظُّلْمِ فَإِنَّكَ
 تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ
 وَمِنْ دَرَكِ الشَّتَاءِ وَمِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ إِنَّكَ سَمِيعٌ

الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ وَعَظَمَتِكَ وَبِنُورِكَ الَّذِي لَا يَنْطَفِئُ
 وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَبِمَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ فَكَانَ وَبِمَا أَمْسَكَتَ بِهِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ
 اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَى اللَّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
 مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي
 اسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تَبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا
 وَعَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الْكَرِيمُ رَضِيَ ثُمَّ خَالَفْتُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدْتُكَ بِهِ
 مِنْ نَفْسِي ثُمَّ أَخْلَفْتُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا دَعَانِي إِلَيْهِ الْهَوَى مِنْ قَبْلِ الرَّخِصِ
 مِمَّا اشْتَبَهَ عَلَيَّ وَهُوَ عِنْدَكَ حَرَامٌ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ نِعْمِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا
 عَلَيَّ فَتَقَوَيْتُ بِهَا عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا
 غَيْرُكَ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ سِوَاكَ وَلَمْ يَسْعَهَا إِلَّا عِلْمُكَ وَلَمْ يُنَجِّنِي
 مِنْهَا إِلَّا عَفْوُكَ وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ يَمِينٍ سَلَفَتْ مِنِّي فَحَشْتُ فِيهَا عِنْدَكَ
 وَأَنَا مَا خُوذُ بِهَا وَاسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي
 سَوَادِ اللَّيْلِ وَبَيَاضِ النَّهَارِ فِي كُلِّ خَلَاءٍ وَمَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ وَأَنْتَ نَاطِرٌ بِهَا
 إِذَا اجْتَرَحْتُهَا وَآتَيْتُ بِهَا مِنَ الْعِصْيَانِ يَا حَلِيمٌ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
 كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَاسْتَغْفِرُكَ
 لِكُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْ جَبْتُ عَلَيَّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَاطْرَافِ النَّهَارِ فَتَرَكْتُهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا

أَوْ خَطَاً أَوْ نِسْيَانًا وَ أَنَا مَسْئُولٌ بِهَا وَ اسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَتُهَا غَفْلَةً أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ قِلَّةَ مَبَالَاتٍ وَ أَنَا
 مُعَائِبٌ بِهَا وَ اسْتَغْفِرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ حُدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ لَكَ الْحَمْدُ وَ الشَّانُ لَكَ الْمَجْدُ وَ الْبَقَاءُ لَكَ
 الْجُودُ وَ الْعَطَاءُ أَنْتَ حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

”اے اللہ، محمد ﷺ پر درود بھیج جب نیک لوگ آپ کا ذکر کریں اور آپ پر درود بھیجیں
 رات اور دن کے آنے جانے کے اوقات میں، ایسا درود جو کبھی ختم نہ ہو جس کی تعداد ان گنت
 ہو جو ہوا و فضا کو بھر دے، زمین اور بلند آسمان کو پر کر دے۔ اور درود بھیج آپ پر اور آپ کی
 اولاد پر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے ایسا درود جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو۔ آپ ﷺ پر درود
 بھیج یہاں تک کہ تیرے درود سے کوئی شے بچاتی نہ بچے اور محمد ﷺ پر رحمت بھیج۔ یہاں تک کہ
 تیری رحمت سے کوئی شے باقی نہ رہے۔ اور آپ ﷺ پر اپنی برکت نازل فرما یہاں تک کہ
 تیری برکات، کا کوئی حصہ باقی نہ بچے۔ اور آپ ﷺ پر سلام بھیج یہاں تک کہ سلام کا کوئی جز
 باقی نہ رہے، اور آپ پر سلام و درود بھیج جو قیامت کے روز آپ ﷺ کو تیرے قریب ترین جگہ
 پر اتارے یہاں تک کہ اس سلام کا کچھ حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اور آپ ﷺ پر درود بھیج اس
 کے برابر جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اور جو کچھ تو قیامت تک پیدا کرے گا۔

اور آپ ﷺ پر درود بھیج کھڑے ہونے اور بیٹھنے والی چیزوں کے برابر۔ اے اللہ
 ہمارے آج کے دن کو تو بہ کا دن بنا، اسے رحمت کا دن بنا، مغفرت کا دن بنا اور ہمارے لئے
 آگ سے آزادی کا دن بنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ
 ہمارا بیٹھنا اپنے لئے خالص کر دے۔ ہمارا کھڑا ہونا اپنے لئے خالص بنا دے، ہماری خاموشی

کو اپنے لئے خالص بنا ہماری گفتگو کو اپنے لئے خالص بنا، ہمارے آرام و سکون کو اپنے لئے خالص بنا، ریا کاری اور شکوک کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، اعمال کو ریا سے، زبانوں کو جھوٹ اور غیبت سے، شرمگاہوں کو زنا کاری سے، پیٹوں کو حرام غذا سے، آنکھوں کو خیانت سے اور ہاتھوں کو چوری اور ظلم سے پاک فرما۔ بلاشبہ تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔

اے اللہ! میں آزمائش کی مشقت، بیماری کی گہرائی، مصیبت پر دشمنوں کی خوشی اور بری قضا و قدر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے دبدبہ و عظمت اور تیرے نور کے طفیل جو کبھی بجھتا نہیں اور تیری عزت کے طفیل جس کا کبھی ارادہ نہیں کیا جاسکتا اور جس چیز کو تو نے وجود میں لانے کا ارادہ کیا پس وہ وجود میں آگئی اور اس چیز کے طفیل جس کے ساتھ تو نے آسمانوں اور زمین کو مضبوط کر دیا کہ وہ کبھی اپنے مقام سے ہٹتے نہیں، صرف تو ہی جانتا ہے، مجھ پر رحم فرما اور میری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بذات خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں سے جو پہلے کیئے ہیں اور جو پیچھے کئے ہیں جو پوشیدہ کئے ہیں اور جو اعلانیہ کئے ہیں اور میرے جن گناہوں کا تجھے علم ہے تو ہی سب سے پہلے اور تو ہی آخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں ہر اس گناہ سے تیری بخشش چاہتا ہوں جس سے میں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ اس کا ارتکاب کیا، اور میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں اس بات سے جس کا تو نے اپنی

رضا کے لئے مجھ سے وعدہ کیا پھر میں نے تیری مرضی کے خلاف کیا، اور اس بات کے بارے میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا اپنے بارے میں اور پھر تیری مخالفت کی۔ اور تیری مغفرت چاہتا ہوں اس کام سے جس کی طرف خواہشات نے مجھے تخفیف و رخصت کی بنا پر بلایا اور وہ مجھ پر مشتبہ ہو گیا حالانکہ وہ کام تیرے نزدیک حرام تھا۔ اور مغفرت چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جو تو نے مجھ پر کی ہیں لیکن میں نے ان نعمتوں سے طاقت حاصل کر کے گناہ کئے۔ میں معافی چاہتا ہوں ان گناہوں سے جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اور تیرے سوا کسی کو ان کے بارے میں اطلاع نہیں اور کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں۔ اور ان گناہوں سے تیرے عفو و کرم کے سوا اور کوئی مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ اور تیری ہی مغفرت چاہتا ہوں گذشتہ قسموں سے جو میں نے کھائیں اور تیرے ہاں جھوٹی قسم کھا کر حادثہ ہوا اور ان پر میری گرفت ہوئی۔ اے غیب و حاضر کے جاننے والے میں تیری مغفرت چاہتا ہوں ہر اس عمل سے جو میں نے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی میں کیا اور تو اسے دیکھ رہا ہے جبکہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور نافرمانی کی۔ اے بردبار! اے وہ ہستی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیری ذات پاک ہے بلاشبہ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور رحم فرما۔ تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں ہر اس فریضہ سے جسے تو نے مجھ پر شب و روز کی تمام گھڑیوں میں واجب کیا اور میں نے اسے جان بوجھ کر یا غلطی سے اور بھول کر چھوڑ دیا حالانکہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور میں تیری بخشش کا خواستگار ہوں نبی کریم ﷺ کی تمام سنتوں کے بارے میں جنہیں میں نے غفلت سے یا بھول کر یا نادانی میں یا سستی و کاہلی اور لا پرواہی کے باعث چھوڑ دیا اور ان کی وجہ سے میں گناہگار ہوں اور میں تیری ہی مغفرت چاہتا ہوں صرف تو ہی

معبود حقیقی ہے تیرا کوئی شریک نہیں، اے جہانوں کے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔ تیرے لئے ہر قسم کی حمد و ثناء ہے تیرے لئے ہی سب برزگی اور بقا ہے، سخاوت اور عطا صرف تیرے لئے ہی ہے تو ہمیں کافی ہے اور تو اچھا کارساز، اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے۔“

اور اس دعا کے آخر میں درود شریف **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ إِذَا ذَكَرَهُ** **الْأَبْرَارُ.....** الخ پڑھے (جو اسی وظیفہ کے شروع میں گزر چکا ہے) اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ سبعت عشرہ نہ پڑھ سکے تو پھر ان کی جگہ **حرز ابودرداء** ایک بار پڑھے جو یہ ہے:

حرز ابودرداء رضی اللہ عنہ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

”اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ پر ہی میں نے توکل کیا اور تو عرش عظیم کا مالک ہے جو اللہ نے چاہا وہ تھا اور جو نہ چاہا وہ نہ تھا۔ نہ تو نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ بدی سے فرار کی طاقت مگر اسی اللہ عظیم کی توفیق سے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر شے اس کے شمار میں ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم کا مالک ہے۔“

حرز مذکور کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان اور ادکا بھی ورد

کرے:

لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

(سومرتبہ یا پانچ سومرتبہ یا ہزار مرتبہ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

(ہزار بار اور اگر زیادہ وقت نہ ہو تو سومرتبہ)

(اور تریسٹھ (۶۳) بار یہ پڑھے) يَا قَدِيمُ يَا سَمِيعُ يَا رَحِيمُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، مِنْ

عَذَابِكَ أَسْتَجِيرُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنِي.

اور بائیس (۲۲) بار سورہ فاتحہ یا سونبار ہر نماز کے بعد ورد کرے اور سورہ لقمان، سورہ آل

سجدہ، سورہ یسین اور سورہ نوح کا بھی ورد کرے۔

درج ذیل وظیفہ جو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ملفوظات میں سے ہے۔ نماز پنجگانہ اور

بالخصوص نماز فجر کے بعد پڑھے۔ یہ وظیفہ ماسوی اللہ سے توجہ ہٹانے، بارگاہ ایزدی میں قرب

حاصل کرنے اور دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے خاص ہے۔ اس دعا کے

فضائل بہت زیادہ ہیں، اس لئے تفصیل کے ساتھ لکھا جاتا ہے:

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وظیفہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أَحَدٌ ۝ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ الصِّفَاةُ الْعُلْيَا وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَا

تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوهِ وَرَبِّهِ ۝ رَبَّنَا آمَنَّا بِكَ وَبِاسْمَائِكَ وَبِصِفَاتِكَ وَبِمَا أَنْتَ بِهِ مَوْصُوفٌ فِي عُلُوِّ ذَاتِكَ كَمَا يَنْبَغِي بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكَمَا أَنْتَ لَهُ فِي عَظِيمِ رُبُوبِيَّتِكَ وَكَمَا هُوَ لَاقٍ بِكَ فِي كَمَالِ إِلَهِيَّتِكَ آمَنَّا بِكُتُبِكَ وَرُسُلِكَ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَبِمَاجَاءِ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ عَلَىٰ مُرَادِكَ وَمُرَادِ رَسُولِكَ وَكَمَا يُحِبُّ فِي ذَلِكَ وَتَرْضَىٰ وَعَلَىٰ مَا هُوَ فِي عِلْمِكَ الْأَعْلَىٰ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْأَخْفَىٰ يَا قِيَوْمَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ إِنَّا عَاجِزُونَ قَاصِرُونَ بُرَاءٌ ۝ وَالْيَكِ مِنَ الزَّيْغِ وَالزَّلَلِ مُطِيعُونَ لِمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ فِعْلٍ وَقَوْلٍ وَعَقْدٍ وَعَمَلٍ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَاحِينَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَآمِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ وَابْعَثْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ وَاهْدِنَا لِحَقَائِقِ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا مَنْ هُوَ الْأَوَّلُ

☆ ای نتوب الیک

قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ يَا نُورَ الْأَنْوَارِ يَا عَالِمَ الْأَسْرَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مَالِكَ يَا عَزِيزُ يَا قَهَّارُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ يَا غَفَّارُ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ يَا سِتَّارَ الْغُيُوبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ بِنُورِكَ الْمُبِينِ وَرَسُولِكَ الصَّادِقِ الْأَمِينِ وَآتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الشَّفِيعَ الْمُرْتَضَى وَرَسُولَكَ الْمُجْتَبَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الْعُلْيَا وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَاتِ وَبِكُتُبِكَ الْمُنَزَّلَةِ وَبِكِتَابِكَ الْعَزِيزِ وَبِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ يَا سَرِيعَ الْحِسَابِ يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ وَمِنْ سَلَكِ الْأَيْمَنِ فِي الطَّرِيقَيْنِ وَتَرْحَمَنَا بِرَحْمَتِكَ وَتَعْصِمَنَا بِعِصْمَتِكَ وَتُدَلِّنَا بِكَ عَلَيْكَ لِنَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَتُدَلِّنَا بِكَ عَلَيْكَ لِنَكُونَ مِنَ الْوَاصِلِينَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّقَى وَالنُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ مَا عَلِمْنَاهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ
 وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اللَّهُمَّ
 لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَ لَا
 حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ
 أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَ أَبُوءُ
 لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ وَ تَبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ صُحْبَةَ
 الْخَوْفِ وَ غَلْبَةَ الشُّوقِ وَ ثَبَاتَ الْعِلْمِ وَ دَوَامَ الْفِكْرِ وَ نَسْأَلُكَ سِرَّ الْأَسْرَارِ
 الْمَانِعِ مِنَ الْأَضْرَارِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَنَا مَعَ الذَّنْبِ قَرَارٌ وَ ثَبْتًا وَ اهْدِنَا إِلَى الْعَمَلِ
 بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بَسَّطْتَهَا لَنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ وَ ابْتَلَيْتَ بِهِنَّ إِبْرَاهِيمَ
 خَلِيلَكَ فَاتَّمَهَنَّ قُلْتَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ
 عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ فَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ
 آدَمَ وَ نُوحَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْكَ سَبِيلَ أَيْمَةِ الْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى
 اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ
 تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
 مِنَ الظَّالِمِينَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مُرِيدُ يَا حَيُّ
 يَا قَيُّومُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا
 ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِنُورِكَ إِلَيْكَ وَ أَقِمْنَا بِصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ
 يَدَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَلْسِنَتَنَا رَطْبَةً بِذِكْرِكَ وَ نُفُوسَنَا مُطِيعَةً لِأَمْرِكَ وَ قُلُوبَنَا

مَمْلُوءَةٌ بِمَعْرِفَتِكَ وَأَرْوَا حِنَا مُكْرَمَةً بِمُشَاهَدَتِكَ وَأَسْرَارَنَا مُنْعَمَةً بِقُرْبِكَ
 وَ(مُرَبَّدٌ لِدُنُوبِكَ م ۱) إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا مَنْ لَا يَسْكُنُ قَلْبٌ إِلَّا
 بِقُرْبِهِ وَأَنْوَارِهِ، وَلَا يَحْيَى عَبْدًا إِلَّا بِلُطْفِهِ وَأَبْرَارِهِ وَلَا يَبْقَى وَجُودٌ إِلَّا بِإِمْدَادِهِ
 وَإِظْهَارِهِ يَا مَنْ آتَى عِبَادَهُ الْأَبْرَارَ وَ أَوْلِيَاءَهُ الْمُقَرَّبِينَ الْأَخْيَارَ بِمُنَاجَاتِهِ وَ
 أَسْرَارِهِ يَا مَنْ أَمَاتَ وَ أَحْيَى وَ أَفْقَرَ وَ أَغْنَى وَ أَسْعَدَ وَ أَشْقَى وَ اضْلَلَّ وَ أَهْدَى
 وَ أَبْلَى وَ عَفَى وَ قَدَّرَ وَ قَضَى كُلَّ شَيْءٍ بِعَظِيمِ تَدْبِيرِهِ، سَابِقَ أَقْدَارِهِ يَا رَبِّ إِلِي
 أَيِّ بَابٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيَّ غَيْرَ بِابِكَ وَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ
 يَا رَبِّ إِلَيَّ أَيْنَ أَقْصِدُ وَ أَنْتَ الْمَقْصُودُ وَ أَيِّ جَنَابٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَ أَنْتَ الْحَقُّ
 الْمَوْجُودُ وَ مَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِينِي وَ أَنْتَ صَاحِبُ الْكَرَمِ وَ الْجُودِ وَ مَنْ ذَا الَّذِي
 أَسْأَلُهُ وَ أَنْتَ الرَّبُّ الْمَعْبُودُ وَ رَبُّ حَقِيقِي حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْتَكِي إِلَّا إِلَيْكَ
 رَبِّ حَقِّقْ وَ لَا زِمْ لِي أَنْ لَا أَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْكَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ يَا
 مَنْ إِلَيْهِ يُلْجَأُ الْخَائِفُونَ يَا مَنْ بِكَرَمِهِ وَ جَمِيلِ عَوَائِدِهِ يَتَعَلَّقُ الرَّاجُونَ يَا مَنْ
 بِسُلْطَانِ قَهْرِهِ وَ عَظِيمِ رَحْمَتِهِ وَ بَرِّهِ يَسْتَعِيثُونَ الْمُضْطَرُّونَ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ
 الْغِيَاثُ أَغْنِنِي يَا مَنْ لَوْ سِيعَ عَطَائِهِ وَ جَمِيلِ فَضْلِهِ وَ نِعْمَائِهِ تَبْسُطُ الْأَيَادِي وَ
 يَسْأَلُ السَّائِلُونَ (الْمُتَفَرِّحُونَ م ۲) يَا رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ
 آمِنُ خَوْفِي إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ وَ لَا تُخَيِّبْ رَجَائِي إِذَا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا

م ۱ مُرِيدَةٌ لِمُدَانَاتِكَ۔ اختلاف نسخ۔ یہاں ترجمہ مخطوطہ ہذا کے مطابق کیا گیا ہے۔

م ۲ فی نسخة الاخرى الْمُضْطَرُّون۔

قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا ضَالُّوْنَ فَاهْدِنَا وَ اِنَّا ضَعْفَاءُ فَقَوِّنَا وَ
 اِنَّا فُقَرَاءُ فَاعْزِزْنَا وَ اِنَّا مُذْنِبُوْنَ فَاعْفِرْ لَنَا يَا نُوْرُ يَا هَادِيْ يَا غَنِيُّ يَا غَفُوْرُ يَا رَحِيْمُ
 اَللّٰهُمَّ بِرُوْحٍ مِنْ عِنْدِكَ اَيَّدِنَا وَ مِنْ عِلْمِكَ اَلْمَكْنُوْنَ عَلِمْنَا وَ عَلٰى دِيْنِكَ
 الَّذِي رَضِيْتَهُ ثَبَّتْنَا وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنٰى ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا
 نَسْأَلُكَ فِي الدُّنْيَا طَاعَتِكَ وَ الْفِرَارَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ فِي الْاٰخِرَةِ جَنَّتِكَ وَ
 رُوْبَتِكَ وَ السَّلَامَةَ مِنْ عَقُوْبَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَحِيْنَا فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنِيْنَ طَائِعِيْنَ وَ
 تَوَقِّنَا مُسْلِمِيْنَ تَائِبِيْنَ وَ اجْعَلْنَا عِنْدَ السُّؤَالِ ثَابِتِيْنَ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ الْكِتَابَ
 بِالْيَمِيْنِ وَ اجْعَلْنَا يَوْمَ الْفُرْعِ الْاَكْبَرِ اٰمِنِيْنَ وَ ثَبَّتْ اَقْدَامَنَا عَلٰى الصِّرَاطِ
 الْمُسْتَقِيْمِ وَ اَوْصَلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَ كَرَمِكَ اِلَى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَ نَجِّنَا بِحِلْمِكَ
 وَ عَفْوِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ اَللّٰهُمَّ يَا بَرُّ يَا رَحِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا
 اَصْبَحْنَا لَا نَمْلِكُ نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا فَقَرَاءَ لَا شَيْءَ لَنَا ضَعْفَاءُ لَا قُوَّةَ لَنَا وَ اَصْبَحَ
 الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِيْكَ وَ اَمْرُ كُلِّ شَيْءٍ رَاجِعٌ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ فَوْقْنَا لِمَا بِهِ اَمْرَتْنَا وَ
 اعْنَا عَلٰى مَا كَلَّفْتَنَا وَ اغْنِنَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ اجْبِرْنَا مَا
 فَاتَ بِكَرَمِكَ وَ عِنَايَتِكَ وَ اَيَّدِنَا بِالتَّوَجُّهِ اِلَيْكَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا
 مَلِكُ يَا قَدِيْرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيْرُ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَايُنَا وَ لَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتُنَا
 مِنْ خَيْرٍ وَ عَدَّتْهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَاِنَّا
 نَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَ نَسْأَلُكَ اِيَّاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
 اَشْكُوْ اِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰى النَّاسِ اَنْتَ رَبُّ
 الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اَنْتَ رَبِّيْ اِلَى مَنْ تَكَلَّمْتَنِيْ اِلَى عَدُوِّ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ وَ اِلَى صَدِيْقٍ

قَرِيبٌ كَلَّفَتْهُ وَ مَلَكَّتَهُ اَمْرِي اِنَّ لَا عَدُوَّ اِلَّا هُوَ الَّذِي مَلَكَّتَهُ اَمْرِي اِنَّ لَمْ يَكُنْ
بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِي اَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ
الَّذِي اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اَنْ يَنْزَلَ لِي
غَضَبُكَ اَوْ يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اِنَّ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ اِنِّي اَشْكُو اِلَيْكَ اَنْ تَلَوْنَ
اَحْوَالِي وَتَوَقَّفَ سْوَالِي يَا مَنْ تَعَلَّقْتُ بِلُطْفِ كَرَمِهِ وَجَمِيْلِ عَوَائِدِهِ اَمَالِي يَا
مَنْ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ خَفِيُّ حَالِي يَا مَنْ يَعْلَمُ عَاقِبَةَ اَمْرِي وَمَالِي يَا رَبِّ اِنَّ نَاصِيَتِي
بِيَدَيْكَ وَ اُمُورِي كُلُّهَا تَرْجِعُ اِلَيْكَ وَ اَحْوَالِي لَا تَخْفِي عَلَيْكَ وَ اَحْزَانِي
وَ هُمُومِي مَعْلُومَةٌ لَدَيْكَ قَدْ جُلَّ مَصَائِبِي وَ عَظُمَ اِكْتِيَابِي وَ تَذَهَّلَ نَضْرَةٌ
شَبَابِي وَ تَكَدَّرَ عَلَيَّ صَفْوُ شَرَابِي وَ اِحْتَمَعْتُ عَلَيَّ هُمُومِي وَ تَاخَّرَ عَنِّي تَعَجِيْلُ
مَطْلَبِي (وَ تَنْجِيزُ عِتَابِي م ۱). يَا مَنْ اِلَيْهِ مَرْجِعِي وَ مَالِي يَا مَنْ يَعْلَمُ هَوَاجِسَ
سِرِّي وَ عَلَانِيَةَ خَطَايِي وَ يَعْلَمُ مَا عَنْهُ مَا هِيَ عَمَلِي وَ حَقِيْقَةَ مَا لِي اِلٰهِي قَدْ
عَجَزْتُ قُدْرَتِي وَ قَلْتُ حِيْلَتِي وَ ضَعُفْتُ قُوَّتِي وَ تَاهَتْ فِكْرَتِي وَ اَشْكَلْتُ
قَضِيَّتِي وَ اتَّسَعَتْ قِصَّتِي وَ سَاءَتْ حَالَتِي وَ بَعُدَتْ اُمْنِيَّتِي وَ عَظُمَتْ حَسْرَتِي
(وَ تَسَاعَدَتْ زِفْدَتِي م ۲) وَ فَضَحَ مَكْنُونِ سِرِّي وَ سَأَلْتُ دَمْعِي وَ اَنْتَ

(۱) یہاں تَنْجِيزُ کا آنا محال ہے۔ ممکن ہے کہ تَنْجِيزُ ہو اس سے معنی بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ یہ

عبارت تَنْجِيزُ اِعْتَابِي وَ عِتَابِي بھی ملتی ہے۔ واللہ اعلم

(۲) اصل عبارت تَصَاعَدَتْ ہے اور یہی مفہوم قریب بھی ہے، کہ میری طلب (کا پورا ہونا) مشکل ہو گئی

ہے۔ (س۔ ع۔ د) سے باب تفاعل موجود بھی نہیں، اور معنی بھی کامل نہیں رہتا۔

مَلْجَائِي وَوَسِيلَتِي وَإِيكَ ارْفَعُ بَثِّي وَحُزْنِي وَشِكَايَتِي وَارْجُوكَ لِدَفْعِ
 مَلَامَتِي يَا مَنْ يَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي إِلَهِي يَا بَابَكَ مَفْتُوحٍ لِلسَّائِلِ وَفَضْلِكَ
 مَبْدُولٍ لِلسَّائِلِينَ وَإِيكَ مُنْتَهَى الشُّكْوَى وَغَايَةَ الوَسَائِلِ إِلَهِي اِرْحَمْ وَمَعِيَ
 السَّائِلُ وَجِسْمِي النَّاحِلُ وَحَالِي الْحَائِلُ وَسَنَائِ الْمَائِلُ يَا مَنْ إِلَيْهِ تُرْفَعُ
 الشُّكْوَى يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالنَّجْوَى يَا مَنْ يَسْمَعُ وَيَرَى وَهُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى يَا
 رَبَّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ يَا مَنْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَا صَاحِبَ الدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ
 عَبْدُكَ قَدْ ضَاقَتْ بِهِ الْأَسْبَابُ وَغَلِقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ سَلُوكُ
 طَرِيقِ الصَّوَابِ وَازْدَادَ بِهِ الْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْإِكْتِيَابُ وَانْقَضَى عُمُرُهُ وَلَمْ يَفْتَحْ
 لَهُ إِلَى فَيْحِ تِلْكَ الْخُضْرَاتِ وَمَنَاهِلِ الصَّفْوِ وَدَرَجَاتِ الْبَابِ وَتَصَرَّمَتْ
 أَيَّامُهُ وَالنَّفْسُ رَاتِعَةٌ فِي مَيْدَانِ الْغَفْلَةِ وَدَنِي الْأِكْتِسَابِ وَأَنْتَ الْمَرْجُوُّ
 لِكَشْفِ هَذَا الْمُصَابِ يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ يَا عَظِيمَ الْجَنَابِ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ
 يَا رَبَّ يَا رَبَّ لَا تَحْجَبْ دَعْوَتِي وَلَا تَرُدَّ مَسْأَلَتِي وَلَا تَدْعِنِي بِحَسْرَتِي وَلَا
 تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي وَارْحَمْ عَجْزِي وَفَاقَتِي فَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي وَتَاهَ
 فِكْرِي وَتَحَيَّرْتُ فِي أَمْرِي وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِسِرِّي وَجَهْرِي، الْمَالِكُ لِنَفْعِي
 وَضَرِي الْقَادِرُ عَلَى تَفْرِيجِ كَرْبِي وَتَيْسِيرِ عُسْرِي رَبِّ اِرْحَمْ مَنْ عَظُمَ مَرَضُهُ
 وَعَزَّ شِفَاءُهُ وَكَثُرَ دَاوِيُّهُ وَقَلَّ دَاوَاءُهُ وَضَعُفَتْ حِيلَتُهُ وَقَوِيَ بَلَاءُهُ وَأَنْتَ
 مَلْجَاءُهُ وَرَجَاءُهُ وَغَوْثُهُ وَشِفَاءُهُ يَا مَنْ عَمَرَ الْعِبَادَ فَضْلُهُ وَعَطَاءُهُ وَوَسِعَ
 الْبَرِيَّةَ جُودُهُ وَنُعْمَاؤُهُ ۝ هَا أَنَا عَبْدُكَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَا عِنْدَكَ، فَقِيرٌ أَنْتَظِرُ
 جُودَكَ وَرِفْدَكَ، مُذْنِبٌ أَسْأَلُكَ مِنْكَ الْغُفْرَانَ، خَائِفٌ أَطْلُبُ مِنْكَ

الصَّفْحَ وَالْأَمَانَ، عَصِيٌّ فَعَسَى تَوْبَةً تَجْلُوْ اَنْوَارَهَا ظُلُمَاتِ الْاَسَاتِ وَالْعِصْيَانَ
 سَائِلٌ بِاسِطٍ يَدِ الْفَاقَةِ الْكُلِّيَةِ اَسْأَلُكَ مِنْكَ الْجُودَ وَالْاِحْسَانَ الْكُلِّيَّ،
 مَسْجُوْنٌ مَقِيْدٌ فَعَسَى اَنْ يَفْكَ قَيْدَهُ وَيُطْلَقَ مِنْ سِجْنِ حِجَابِهِ اِلَى قَيْحِ
 حَضْرَاتِ الشُّهُودِ وَالْعِيَانِ، جَائِعٌ عَارٍ فَعَسَى اَنْ يُطْعَمَ مِنْ ثَمَرَاتِ التَّقَرُّبِ وَ
 يُكْسَى مِنْ حُلَلِ الْاِيْمَانِ ظُمَانٌ ظُمَانٌ اَيُّ ظُمَانٍ يَتَاحَجُّ فِيْ اَحْشَائِهِ لَهَبُ
 النَّيْرَانِ فَعَسَى اَنْ يُبْرَدَ عَنْهُ لَهَبُ نَيْرَانِ الْكَرْبِ وَيُسْقَى مِنْ شَرَابِ الْحُبِّ وَ
 يُكْرَعُ مِنْ كَاسَاتِ الْقُرْبِ وَيَذْهَبَ عَنْهُ الْبُؤْسُ وَالْاَلَامُ وَالْاَحْزَانُ وَيَنْعَمَ مِنْ
 بَعْدِ بُؤْسِهِ وَالْمِهْ وَحُزْنِهِ وَيُشْفَى مِنْ مَرَضِهِ وَسَقَمِهِ حَتَّى كَانَ مَا كَانَ نَارًا،
 غَرِيْبٌ مُصَابٌ قَدْ بَعْدَ عَنِ الْاَهْلِ وَالْاَوْطَانِ فَعَسَى اَنْ يَزُوْلَ عَنْهُ هَذَا التَّعَبُ
 وَالشَّقَاءُ وَيَقُوْدَ لَهُ الْقُرْبُ وَاللِّقَاءُ وَيُنْزَلَ لَهُ السَّلْعُ وَالْبَقَاءُ وَيَلُوْحَ لَهُ الْاَثْلُ
 وَالْبَانُ وَيَنَالَهُ اللُّطْفُ وَتَحُلَّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ يَا عَظِيْمُ يَا مَنَّانُ يَا رَحِيْمُ
 يَا رَحْمَنُ يَا صَاحِبَ الْجُودِ وَالْاِمْتِنَانِ وَالرَّحْمَةِ الْغُفْرَانِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَرْحَمِ
 مَنْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْاَكْوَانُ وَلَمْ يُؤْنِسْهُ الثَّقْلَانُ وَقَدْ اَصْبَحَ مُوَلَّهَا حَيْرَانُ
 وَاضْحَى غَرِيْبًا وَلَوْ كَانَ فِي الْاَهْلِ وَالْاَوْطَانِ مُرْعَجٌ لَا يَأْوِيهِ مَكَانٌ قَلِقٌ وَلَا
 يُنْهِيهِ عَنْ بَيْتِهِ وَحَيْرَتِهِ تَغْيِيْرُ الْاَزْمَانِ مُسْتَوْحِشٌ لَا يَانِسُ قَلْبَهُ بِاَنْسٍ وَلَا جَانٍ
 هَلْ فِي الْوَجُوْدِ رَبٌّ سِوَاكَ فَيُدْعَى اَمْ فِي الْمَمْلَكَةِ اِلَهٌ غَيْرُكَ فَيُرْجَى اَمْ
 هَلْ كَرِيْمٌ غَيْرُكَ فَيُطَلَبُ مِنْهُ الْعَطَاءُ اَمْ هَلْ حَاكِمٌ غَيْرُكَ فَتُرْفَعُ اِلَيْهِ
 الشُّكُوْى اَمْ هَلْ مَنْ يُحَالُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ عَلَيْهِ اَمْ هَلْ مَنْ تُبْسَطُ الْاَكْفُ وَتُرْفَعُ
 الْحَاجَاتُ فَلَيْسَ اِلَّا كَرْمُكَ وَجُوْدُكَ يَا مَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْهُ اِلَّا عَلَيْهِ يَا مَنْ

يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَلَا غَيْرَكَ هَهُنَا كَرِيمٌ فَيُرْجَى أَمْ جَوَادٌ غَيْرَكَ فَيُسْأَلُ
مِنْهُ الْعَطَاءُ يَا رَبِّ قَدْ جَفَانِي الْقَرِيبُ وَمَلَّنِي طَيْبٌ وَشَمِتَ بِي الْعَدُوُّ
وَالرَّقِيبُ وَاشْتَدَّ بِي الْكَرْبُ وَالنَّجِيبُ وَأَنْتَ الْوَدُودُ وَالْقَرِيبُ الرَّؤُفُ
الْمُجِيبُ، رَبِّ إِلَيَّ مَنْ أَشْتَكِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ الْقَادِرُ أَمْ بِمَنْ اسْتَنْصِرُ وَأَنْتَ
الْوَالِيُّ النَّاصِرُ أَمْ إِلَيَّ مَنْ أَلْتَجِي وَأَنْتَ الْكَرِيمُ السَّاتِرُ أَمْ مَنْ ذَالَّذِي يَجْبِرُ
كِسْرِي وَأَنْتَ لِلْقُلُوبِ جَابِرُ أَمْ مَنْ ذَالَّذِي يَغْفِرُ عَظِيمَ ذُنُوبِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ
الْغَافِرُ يَا عَالِمًا بِمَا فِي السَّرَائِرِ يَا مَنْ هُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَكْنُونِ الضَّمَائِرِ يَا مَنْ
هُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ قَاهِرٌ يَا مَنْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ يَا رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ قُدْرَتِكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ إِغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لَا تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ يَا مَنْ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ وَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ وَلَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ وَلَا يَغْرُبُ عَنْهُ شَيْءٌ
وَلَا يُؤَدُّهُ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَعِينُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَلَا
يُعْجِزُهُ شَيْءٌ يَا مَنْ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَةِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِيَدِهِ مَقَالِيدُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْرَفُ كُلِّ
شَيْءٍ وَبَارِكُ لِي فِي كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَوَّلُ كُلِّ
شَيْءٍ وَآخِرُ كُلِّ شَيْءٍ وَظَاهِرُ كُلِّ شَيْءٍ وَبَاطِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُحْصِي كُلِّ شَيْءٍ
وَمُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُمِيتُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَازِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُحِيطُ
كُلِّ شَيْءٍ وَبَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَقِيبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَائِمٌ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُهَيِّمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ إِغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لَا تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ اَمِنٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ خَائِفٌ مِنْكَ .

فَأَمِنَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَوْفِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ اغْفِرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لَا
تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ
يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُخَيِّبْ رَجَائِي يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ
الْغِيَاثُ اغْنِنِي يَا غَوْثَ الْمُسْلِمِينَ اعْنِي يَا حَبِيبَ التَّائِبِينَ تَبَّ عَلَيَّ بِحَقِّ جَاهِ
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُصْطَفَى الْأَمِينِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
وَسَلِّمْ بِعَدَدِ مَعْلُومٍ لَكَ سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ .

إِلَهِي مَنْ أَلَذِي دَعَاكَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَمَنْ أَلَذِي اسْتَجَارَكَ فَلَمْ تُجِرْهُ وَمَنْ
أَلَذِي اسْتَعَانَكَ فَلَمْ تُعِنْهُ وَمَنْ أَلَذِي اسْتَعَاثَ بِكَ فَلَمْ تُغِثْهُ وَاعْوِثْنَا وَاعْوِثْنَا
وَاعْوِثْنَا اغْنِنِي يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنِي يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ اغْنِنِي يَا خَيْرَ
النَّاصِرِينَ اغْنِنِي يَا حَبِيبَ التَّائِبِينَ اغْنِنِي يَا سَاتِرَ الْمَعْيُوبِينَ اغْنِنِي يَا نَاصِرَ
الْمُضْطَرِّينَ اغْنِنِي يَا كَاشِفَ الْمَكْرُوبِينَ اغْنِنِي يَا مُعْطِيَ السَّائِلِينَ اغْنِنِي يَا
شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ اغْنِنِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ اغْنِنِي يَا دَيَّانُ يَا سُبْحَانَ يَا سُلْطَانَ يَا
بُرْهَانَ اغْنِنِي وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ .

”اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان، رحم والا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے وہ بے
نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر وہم پلہ نہیں۔ اس
کے اچھے نام اور اسکی صفات بلند ہیں۔ زمین و آسمان میں اس کی اعلیٰ مثال ہے اور وہ غالب

اور حکمت والا ہے اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے آنکھیں اسے نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے وہ لطیف و خبیر ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہ اپنی قدرت کے لحاظ سے ظاہر اور اپنی ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے لئے اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا کیا گیا ہم ان کے بارے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے اور رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع کی ہمیں گواہوں میں شمار کر لے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں اور رسولوں پر۔ آخرت کے دن پر اور اچھی و بری شرین و تلخ تقدیر پر۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیرے ساتھ تیرے اسمائے حسنی اور صفات کے ساتھ اور جن جن چیزوں سے تو اپنی بلند ذات کے ساتھ موصوف ہے۔ ایمان لائے اس طرح جو تیری ذات کی عظمت کے مناسب ہو اور اس طرح کہ جس طرح تو اپنی ربوبیت میں عظیم ہے۔ اور اس طرح جو تیری الہیت کے کمال میں تیرے لائق ہے ہم تیری کتابوں، رسولوں اور تیرے رسول مقبول محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ تیری مرضی سے تیرے پاس سے لائے اور اس طور پر جس طرح وہ پسند کریں اور تو راضی ہو اور اس طرح جو تیرے عظیم علم میں ہے اے پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والے۔ اے زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے ہم عاجز و قاصر ہیں ہر قسم کی کجی اور لغزش سے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور جو کچھ تو نے حکم دیا ہے فعل، قول، وعدہ اور عمل کے متعلق اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بلند ہے اللہ کی ذات جو سلطان با اختیار ہے جو ثابت ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس

کے وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کی ذات پاک اور بلند ہے ان باتوں سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ آسمان و زمین کا موجد ہے اس کی اولاد کیونکر ہوگی کیونکہ اس کی کوئی بیوی نہ تھی، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھ اور اسی پر موت دے۔ اسی پر ہمیں دوبارہ زندہ فرما اور ہمیں اس کے حقائق کی طرف رہنمائی فرما اے سب جہانوں کے پروردگار اے وہ جو سب چیزوں سے پہلے ہے اور ہر شے کے بعد ہے۔ اور ہر شے پر اس کی قدرت ظاہر ہے اور ہر شے میں وہ پوشیدہ ہے اے سب روشنیوں کے روشن کرنے والے، رازوں کے جاننے والے، رات اور دن کی تدبیر فرمانے والے۔ اے مالک، قوی و غالب، غلبہ و دبدبہ رکھنے والے۔ بخشنے والے، غیبوں کو جاننے والے دلوں کو پھیرنے والے۔ گناہوں کو بخشنے والے، عیبوں کو چھپانے والے۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول کامل، فاتح، خاتم الانبیاء اور اپنے رسول صادق و امین ﷺ پر درود بھیج اور ہمارے آقا محمد ﷺ پر درود بھیج اور ہمارے آقا ﷺ کو وسیلہ و فضیلت، شفاعت اور بلند و بالا مقامات عطا فرما اور آپ کو مقام محمود، مقام شفاعت اور مقام رضا پر مبعوث فرما اور انہیں اپنے رسول منتخب کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ آپ ﷺ پر درود بھیج اور آپ کی اولاد پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر درود بھیجا اور آپ کو اپنی برکتوں سے نوازا اور آپ کی اولاد کو جس طرح تو نے سب جہانوں میں ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں بے شک تو ہی قابل ستائش اور عظمت والا ہے آپ ﷺ پر درود بھیج اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اپنی رضا کے مطابق اور آپ کی اولاد اور اصحاب نامدار پر کثیر اور مبارک سلام اے اللہ ہم تیرے اسمائے حسنی۔ صفات عالیہ کامل کلمات کتب منزلہ، تیری پیاری کتاب اور تیرے بندے اور رسول محمد ﷺ کے طفیل سوال کرتے ہیں۔ اے تمام ربوں

کے پروردگار، جلدی محاسبہ کرنے والے، اے وہ ذات کریم جس سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مہربان، قریب، دعا قبول کرنے والے اشتیاق رکھنے والے، احسان کرنے والے، عظمت و بزرگی والے، اے بذات خود زندہ اور دوسروں کو زندہ و قائم رکھنے والے ہمیں نیک اور اچھے گروہ سے بنا اور جو دور استوں میں سے دایاں راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان سے بنا۔ اپنی شان رحیمی سے رحم فرما۔ اپنی عصمت کے ساتھ ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنے لئے عاجزی و انکساری عطا فرماتا کہ ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اپنی جناب میں عاجز و رام کر دے۔ تاکہ ہم واصلین میں شمار ہوں اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تجھ سے تقویٰ پاکیزگی، عفت اور غنا کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تجھی سے جلدی یادیر سے آنے والی ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں اے اللہ ہم تجھ سے اس بھلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے بندے اور نبی محمد ﷺ نے تجھ سے سوال کیا۔

اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے بندے اور نبی محمد ﷺ تیری پناہ مانگی اے اللہ سب تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے تیرے ساتھ ہی مدد حاصل کی جاتی ہے اور تجھ پر ہی توکل کیا جاتا ہے۔ سب قوت و طاقت تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر حسب استطاعت قائم ہوں اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری نعمت جو مجھ پر کی گئی ہے، کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے بے شک تیرے سوا

کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں۔ میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہم خوف کے ساتھ ہونے، شوق کے زیادہ ہونے، علم کے ثابت رہنے اور فکر و تدبر کے ہمیشہ رہنے کا سوال کرتے ہیں اور رازوں کے راز کا سوال کرتے ہیں جو نقصان سے روکنے والا ہو یہاں تک کہ ہم گناہ پر قائم نہ رہ سکیں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں ان کلمات کے ذریعے عمل کی ہدایت دے۔ وہ کلمات جو تو نے ہمارے لئے اپنے رسول ﷺ کی زبان اقدس پر جاری کئے اور اپنے خلیل ابراہیم کو ان کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور ان کو مکمل کیا تو نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں حضرت ابراہیم نے عرض کیا اور میری اولاد سے بھی تو فرمایا میرے عہد کو ظالم لوگ نہ پاسکیں گے، پس ہمیں ان اچھے مسلمانوں میں سے بنا جو اس کی اولاد سے ہیں اور آدم و نوح کی اولاد سے ہیں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں متقی اماموں کے راستے کا، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں اللہ ہی مجھے کافی ہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ میں اللہ پر راضی ہوا اور اللہ پر ہی بھروسہ کیا نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے گریز کی کوئی صورت مگر اللہ کی ہی توفیق سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے۔ بلاشبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اے بلند و عظیم بردبار و علم رکھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے ارادہ فرمانے والے، بذات خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والے، اے رحمن و رحیم، اے وہ ہستی، اے اول و آخر، ظاہر و باطن، جلال و عظمت کے مالک اے اللہ اپنے نور سے اپنی طرف ہماری رہنمائی فرما اور اپنے حضور سچی بندگی کے ساتھ قائم رکھ۔ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تروتازہ رکھ ہمارے نفسوں کو اپنے حکم کا مطیع بنا۔ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور عرفان سے بھر دے۔

ہماری روحوں کو اپنے مشاہدہ سے مکرم فرما اور ہمارے اسرار (دل میں وہ جگہ جو معرفت الہی کا محل ہے) کو اپنے قرب سے نواز، اور اپنی نافرمانی سے باز رہنے والا بنا۔ تو سب چیزوں پر قادر ہے اے وہ ذات جس کے قرب اور اس کے انوار کے سوا کسی دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا اور کوئی بندہ اس کے لطف و کرم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی وجود اس کی امداد کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔ اے وہ ذات پاک جس کی مناجات اور اسرار سے نیک بندوں اور زندہ اولیاء مقربین نے انس و محبت حاصل کی اے وہ ہستی جس نے موت و حیات دی، فقر و غنا عطا کی، سعادت مند اور بد بخت بنایا۔ کسی کو گمراہ بنایا اور کسی کو ہدایت کے راستے پر چلایا، کسی کو آزمائش میں ڈالا اور کسی کو معاف فرما دیا، اسی نے قضا و قدر کو پیدا کیا اور ہر شے کا اندازہ اپنی عظیم تدبیر سے کیا۔ اس کے اندازے سبقت لے گئے اے میرے مالک تیرے در کے سوا میں کس در کا رخ کروں جبکہ تو ہی بزرگ و برتر ہے۔ سب قوت تیری ہی توفیق سے ہے۔ اے میرے پروردگار میں کہاں کا ارادہ کروں جبکہ تو ہی میری منزل مراد ہے اور میں کس کی بارگاہ میں جاؤں جبکہ تو ہی ثابت و موجود ہے اور کون ہے جو مجھے عطا کرے گا جبکہ صرف تو ہی صاحب جود و سخا ہے، کس کے آگے دست سوال دراز کروں حالانکہ صرف تو ہی پروردگار و معبود ہے اے میرے پروردگار مجھ پر اپنی نعمتیں پوری فرماتا کہ میں تیرے سوا کسی اور کے آگے شکایت نہ کروں میرے لئے پورا اور لازم کر کہ میں تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کروں۔ اے وہ ذات پاک جس پر متوکلین توکل کرتے ہیں۔ اے وہ ہستی جس کی بارگاہ میں خوفزدہ لوگ پناہ لیتے ہیں۔ اے وہ ذات جس کے کرم اور اچھے ثواب سے امیدوار اپنی امیدیں باندھتے ہیں۔ اے وہ ذات پاک جس کی سلطنت کی عظمت اور عظیم رحمت و کرم سے برقرار لوگ مدد مانگتے ہیں۔ اے فریاد رس میری مدد فرما۔ اے وہ ہستی جس کی وسیع عطا، عمدہ فضل و کرم اور

نعمتوں کے آگے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور سائل خوشی سے سوال کرتے ہیں اے میرے رب مجھے ان لوگوں سے بنا جنہوں نے توکل کیا اور مجھے خوف سے امن دے جب میں تیرے حضور پہنچوں اور جب میں تیرے سامنے آؤں تو میری امید کو ناکام نہ فرما، اے قریب۔ دعائیں قبول کرنے والے اے سننے والے، قریب۔ اے اللہ بے شک ہم گمراہ ہیں، ہمیں ہدایت دے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے۔ ہم فقیر ہیں، ہمیں تو انگر کر دے، ہم گناہگار ہیں ہماری بخشش فرما۔ اے نور اے ہادی اے غنی اے بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما اور اپنے پوشیدہ علم سے ہمیں علم عطا فرما۔ اور اپنے پسندیدہ دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر تو نے بھلائی کی ہے اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دنیا میں تیری بندگی کا اور گناہوں سے دور بھاگنے کا اور آخرت میں تیری جنت تیرے دیدار اور تیرے عذاب سے محفوظ رہنے کا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں ایمان اور اطاعت کے ساتھ زندہ رکھ اور اسلام اور توبہ پر وفات دے۔ اور ہمیں سوال کے وقت ثابت قدمی عطا فرما۔ اور ہمیں ان لوگوں سے بنا جو کتاب دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور فزع اکبر کے دن ہمیں امن والوں سے بنا۔ اور صراط مستقیم پر ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں اپنی رحمت اور کرم سے جنت نعیم تک پہنچا دے۔ اپنی بردباری اور عفو درگزر سے ہمیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ، اپنے لطف سے نیکی کرنے والے، رحیم و حلیم و کریم اے اللہ ہم کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، ہم تنگدست ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کمزور ہیں، ہم میں طاقت نہیں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ہر چیز کا معاملہ تیری طرف لوٹنے والا ہے، اے اللہ جس چیز کا تو نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیلئے ہمیں توفیق عطا فرما، جس چیز کا مکلف ٹھہرایا ہے اس پر مدد فرما۔ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ہر شے سے استغنا فرما اپنے کرم

اور عنایت سے فوت شدہ کی تلافی فرما۔ اپنی قوت و طاقت سے ہماری مدد فرما، کہ ہم تیری طرف ہی متوجہ ہوں اے سلطان با اختیار، قادر مطلق، سمیع و بصیر اے اللہ وہ چیز جس سے ہماری بصارت قاصر ہے اور وہ بھلائی جس کا تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو دینے کا وعدہ کیا اور ہم اس کے بارے سوال نہ کر سکے یا ایسی بھلائی جو تو اپنے کسی بندے کو عطا فرمانے والا ہے، ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں اور تیری رحمت سے اسی کا سوال کرتے ہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اے اللہ میں اپنی قوت کے کمزور ہونے، حیلہ کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں ہلکا ہونے کی تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں تو ہی کمزوروں کا رب ہے۔ تو ہی میرا رب ہے اس شخص کی طرف جو مجھے کسی بعید دشمن کے سپرد کر دے جو مجھے سختی و ترش روئی سے پیش آئے اور اس دوست کے بارے میں جس کے سپرد تو نے میرا معاملہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی دشمن نہیں ہے جس کے سپرد تو نے میرا معاملہ کیا۔ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں لیکن تیرا عفو و درگزر بہت وسیع ہے، میں تیری ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس کے آگے اندھیرے روشن ہو گئے اور دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔ اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیرا غصہ مجھ پر نازل ہو تیرے لئے ہی ہر قسم کی تعریف ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور سب قوت و طاقت تیری ہی توفیق سے ہے اے میرے پروردگار میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اگر احوال بدل جائیں اور میرا سوال رک جائے تو میں تیری جانب ہی شکایت کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کے لطف و کرم اور نیک جزاؤں کے ساتھ میری آرزوئیں لٹکی ہوئی ہیں اور جس پر میرا خفیہ حال پوشیدہ نہیں ہے اور جو میرا انجام کار دیکھ رہا ہے۔ اے میرے مالک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے تمام امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں میرے حالات تجھ پر مخفی نہیں۔ میرے غموں اور پریشانیوں کا

تجھے علم ہے۔ میری مصیبت بہت ہو چکی ہے۔ تکالیف بڑھ چکی ہیں۔ میری جوانی کی تروتازگی مرجھا گئی ہے میری شراب کی صفائی مکدر ہو گئی ہے۔ اور مجھ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں میرے مطالبات بہت پیچھے رہ گئے ہیں، مجھ پر عتاب پورا چکا ہے۔ اے وہ ہستی جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے جو میرے دل میں گزرنے والے معمولی خیال کو بھی جانتا ہے اور میری ظاہر خطاؤں کو بھی۔ وہ میرے کاموں کی حقیقت و ماہیت کو جانتا ہے۔ اے میرے مالک میری طاقت عاجز آ گئی ہے میرا حیلہ کم ہو گیا ہے۔ میری قوت کمزور ہو گئی ہے۔ میری فکر پریشان ہے۔ میرا معاملہ مشکل ہو گیا ہے میرا قصہ وسیع ہو گیا ہے میرا حال برا ہو گیا ہے، میری امید دور ہو گئی ہے حسرت بڑھ گئی ہے۔ میرا پیالہ بڑا ہو گیا ہے۔ میرا پوشیدہ راز ظاہر ہو گیا ہے، میرے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور تو ہی میری پناہ گاہ ہے میں اپنی پراگندگی غم اور شکایت کو تیری طرف ہی اٹھاتا ہوں اور اپنی ملامت کو دور کرنے کے لئے تجھ سے ہی امید کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جو میرے خفیہ اور ظاہر اعمال کو جانتی ہے۔ اے میرے مالک تیرا دروازہ سائل کے لئے کھلا ہے اور تیرا فضل سوال کرنے والوں کے لئے خرچ کیا جاتا ہے۔ میرا شکوہ تیری طرف ہی ختم ہوتا ہے اور میرے سب وسائل کی انتہا تو ہی ہے اے میرے اللہ رحم فرما اور میرے ساتھ ایک کمزور جسم سوال کرنے والا، پراگندہ حال اور ختم ہونے والی پشت ہے اے وہ ذات جس کی طرف شکایت کی جاتی ہے۔ رازوں اور سرگوشیوں کے جاننے والے، سر و جہر کے سننے والے جو دیکھ رہا ہے اور منظر اعلیٰ پر براجمان ہے۔ اے زمین و آسمان کے مالک اسمائے حسنیٰ رکھنے والے۔ دوام و بقا والے۔ تیرے بندے پر تمام اسباب تنگ ہو گئے ہیں اور بند ہو گئے ہیں اور صحیح راستے پر چلنا اس کے لئے مشکل ہو گیا ہے غم، پریشانیوں اور مصیبتوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور عمر ختم ہونے کو ہے۔ اور ابھی تک ان سبزیوں کی خوشبو، صاف پانی کے چشموں اور

دروازوں کی سیڑھیوں تک اس کی رسائی نہیں، اس کے دن بیت چکے ہیں اور نفس ابھی تک غفلت اور گھٹیا کمائی کے میدان میں چر رہا ہے اور اس مصیبت سے چھٹکارے میں تجھ سے ہی امید کی جاتی ہے۔ اے وہ ہستی جسے پکارا جائے تو جواب دیتی ہے اے عظیم مرتبے والے۔ تمام ربوں کے رب اے پروردگار میری دعا کو نہ چھپا میرے سوال کو رد نہ فرما، مجھے میری حسرت کے ساتھ نہ چھوڑ۔ مجھے میری قوت و طاقت کے سپرد نہ فرما۔ میری عاجزی اور فاقہ پر رحم فرما میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے۔ میری فکر پریشان ہے۔ اپنے معاملے میں حیران ہوں اور تو میرے خفیہ و ظاہر کو جاننے والا ہے میرے نفع و نقصان کا مالک تو ہے میری تکلیف کو دور کرنے اور تنگی کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ اے رب اس پر رحم فرما، جس کی مرض بڑھ گئی ہے اس کی شفا مشکل ہو گئی ہے اس کی بیماری بڑھ گئی ہے اور دو کم ہو گئی ہے۔ حیلہ کمزور پڑ گیا ہے مصیبت و آزمائش مضبوط ہو گئی ہے اور تو ہی اس کا ملجا ہے اور اس کی امید ہے، تو ہی اس کا مددگار اور شفا دینے والا ہے۔ اے وہ ذات جس کا فضل اور عطا بندوں کی آبادی کا باعث ہے اور اس کا جود اور نعمتیں مخلوق پر وسیع ہیں۔ ہاں میں تیرا بندہ ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کا محتاج ہوں میں فقیر ہوں تیری سخاوت اور عطیات کا منتظر ہوں۔ گناہگار ہوں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ خوفزدہ ہوں تجھ سے معافی اور امان چاہتا ہوں نافرمان ہوں شاید توبہ غلطیوں، برائیوں اور نافرمانیوں کے اندھیروں کو روشن کرے۔ سوال کرنے والا ہوں، مکمل فاقہ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں تجھ سے کامل احسان و جود کا سوال کرتا ہوں۔ قید و بند میں مبتلا ہوں شاید کہ قید کھول دی جائے اور بندہ عاجز حجاب کی قید سے آزاد ہو کر بارگاہ میں حاضر ہو جائے، بندہ بھوکا اور رنگا ہے شاید تقرب کے پھل کھائے اور ایمان کی خلعت پہنے۔ پیاسا ہے، پیاسا ہے کتنا پیاسا ہے اس کے پیٹ میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں شاید کہ تکالیف کی آگ

کے شعلے اس پر ٹھنڈے ہو جائیں اور محبت کی شراب اسے پینا نصیب ہو جائے۔ اور قرب وصال کے پیالوں سے ایک گھونٹ مل جائے اور تنگدستی اور درد و غم اس سے دور ہو جائیں اور الم و حزن کے بعد آسودہ حال ہو جائے اور اپنے مرض و بیماری سے شفا پائے۔ یہاں تک کہ اس کی پہلی سی حالت ہو جائے بندہ اجنبی ہے مصیبت میں مبتلا ہے اپنے گھر اور وطن سے دور ہو گیا ہے شاید کہ یہ مصیبت اور بدبختی اس سے دور ہو جائے اور اسے قرب و وصال نصیب ہو جائے۔ اور اس کے لئے بقاء و دوام نازل ہو اور اٹل و بان کے درخت اس کے لئے روشن ہو جائیں، اس کو لطف و کرم حاصل ہو جائے اور اس پر رحمت و رضوان کا نزول ہو۔ اے عظیم، احسان فرمانے والے رحیم و کریم صاحب سخا و احسان اور رحمت و مغفرت کے مالک۔ اے پروردگار اس بندہ پر رحم فرما جس پر کائنات تنگ ہو گئی ہے اور جن و انساں میں اس کا کوئی انیس نہیں، وہ از خود رفته ہے۔ حیران و پریشان ہے۔ اجنبی ہو گیا ہے اگرچہ وہ اپنے اہل و عیال اور وطن میں ہی کیوں نہ ہو، پریشان ہے کسی مکان میں اسے پناہ نہیں ملتی۔ مضطرب ہے زمانہ کی تبدیلی اس کی پراگندگی اور حیرانگی ختم نہیں کر سکتی وحشت و تنہائی میں مبتلا ہے اس کا دل جن و انس سے مانوس نہیں ہوتا۔ کیا تیرے سوا کسی اور رب کا بھی وجود ہے جسے پکارا جائے۔ یا تیرے سوا کائنات میں کوئی اور معبود ہے جس سے امید باندھی جائے۔ یا کوئی اور سخی ہے جس سے عطا مانگی جائے یا کوئی اور حاکم ہے جس کے آگے شکایت کی جائے یا کوئی اور ہے جس کے آگے بندہ فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجات پیش کرے۔ سوائے تیرے کرم اور سخا کے کوئی چارہ نہیں۔ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی ملجا نہیں، جو پناہ دیتا ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں اور تیرے سوا کوئی کریم نہیں جس سے امید کی جائے اور کوئی سخی نہیں جس سے عطا مانگی جائے۔ اے میرے رب قریب والوں نے مجھ سے جفا کی، طبیب نے مجھے مایوس

کر دیا دشمن اور رقیب میری مصیبت پر خوش ہوئے تکلیف اور آہ و فریاد بڑھ گئی ہے تو ہی
 صالحین کو دوست رکھنے والا، سب سے زیادہ قریب، رؤف، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے
 اے میرے رب کس سے شکایت کروں جب کہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یا
 میں کس سے مدد مانگوں جبکہ تو ہی والی و ناصر ہے۔ یا میں کس سے التجا کروں درانحالیکہ تو کریم
 اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، شکستہ دلوں کی اصلاح تیرے سوا کون کرے گا جبکہ تو دلوں کی
 اصلاح کرنے والا ہے یا کون ہے جو میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخشے والا ہے۔ اے دل
 کے بھیدوں کو جاننے والے۔ اے ضمیر کی پوشیدہ باتوں پر اطلاع رکھنے والے۔ اے وہ ذات
 جس کا اپنے بندوں پر قبضہ و غلبہ ہے جو اول و آخر ہے۔ اے ہر شے کے مالک تیری قدرت
 ہر شے پر ہے۔ میرے سب گناہ بخش دے۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ
 کرے۔ اے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے۔ اے وہ ذات جسے کوئی چیز نہ تو
 نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی شے نفع دے سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس پر غالب آ سکتی ہے اور نہ
 کوئی چیز اس سے اوجھل ہو سکتی ہے۔ اسے نہ کوئی چیز تھکاتی ہے نہ وہ کسی چیز سے مدد مانگتا ہے
 اسے کوئی شے کسی شے سے غافل نہیں کر سکتی کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی کوئی چیز اسے
 عاجز نہیں کرتی اے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں ہر شے کی پیشانی ہے۔ اور ہر چیز کی
 باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں ہر چیز سے کنارہ کش ہوتا ہوں میرے لئے ہر چیز میں
 برکت دے اے وہ ذات جو ہر شے سے قبل اور ہر شے کے بعد ہے اور ہر شے سے پہلے اور ہر
 شے کا آخر ہے۔ جو اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر چیز میں ظاہر ہے اور ذات کے لحاظ سے ہر
 چیز میں پوشیدہ ہے۔ ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا، لوٹانے والا، زندہ کرنے
 والا، موت دینے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، احاطہ کرنے والا، دیکھنے والا، حاضر

نگہبان، قائم، حفاظت کرنے والا اور ہر شے کا وارث ہے۔ اے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ میرے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرے۔ بلاشبہ تو سننے والا، جاننے والا ہے اے اللہ تو ہر چیز سے امن دینے والا ہے ہر چیز تجھ سے خوفزدہ ہے۔ تیرا امن ہر چیز سے ہے اور ہر چیز کا خوف تجھ سے ہے۔ میرے سب گناہ معاف فرما دے۔ یہاں تک کہ تو مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کرے۔ اے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ، اے ایمان والوں کی امید، میری امیدنا کام نہ فرما۔ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے میری مدد فرما۔ اے مسلمانوں کے غوث میری فریادرسی فرما۔ اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، سید المرسلین صادق و امین محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثنا کے طفیل میری توبہ قبول فرما۔ اے ایمان والو آپ ﷺ پر درود بھیجو اور آپ پر برکت و سلام نازل فرماتنی تعداد میں جو تجھے معلوم ہے۔ ہمارا رب عزت والا رب پاک ہے اس سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار عالم ہے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور اپنی مخلوق میں سب سے بہتر محمد ﷺ اور آپ کی تمام آل پر درود بھیج۔

الہی کون ہے جس نے تجھ سے دعا کی اور تو نے قبول نہ فرمائی ہو کون ہے جس نے تیری پناہ طلب کی اور تو نے پناہ نہ دی کون ہے جس نے تجھ سے مدد مانگی اور تو نے مدد نہ کی۔ کون ہے جس نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے فریادرسی نہ کی۔ اے غوث۔ اے غوث۔ اے غوث میری مدد فرما۔ اے مدد طلب کرنے والوں کے مددگار میری مدد فرما۔ اے جہانوں کے اللہ میری مدد فرما۔ اے سب مدد کرنے والوں سے افضل میری مدد فرما۔ اے توبہ کرنے والوں

کے محبوب میری مدد فرما۔ اے عیب داروں کے عیب چھپانے والے میری مدد فرما۔ اے بے قراروں کے ناصر میری مدد فرما۔ اے دکھ دردوں کے دور کرنے والے میری مدد فرما اے سانکوں کو عطا کرنے والے میری مدد فرما۔ اے گناہگاروں کے شفیع میری مدد فرما۔ اے مشتاق بہت احسان کرنے والے میری مدد فرما۔ اے غلبہ رکھنے والے۔ اے پاک، حاکم مطلق، حجت والے میری مدد فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اجمعين۔“

قناعت کیلئے آپ ﷺ سے منسوب ایک اور وظیفہ

یہ وظیفہ بھی آپ ﷺ کے ملفوظات میں سے ہے۔ حضرت غوث الاعظم ﷺ نے فرمایا جو شخص قناعت کا ارادہ رکھتا ہو دولت اور دولت تمندوں سے منقطع ہو کر اپنی تمام تر توجہات بارگاہِ صمدیت کی طرف لگانا چاہے دنیا و آخرت کی مرادوں کو پورا کرنا چاہے لعین کے وسوسوں سے محفوظ ہو کر حضور قلب کا ورد کرے اور شرط یہ ہے کہ اول آخر سید البشر ﷺ پر درود بھیجے اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کی عظمت و حرمت کے طفیل ہر دعا کو پورا کرے گا اور اپنے دروازے سے محروم نہیں لوٹائے گا۔ تمہیں چاہئے کہ ہر وقت دعوات و اذکار اور اوراد و تصرفات میں مشغول رہو کیونکہ ان اعمال کی مثال ایک ایسے تیر انداز کی سی ہے جو تیر پھینکتا رہتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا تیر نشانے پر جا لگے۔ یہ ایک مختصر سا بیان ہے، درحقیقت ان اسماء کی خاصیت و تاثیر اور عجائب و اسرار بے شمار ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا حَيُّ اَنْتَ الَّذِي يُمِيتُ الْاَحْيَاءَ لَا مَوْتَ بَعْدَهُ يَا مُنْعِمُ اَنْتَ الَّذِي تَعْجِزُ الْخَلَائِقُ مِنْ شُكْرِ نِعْمَتِهِ يَا غَفَّارُ اَنْتَ الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِهِ بِفَضْلِهِ يَا مَالِكُ اَنْتَ الَّذِي تُؤْتِي الْمُلْكَ لِمَنْ يَشَاءُ بِلُطْفِهِ يَا قَادِرُ اَنْتَ الَّذِي اِذَا

أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَوْجُودًا بِسُرْعَةٍ يَا قَاهِرُ أَنْتَ الَّذِي تُفْنِي
 مَا تَشَاءُ وَتُبْقِي مَا تَشَاءُ بِمَشِيئَةٍ يَا حَافِظُ أَنْتَ الَّذِي تَحْفَظُ لِمَنْ أَرَدْتَ مِنْ
 آفَةٍ وَبَلِيَّةٍ بِرَحْمَتِهِ يَا قَدُّوسُ أَنْتَ الَّذِي تَقَدَّسَتْ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
 وَالْأَنْبِيَاءُ الْمُرْسَلُونَ بِقُدْسِهِ يَا وَكِيلُ أَنْتَ الَّذِي تُرْفَعُ أُمُورُ الْمُتَوَكِّلِينَ
 عَلَيْكَ بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ يَا مُؤْمِنُ أَنْتَ الَّذِي تُعْطَى الْإِيمَانَ وَالْأَمَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ
 بِكَرَمِهِ وَمَنِّهِ يَا حَكِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَحَيَّرَتِ الْعُقَلَاءُ وَالْحُكَمَاءُ مِنْ حِكْمَتِهِ
 يَا خَالِقُ أَنْتَ الَّذِي يَخْلُقُ أَصْنَافَ الْخَلَائِقِ بِقُدْرَتِهِ يَا كَرِيمُ أَنْتَ الَّذِي يُكْرِمُ
 الْإِنْسَانَ عَلَى سَائِرِ الْحَيَوَانَ بِعِنَايَتِهِ يَا وَهَّابُ أَنْتَ الَّذِي يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 الْإِنَاثَ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ بِعِزَّتِهِ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ أَنْتَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ
 مُلْكُهُ وَلَا يَزَالُ عِزُّهُ وَعُلُوُّهُ يَا غِيُّ أَنْتَ الَّذِي تُؤْتِي الْمُلْكَ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَلَمْ تَرْفَعْ عَنْهُمْ الْإِحْتِيَاجَ بِحِكْمَتِهِ يَا أَحَدُ أَنْتَ الَّذِي تَشَبَّتَ ضَمَائِرُ
 عِبَادِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ يَا رَوْفُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَرُدُّ الْمُحْتَاجِينَ وَالْمَسَاكِينَ
 مَحْرُومِينَ مِنْ بَابِهِ يَا رَشِيدُ أَنْتَ الَّذِي تَرْزُقُ لِأَهْلِ مَعْرِفَةِ قُرْبِهِ وَوِصَالِهِ يَا
 قَدِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَبْلُغِ الْأَوْهَامُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ يَا هَادِيُ أَنْتَ الَّذِي يَهْدِي
 إِلَى مَعْرِفَتِهِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَا رَحِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَا يَرْحَمُ أَحَدٌ عَلَى وَلَدِهِ
 كَمَا تَرْحَمُ عَلَى خَلْقِهِ يَا غَفُورُ أَنْتَ الَّذِي تُظْهِرُ الْحَسَنَاتِ وَتَسْتَرُ السَّيِّئَاتِ
 وَتَعْفُو عَنْهَا بِرَأْفَتِهِ يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي تَعَالَى وَتَكَبَّرَ بِعِظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ يَا عَلِيُّ
 أَنْتَ الَّذِي أَعْلَى شَأْنُهُ وَأَعْظَمُ سُلْطَانُهُ وَبُرْهَانُهُ يَا مُصَوِّرُ أَنْتَ الَّذِي تُصَوِّرُ
 بِكَمَالِ صُنْعِهِ وَبِلَاغَتِهِ يَا جَلِيلُ أَنْتَ الَّذِي لَا يَزَالُ مُلْكُهُ وَبِقَاءِهِ يَا عَلِيمُ أَنْتَ

الَّذِي تَرْزُقُ الْعِلْمَ لِمَنْ يَشَاءُ بِكَرَمِهِ يَا قَرِيبُ أَنْتَ الَّذِي أَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ
 بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ يَا وَاحِدُ أَنْتَ الَّذِي عَذَّبَ لِمَنْ أَشْرَكَ وَانْكَرَ وَخَدَانِيَّتَهُ بِعَدْلِهِ
 يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي لَمْ تَبْلُغْ خَطَرَاتُ الْمُوَحِّدِينَ بِكُنْهِ عَظَمَتِهِ يَا وَلِيُّ أَنْتَ
 الَّذِي تَرْزُقُ لَوْلِيَّهِ مَقَامَ الْوِلَايَةِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِمَشِيَّةٍ يَا نُورُ أَنْتَ الَّذِي تَنُورُ أَهْلَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِنُورِهِ يَا عَزِيزُ أَنْتَ الَّذِي تُدِلُّ الْكَافِرِينَ بِعَدْلِهِ وَيُعِزُّ
 الْمُؤْمِنِينَ بِفَضْلِهِ يَا مَنَّانُ أَنْتَ الَّذِي وَاجِدُ مِنَ الْبَرَايَا مِنْ مَنِّهِ وَاجَابَتِهِ يَا حَلِيمُ
 أَنْتَ الَّذِي يَغْفِرُ مِنَ الْعِبَادِ ذُنُوبَهَا بِفَضْلِهِ بِحِلْمِهِ يَا شَكُورُ أَنْتَ الَّذِي تُكْثِرُ
 النِّعْمَةَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِجُودِهِ يَا تَوَّابُ أَنْتَ الَّذِي تَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيعْفُو
 عَنْ سَيِّئَاتِهِ بِرَحْمَتِهِ يَا حَقُّ أَنْتَ الَّذِي يُثَبِّتُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ
 بِحَقِّهِ يَا مُعِيدُ أَنْتَ الَّذِي تَحْشُرُ الْخَلْقَ يَوْمَ الْحَشْرِ لِلْعَدْلِ وَالْفَضْلِ بِقَضَائِهِ يَا
 سُبْحَانَ أَنْتَ الَّذِي طَاهِرٌ وَيَرَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُ وَالنَّفْسُ مِنْ جَهَالَةٍ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَعَظَمَتِهَا وَشَرَفِهَا وَكَمَالِهَا وَجَلَالِهَا
 وَسُلْطَانِهَا وَبُرْهَانِهَا وَذِكْرِهَا وَأَنْسَاهَا وَبِحَقِّ أَسْرَارِ حُرُوفِهَا وَتَعْدَادِهَا وَ
 صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا وَدَرَجَاتِهَا وَدَعْوَاتِهَا وَثَوَابِهَا وَخَوَاصِهَا وَتَأْثِيرِهَا وَ
 تَفْسِيرِهَا وَبِحَقِّ مَعَانِي ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَرُسُومِهَا وَكَسُورِهَا وَسُطُورِهَا
 وَلَوْحِهَا وَإِصْغَارِهَا وَأَقْدَامِهَا وَبِعَظَمَةِ جَمِيعِ أَسْمَائِهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ
 عَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنَا دِينًا ثَابِتًا وَيَقِينًا وَاتِّقًا وَإِخْلَاصًا كَامِلًا وَشَوْقًا
 وَاشْتِيَاقًا غَالِبًا وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَ بِجَمِيعِ أَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَأَحْفَظْنَا مِنْ
 شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ

الْعُقُوبَاتِ الْآخِرِيَّةِ الْعُقُوبِيَّةِ بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ
 تَسْلِيمًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

”اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے اے وہ ذات جو بذات
 خود زندہ ہے تو ہی زندوں کو موت دینے والا ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ اے انعام
 کرنے والے تو ہی ہے جس کی نعمتوں کا شکر بجالانے سے مخلوق قاصر ہے۔ اے مغفرت
 فرمانے والے تو ہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے گناہ بخشتا ہے۔ اے مالک تو
 ہی ہے جو اپنی مہربانی سے جسے چاہتا ہے سلطنت عنایت فرماتا ہے۔ اے قدرت والے تو ہی
 ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ جلدی سے وجود میں آ جاتی
 ہے۔ اے زبردست غلبہ والے، تو ہی ہے جو اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتا ہے فنا کرتا ہے اور
 جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اپنی مشیت سے۔ اے حفاظت کرنے والے تو جسے چاہتا ہے اپنی
 رحمت کے ذریعے آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے قدوس تو ہی ہے جس کی پاکیزگی
 کی وجہ سے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین پاک ہو گئے، اے کارساز حقیقی صرف تیری ہی
 ذات ہے جس کی طرف ٹوکل کرنے والوں کے تمام امور بلند ہوتے ہیں۔ اے امان دینے
 والے تو ہی ہے جو سب مسلمانوں کو اپنے کرم اور فضل سے امان دیتا ہے۔ اے حکمت والے تو
 ہی ہے جس کی حکمت و دانائی پر دانشور اور حکماء حیران و سرگرداں ہیں اے خالق تو ہی ہے جو
 اپنی قدرت سے ہر قسم کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ اے کریم تو ہی جو اپنی عنایت سے انسان کو تمام
 حیوانات پر شرف عطا فرماتا ہے۔ اے وہاب تو ہی ہے جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے اور
 جسے چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے۔ تمام بادشاہتوں کا مالک تو ہی ہے جس کا ملک ہمیشہ سے

ہے اور ہمیشہ اس کا غلبہ اور اقتدار رہے گا۔ اے غنی تو اپنے بندوں میں سے جسے ملک عطا فرماتا ہے اور وہ ہمیشہ تیری حکمت کے محتاج رہتے ہیں اے یکتا تو ہی ہے جس کی وحدانیت کے ساتھ بندوں کے دل معلق ہیں۔

اے رؤف تو ہی ہے جو محتاجوں اور مسکینوں کو اپنے در سے محروم نہیں لوٹاتا۔ اے ہدایت دینے والے تو ہی اہل معرفت کو اپنا قرب اور وصال نصیب فرماتا ہے۔ اے قدیم تیری ابتداء وہ انتہا کو پانے میں وہم و گماں قاصر ہیں۔ اے ہادی تو ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے معرفت کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے رحیم تو اپنی مخلوق پر اس قدر رحم فرماتا ہے کہ کوئی والد اپنے بچے پر بھی نہیں کر پاتا۔ اے غفور تو ہی نیکیوں کو ظاہر فرماتا ہے برائیوں کو پوشیدہ فرما اپنے فضل و کرم سے۔ معاف فرماتا ہے اے کبیر تو ہی اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ بلند و بالا ہے اے بلند و برتر تیری شان بلند ہے۔ تیرا تسلط اور حکمرانی عظیم ہے اے مصور، تو ہی نہایت عمدہ کاریگر سے صورت گری کرتا ہے۔ اے بزرگ و برتر تیرا ملک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اے علیم تو ہی اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ اے قریب تو اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔ اے واحد و یکتا، تو ہی ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ سزا دیتا ہے اس شخص کو جو تیرے ساتھ شریک ٹھہرائے اور تیری وحدانیت کا انکار کرے۔ اے عظیم تیری عظمت کی حقیقت کو پانے میں موحدین کے وہم و گماں بھی قاصر۔ اے ولی تو ہی ہے جو اپنے اولیاء کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اے روشن کرنے والے، تیری ہی ذات پاک ہے جس کے نور سے اہل زمین و آسمان منور ہو گئے اے عزیز تو ہی ہے جو اپنے عدل سے کافروں کو ذلت دیتا ہے اور اپنے فضل سے مومنوں کو عزت دیتا ہے۔ اے بہت احسان کرنے والے تو ہی اپنی مخلوق پر احسان کرنے والا اور دعا قبول کرنے

والا ہے اے بردبار تو ہی اپنے فضل اور حلم سے بندوں کے گناہ بخشتا ہے۔ اے قدر دان تو جسے چاہتا ہے اپنی عطا سے نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اے بہت توبہ قبول کرنے والے تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے اے حق تو ہی ہے جو اپنی مخلوق میں حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو جھٹلاتا ہے۔ اے معید تو ہی ہے جو قیامت کے دن اپنی قضا کے ساتھ مخلوق کو عدل و انصاف اور فضل کے لئے جمع کرے گا۔ اے سبحان تو پاک ہے اور جو کچھ ظالم اور نفس اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں تو اسے جانتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے مقدس اسماء کا سوال لے کر حاضر ہوا ہوں ان اسماء کی عظمت و شرف اور کمال وجہ کا واسطہ، ان کی برتری اور محبت کے وسیلہ سے ان کے ذکر و انس اور ان کے حروف کے اسرار اور ان کی تعداد کے وسیلے سے ان کے چھوٹے بڑے ہونے ان کے درجات اور دعوات کا واسطہ اور ان کے ثواب، خاصیات، تاثیر و تفسیر کا واسطہ اور ان کے ظاہری و باطنی معانی، ان کی علامات، کسور اور تختیوں کا واسطہ اور ان کے چھوٹے ہونے مقدم ہونے اور ان تمام اسماء کی عظمت کا واسطہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود و سلام بھیج اور آپ کی اولاد پر اور ہمیں پختہ دین یقین کامل اخلاص کامل اور شوق و محبت غالب عطا فرما اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے تمام اولیاء اور اصفیاء کو عطا فرمایا اور ہمیں شیطان اور نفس امارہ کے شر سے بچا اور اپنے کرم اور فضل سے تمام دنیوی اور اخروی سزاؤں سے بچا اے سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور درود و سلام ہو افضل البشر محمد ﷺ پر اور آپ کی تمام اولاد پر۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔“

تیسرا وظیفہ:

(اور یہ اکتالیس اسماء پر مشتمل جو آنحضرت سے منقول ہے، پڑھے:)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُلِّهَا وَتَفْسِيرِهَا وَتَاوِيلِهَا وَ
 بِحَقِّ حِكْمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَحُرْمَةِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ رُؤْسَاءِ حَضْرَتِكَ وَ
 بِحَقِّ الْعُقُولَاتِ الطَّاهِرَاتِ وَالنُّفُوسِ الزَّكَاكِيَاتِ وَالْعَرْشِ الْمَجِيدِ وَالْكَرْسِيِّ
 الْحَمِيدِ وَالْأَفْلَاقِ الدَّائِرَاتِ وَالْكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ وَالْمَوَالِيدِ الظَّاهِرَاتِ
 وَبِحَقِّ حَبِيبِكَ وَقَرِيبِكَ وَلَيْبِكَ وَمَظْهَرِ الْوَهْيَتِكَ مُظْهَرِ رَبُّوبِيَّتِكَ
 مِثَالِ حَضْرَتِكَ تِمْثَالِ قُدْرَتِكَ رُوحِ الْقُدْسِ مُعْطَى الْحَيَاةِ وَالْفَضِيلَةِ
 بِأَمْرِكَ مُكْثِرِ الْعَالَمِ مُفِيضِ نَوَاطِقِ النُّفُوسِ صَاحِبِ الظَّفْرِ وَالتَّعَالَى (مُرُوشِ
 نُورِكَ السَّالِكِ ☆) أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ جُمْلَةِ أَنْوَارِكَ وَمَظَاهِرِ أَسْرَارِكَ
 وَمِنَ الْمُشْتَاقِينَ إِلَيْكَ وَتُكَلِّمَنِي وَتُقَرِّبَنِي لَدَيْكَ وَتَصْرِفَ عَنِّي آفَاتِ
 النَّفْسِ وَالْبَدَنِ وَتَعْصِمَنِي مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْفِتَنِ وَتَجْعَلَ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا
 وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَتَنْصُرَنِي عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِي مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
 وَتَنْصُرَ أَهْلَ النُّورِ وَالْإِشْرَاقِ وَتُبَارِكْهُمْ وَإِيَانًا وَتُقَدِّسْهُمْ وَإِيَانًا إِلَى أَبَدِ
 الْأَبَدِينَ وَدَهْرِ الدَّاهِرِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

☆ یہ لفظ یوں تو دونوں نسخوں میں ہی ”سروش“ ہے، جس کے معانی فرشتہ، الہام یا غیب کی آواز کے ہیں۔ یہ لفظ فارسی زبان کا ہے، اسکا ورود یہاں ناممکن تو نہیں البتہ محال ضرور ہے۔ ہم نے یہاں اپنی بساط کے مطابق اسکا معنی کیا ہے۔ جو قریب تر ہے۔ البتہ قارئین اپنے ذوق کے مطابق سمجھیں۔

آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ.

اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان تمام اسماء مبارکہ کے تو سئل سے سوال کرتا ہوں اور ان کی جملہ تفسیرات و تاویلات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری حکمت و قدرت اور تیری بارگاہ میں تسبیح بیان کرنے والوں کی حرمت عقولات طاہرہ نفوس طیّبہ، عرش مجید، کرسی حمید گردش کرنے والے افلاک روشن ستاروں اور نئی ارواح کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے حبیب لبیب، مقرب، تیری الوہیت کے مظہر کامل تیری ربوبیت کا اظہار کرنے والے۔ تیرے وجود کی مثال تیری قدرت کے کامل نمونہ کا جو روح القدس ہیں۔ تیرے حکم سے حیات و فضیلت عطا کرنے والے، جہاں کو کثرت عطا کرنے والے۔ نفوس ناطقہ کے فیض رساں۔ اور عظمت و کامیابی کے مالک، تیرے نور سے سالک کو بھرپور کرنے والے ہیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے جملہ انوار، تیرے رازوں کے مظہر اور تیرے دیدار کے مشاق بندوں سے بنا، مجھے کلام کا شرف بخش، اپنی قربت عنایت فرما، نفس و بدن کی تمام آفات کو دور فرما، مجھے حادثات اور فتنوں سے محفوظ رکھ مجھے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے خلاصی عطا فرما اور جن و انس میں سے میرے دشمنوں پر میری مدد فرما۔ ”اہل نور کی مدد فرما انہیں اور ہمیں برکت دے۔ اور ابدالاً بادتک انہیں اور ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرما۔

اور درود ہو خیر البشر محمد ﷺ پر اور آپ کی تمام آل پر آمین ثم آمین اے قائم بالذات، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے، اے رحم فرمانے والے، اے کریم، اے کریم اے کریم۔“



تیسری فصل:

ﷺ نماز ظہر اور اس کے اذکار اور دعاؤں کے بیان میں ﷺ

نماز کی تیاری کا طریقہ

اے درویش جب تو ہر نماز کیلئے اٹھے، نماز تجھے قلبی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ہر وضو میں مسواک کو استعمال کر اور اکثر اوقات اپنی ڈاڑھی میں کنگھا کر اور کنگھا کرتے وقت سورت الم نشرح پڑھا کر۔ وضو کرنے کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے ادا کر اور پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھ، اور اس کے بعد نماز ظہر کی سنتوں میں چاروں قیل ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر، اور اگر مسجد نہ جاسکے تو جماعت کو ترک نہ کر اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ان کلمات کو الفاظ کی صحیح ادائیگی اور معانی کا اچھی طرح خیال رکھتے ہوئے حضورِ دل کے ساتھ زبان پر جاری کر۔ جیسا کہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ملفوظ میں فرمایا: العمل غیر موافات القلب لیس بعمل یعنی ایسا عمل جو دل کے ناموافق ہے حق تعالیٰ کے ہاں اس کی کچھ قدر نہیں اور ایسا عمل اپنے عامل کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ کلمات درج ذیل ہیں۔

”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكْ يَعُودُ السَّلَامُ فَحِينَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجمہ: اے اللہ تو سلامتی والا ہے۔ تو سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری

طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی والے گھر (جنت) میں داخل کر اے ہمارے رب تو برکت والا ہے۔ بلند و عظیم ہے۔ جلال و عظمت کا مالک ہے۔

نیز یہ بھی پڑھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ابَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.“

ہر نماز کی فرض رکعات کے بعد ان کلمات کو زبان پر جاری کرے اور اس کے بعد اٹھے اور دو رکعت سنت ادا کرے۔ اسکے بعد سورت فاتحہ، آیۃ الکرسی اور آیت ”شہد اللہ انہ“ اور آیت ”قل اللهم مالک الملک تا بغير حساب“ کا ورد کرے۔ اور تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمد لله، تینتیس بار اللہ اکبر اور ایک بار یہ کلمات پڑھے

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ابَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.“

اور ان کلمات کو کثرت سے زبان پر جاری رکھے:

سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.

صلوة الخضر

اس کے بعد دس رکعت صلوة الخضر پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم تر کیف سے لے کر قرآن مجید کی آخری سورت (الناس) تک، سورتوں کو ترتیب سے

پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے۔ اور ایک سو مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور انسٹھ (۵۹) مرتبہ یہ کلمات بھی کہے:

يَا مُغِيثُ يَا لَطِيفُ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيرُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ
أَغْنِنِي.

ترجمہ: اے فریاد رسی کرنے والے، لطف و کرم فرمانے والے۔ آسمان و زمین کے پیدا فرمانے والے، عظمت و جلال کے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے فریادیوں کے فریاد رسی فرمانے والے میری مدد فرما۔

اور سورۃ نوح، سورہ دخان، سورہ عم پڑھے اور اگر ہو سکے تو مسبعت عشرہ کو اپنا وظیفہ بنائے اور کہے: "سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِالْفَجْرِ وَيَأْتِي بِالظُّهْرِ" اور اسی طرح ہر نماز کے بعد، مسبعت عشر مکمل پڑھے۔ اور جب اس کی دعاؤں اور مسبعت عشر پڑھنے سے زبان پر وردر سے فارغ ہو جائے (جو نماز فجر کے ضمن میں لکھی جا چکی ہیں) تو نماز عصر تک تمام وقت تلاوت قرآن یا ذکر یا مراقبہ سے معمور رکھے۔



چوتھی فصل:

﴿ نماز عصر، اذکار اور دعاؤں کے بارے میں ﴾

اے درویش تمام نمازوں میں یہ قدرت رکھ کہ ہر نماز اول وقت میں ادا کرے تاکہ اول وقت کی فضیلت سے محروم نہ ہو اور ہر نماز کی تیاری پہلے سے کر اور نئے وضو کے بعد، نماز تہیۃ الوضو پڑھ، چار رکعت سنت عصر ادا کر، عصر کی سنتوں میں سستی و کاہلی نہ کر اور جب فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کرے تو تمام اذکار و اور دعائیں جو گذشتہ نماز کے ضمن میں لکھی گئی تھیں، کاورد اور مسبغات عشرہ کے ورد کے بعد کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ اور اس کے بعد نماز صبح کی دعائیں پڑھے اور تین سو گیارہ مرتبہ ”اللہ اللہ“ کہے اور ایک ہزار ایک مرتبہ حرف ندا کے ساتھ یا اللہ کہے اور سو مرتبہ نبی کریم ﷺ پر وہ درود بھیج جو سلسلہ قادریہ کا معمول ہے: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ“

اور اگر توفیق ہو تو نماز ظہر کا وظیفہ بھی پڑھے اور ایک ہزار یا سو مرتبہ کلمہ استغفار کو زبان پر جاری کرے اور تریپن (۵۳) مرتبہ پڑھے:

يَا حَفِيظُ يَا مُقِيْتُ يَا مُغْنِيُّ يَا بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاثَ
الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اغْنِنِيْ.

ترجمہ: اے نگہبان مخلوق کو روزی پہنچانے والے، بے نیاز کردینے والے، آسمان وزمین کے موجد، عظمت و بزرگی والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اے فریادیوں کی فریادری کرنے والے میری مدد فرما۔

اور سورۃ عم، سورۃ رحمن اور سورۃ واقعہ ایک ایک بار پڑھے اور سو مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کا ورد زبان پر جاری کرے اور حضرت ابوورداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حرز پڑھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ترجمہ: اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تجھ پر ہی میں نے توکل کیا اور تو عرش عظیم کا مالک ہے جو کچھ تو نے ارادہ فرمایا وہ وجود میں آگیا اور جو نہ چاہا، اس کا وجود نہ تھا ہماری کچھ قوت طاقت نہیں مگر اسی بزرگ و برتر اللہ کی توفیق سے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں اپنے نفس سے اور ہر اس جانور کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔

حرز مذکورہ کو صبح و شام اپنا وظیفہ بنانا چاہیے اور اگر مسبعات عشرہ کا وظیفہ پڑھنا رہ جائے تو اسکے بجائے مذکورہ حرز کو پڑھ لے اور غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ ”یا اللہ یا رحمن یا رحیم“ کے وظیفہ میں حضور قلب کے ساتھ اور معانی و مطالب کا لحاظ رکھتے ہوئے مشغول رہے۔

پانچویں فصل:

﴿ نماز مغرب اور اس کی دعاؤں کا بیان ﴾

غروب آفتاب کی دعا

جب آفتاب غروب ہو جائے تو کہے:

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَضِيْتُ
بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

ترجمہ: اے اللہ ہم نے تیرے ساتھ عشاء کی، تیرے کرم سے زندہ ہیں اور تو ہی ہمیں
موت دے گا اور تیری طرف ہی جانا ہے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور
محمد ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔

اور جب نماز مغرب کی اذان نہ ہوئی ہو تو کہے:

اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ
صَلَاتِكَ اغْفِرْ لِي.

ترجمہ: اے اللہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، تیرے دن کے ختم ہونے اور تیری
طرف پکارنے والوں کی آوازوں کا وقت اور نماز کے لئے حاضر ہونے کا وقت ہے میرے
گناہ بخش دے۔

اور فرض نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرے اس دعا کے پڑھنے کے بعد ”اللَّهُمَّ أَنْتَ

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ“ اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، دو رکعت سنت مغرب وقفہ کیے بغیر پڑھے۔ اس کے بعد نماز اوابین پڑھے جس کا ذکر اپنی جگہ علیحدہ لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک سو سات مرتبہ کہے:

يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيِّمُنُ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَسْتَجِيرُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنِي“.

ترجمہ: اے سلامتی والے، اپنے عذاب سے امن دینے والے، نگہبان، زمین و آسمان کے موجد، بزرگی و عزت والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری رحمت کی امداد چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے میری مدد فرما۔

اور سورۃ فتح، سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک کا ورد کرے اور عشاء تک کے اس مبارک وقت کو وظائف، ذکر اور مراقبہ سے معمور رکھے۔



والا ہے اے بردبار تو ہی اپنے فضل اور حلم سے بندوں کے گناہ بخشا ہے۔ اے قدردان تو جسے چاہتا ہے اپنی عطا سے نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اے بہت توبہ قبول کرنے والے تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے اے حق تو ہی ہے جو اپنی مخلوق میں حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو جھٹلاتا ہے۔ اے معید تو ہی ہے جو قیامت کے دن اپنی قضا کے ساتھ مخلوق کو عدل و انصاف اور فضل کے لئے جمع کرے گا۔ اے سبحان تو پاک ہے اور جو کچھ ظالم اور نفس اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں تو اسے جانتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے مقدس اسماء کا سوال لے کر حاضر ہوا ہوں ان اسماء کی عظمت و شرف اور کمال وجہ کا واسطہ، ان کی برتری اور محبت کے وسیلہ سے ان کے ذکر و انس اور ان کے حروف کے اسرار اور ان کی تعداد کے وسیلے سے ان کے چھوٹے بڑے ہونے ان کے درجات اور دعوات کا واسطہ اور ان کے ثواب، خاصیات، تاثیر و تفسیر کا واسطہ اور ان کے ظاہری و باطنی معانی، ان کی علامات، کسور اور تختیوں کا واسطہ اور ان کے چھوٹے ہونے مقدم ہونے اور ان تمام اسماء کی عظمت کا واسطہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود و سلام بھیج اور آپ کی اولاد پر اور ہمیں پختہ دین یقین کامل اجلاص کامل اور شوق و محبت غالب عطا فرما اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے تمام اولیاء اور اصفیا کو عطا فرمایا اور ہمیں شیطان اور نفس امارہ کے شر سے بچا اور اپنے کرم اور فضل سے تمام دنیوی اور اخروی سزاؤں سے بچا اے سب سے زیادہ کریم اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور درود و سلام ہو افضل البشر محمد ﷺ پر اور آپ کی تمام اولاد پر۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔“

والے، آسمانوں اور زمین کے موجد، عزت و بزرگی والے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے میری مدد فرما۔

اور اگر آخر شب میں اٹھنے کا یقین ہو تو نماز وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھے اور اگر رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کے ساتھ ہی وتر ادا کرے اور وتر پڑھ لینے کے بعد فضول باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور لسانی یا باطنی اوراد میں مشغول رہے اور نماز وتر کے بعد ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ یا سو (۱۰۰) مرتبہ کلمہ تمجید کو زبان پر جاری رکھے۔

سونے سے پہلے کے وظائف

اور جب بستر استراحت پر جانا چاہے تو سورۃ یسین پڑھے اور ایک ہزار ایک مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ورد کرے اور ہر اٹھارہویں عدد پر ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ کا اضافہ کرے اور ایک ہزار ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

اس کے بعد جب سونے میں مشغول ہو تو سانس کے ساتھ مسنون طریقہ سے ذکر کریا ”اَللّٰهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ“ کا ذکر کرے اور ہر اسم کے معانی ملاحظہ کرے۔



باب دوم

﴿سنن غیر موقتہ کے بیان میں اور یہ باب سات فصلوں پر مشتمل ہے﴾

پہلی فصل:

﴿ نماز اشراق کے بیان میں ﴾

نماز اشراق کے وظیفہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر روایات میں زیادہ سے زیادہ دس رکعت اور کم سے کم چار رکعت ثابت ہیں۔ جب سورج ایک یا دو نیزہ کے برابر آجائے تو دو رکعت نہایت اخلاص اور حضور قلب سے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی نیت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے رات میں روزی دی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی خالدون تک پڑھے اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے سورت کے آخر تک پڑھے۔ اور نماز کی قرأت بھی کرے اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے اور یہ دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ، لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهَ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو
 أَصْبَحْتُ مُرْتَهِنًا بِعَمَلٍ وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي فَلَا فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنِّي اللَّهُمَّ لَا
 تُشِمْتُ بِي عَدُوٍّ وَلَا تَيْسُ بِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَ دُنْيَا
 وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدِّينَ أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِي وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ
 مَنْ لَا يَرْحَمُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُزِيلُ
 بِهَا النِّعَمَ وَمِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ بِهَا النِّقْمَةَ.

”اے اللہ میں نے صبح کی اور میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں مکروہ چیز کو اپنے سے دور نہیں
 کر سکتا اور جس چیز کی امید ہو اس کا نفع میرے قبضے میں نہیں، میں عمل کا گروہی ہو گیا ہوں اور
 معاملہ غیر کے ہاتھ میں ہے۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہیں۔“

”اے اللہ میرے دشمن کو میری مصیبت پر خوش نہ کر اور دوست مجھ سے نا امید نہ ہوں،
 میرے لئے دین و دنیا اور آخرت میں مصیبت نہ بنا، اور دین کو میری ہمت سے بڑا اور میرے
 علم کی پہنچ سے دور نہ بنا، مجھ پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جو دنیا و آخرت میں ہم پر رحم نہ
 کرے۔ اے اللہ میں ان گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جن کی وجہ سے تو اپنی نعمتیں دور
 فرما دیتا ہے اور ان گناہوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جن کی وجہ سے تو عذاب اور ذلت
 لازم کر دیتا ہے۔“

نماز استعاذہ پڑھنے کا طریقہ

اس کے بعد دو رکعت نماز استعاذہ پڑھے اور اس رات اور دن کے شر سے پناہ مانگنے کی
 نیت کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ
 الناس پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرورِ عالم ﷺ پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ
 وَاَعُوذُ بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ النَّهَارُ وَمَا يَجِي
 بِهِ اللَّيْلُ اِنَّ رَبِّي اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
 ”اے اللہ میں تیرے عظیم نام اور مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر چلنے والے اور ریگنے
 والے کے شر سے اور تیرے بزرگ نام اور مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ان مصائب و آلام
 سے جو دن اور رات اپنے ساتھ لائیں بلاشبہ میرا رب تو وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
 اس پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔“

اور اگر رات ہو تو اس طرح کہے:

مَنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ وَمَا يَجِيُّ بِهِ النَّهَارُ اِلٰهِي اِنَّكَ سَلَطْتَ عَلَيْنَا
 عَدُوًّا بَصِيْرًا يَرَانَا هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَاهُمْ اَللّٰهُمَّ فَايْسُهُ مِنْ رَحْمَتِكَ
 وَقَنْيَطُهُ مِنَّا كَمَا قَنْيَطُهُ مِنْ عَفْوِكَ وَاَبْعُدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَعَدَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
 جَنَّتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

”اس کے شر سے جو رات اپنے ساتھ لائی اور اس کے شر سے جو دن اپنے ساتھ لاتا ہے
 اے اللہ تو نے ہم پر ایک ایسے دیکھنے والے دشمن کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ خود اور اس کے چیلے تو
 ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ پس اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دے اور
 ہم سے ناامید کر دے جس طرح تو نے اسے اپنے عفو و درگزر سے ناامید کر دیا ہے اور ہم میں
 اور اس میں اتنی دوری کر دے جتنے تو نے اس کے درمیان اور اپنی جنت کے درمیان دوری
 کر دی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کے سننے کا زیادہ اہل ہے، نہ تو گناہوں

سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کی قوت مگر اسی بزرگ و برتر اللہ کی توفیق سے۔“

نماز استخارہ اور اس کا طریقہ

اور دو رکعت نماز استخارہ ادا کرے اور ہر قسم کے احوال و اقوال اور افعال میں خیر و برکت کی نیت کرے، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے اور دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُوْا وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ فَاَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا مَوْتًا وَ لَا حَیٰتًا وَ لَا نَشُوْرًا وَ لَا اَسْتَطِیْعُ اَنْ اَخْذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِیْ وَ لَا اَتَّقِیْ اِلَّا مَا وَقَيْتَنِیْ . اَللّٰهُمَّ فَوْقِنِیْ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی مِنْ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ فِی الْعَافِیَةِ اَللّٰهُمَّ حُزْلِیْ فَاخْذْ لِیْ وَ لَا تَكْلِیْ اِلٰی اِخْتِیَارِیْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ الْخَیْرَاتِ فِیْ كُلِّ قَوْلٍ وَ فِعْلٍ اُرِیْدُهُ فِیْ هَذَا الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ (یہاں پر اپنی حاجت اور کام کا نام لے) خَیْرٌ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایْ وَ مَعٰشِیْ وَ عَاقِبَتِیْ وَ عَاجَلَتِیْ فَقَدِّرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ (یہاں پر اپنی حاجت اور کام کا نام لے) شَرٌّ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعٰشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ قَدِّرْ لِیْ الْخَیْرَ اَیًّا مَا كَانَ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

”اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے قدرت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں بے شک تو قدرت والا ہے اور میں کچھ قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، اور مجھے کچھ علم نہیں۔ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ میں اپنے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں نہ ہی موت و حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا مگر جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے نہ میں کسی چیز سے بچ سکتا ہوں مگر جس سے تو مجھے بچائے۔ اے اللہ مجھے بھلائی کے اس قول اور عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ مجھے اپنی حفاظت و نگرانی میں لے اور مجھے اپنے اختیار اور قوت کے سپرد نہ کر اے اللہ اس دن اور رات جو کام اور قول میں کرنا چاہتا ہوں اس میں بھلائی اور برکت دے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (اپنے کام کا نام لے) میرے لئے دین و دنیا اور میرے معاش و عاقبت میں بہتر ہے، تو میرے لئے مقدر کرے اور اسے میرے لئے آسان بنا دے اور اس میں میرے لئے برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین و دنیا اور انجام کار میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر لے اور مجھے اس سے دور فرما، اور ہر کام میں مجھے بھلائی عطا فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ فَعَلِيْ وَقَوْلِيْ وَعَمَلِيْ وَشَغْلِيْ وَصُحْبَتِيْ مَعَ الْخَلْقِ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ وَمَعَادِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهَا لِيْ وَيَسِّرْهَا لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهَا وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا

كُنْتُ تَرْضَى بِهِ.

”اے اللہ اگر آج کے دن مخلوق کے ساتھ میرا قول و فعل، عمل، شغل، اٹھنا بیٹھنا، میرے دین و دنیا، معاش، آخرت اور عاقبت کے لئے بہتر ہے۔ تو مجھے اس پر قدرت دے اور میرے یہ کام آسان فرمادے اور ان تمام امور میں مجھے برکت دے، اور اگر تیرے علم میں یہ امور میرے لئے دین اور دنیا کے لئے شر کا باعث ہیں تو ان امور کو مجھ سے پھیر لے اور مجھے ان سے دور فرمادے اور جہاں بھی تیری رضا ہے وہاں ہمارے لئے خیر مقدر کر دے۔“

نماز استحباب اور اس کا طریقہ

اور دو رکعت نماز استحباب ادا کرے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لئے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ القدر اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَخَشِيَّتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِنْ قَرَّرْتَ عُيُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا بِدُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي بِكَ وَبِعِبَادَتِكَ وَاقْطَعْ عَنِ لَذَائِدِ الدُّنْيَا بَانْسِكَ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنِّي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ تُحِبُّهُ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ وَاسْقِنِي مِنْ كَأْسِ مُحَمَّدٍ ﷺ شُرْبَةً لَا ظَمًا بَعْدَهَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

”اے اللہ اپنی محبت میرے لئے تمام اشیاء کی محبت سے زیادہ بنا دے اور اپنی خشیت کو

میرے لئے تمام اشیاء کے خوف سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ اگر تو دنیا کی آنکھوں کو ان کی دنیا کی وجہ سے ٹھنڈا کرے تو میری آنکھیں اپنی محبت اور عبادت سے ٹھنڈی کر۔ اور مجھے لذا نذ دنیا سے اپنی محبت و انس اور شوق دیدار کے ذریعے جدا کر دے اور میرا ہر عمل اپنی اطاعت کے لئے بنا۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت جنہوں نے تجھ سے محبت کی اور ان کی محبت جن سے تو نے محبت کی اور مجھے ہر اس کام کی محبت جن سے تو نے محبت کی اور مجھے ہر اس کام کی محبت دے جو تجھے تیری محبت کے قریب کر دے اور اپنی محبت ہمارے لئے میری جان و اہل سے زیادہ محبوب بنا اور شدید پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ اور مجھے محمد ﷺ کے پیالے سے ایک گھونٹ پلا دے جس کے بعد کبھی پیاس نہ ہو۔ اے جلال و بزرگی والے۔

اور دو رکعت نماز شکر النہار

دن کا شکر ادا کرنے کے لئے پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پانچ بار پڑھے۔ نماز سے فراغت کے بعد سرورِ دو عالم ﷺ پر درود بھیجے۔ اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ حُسْنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ حُسْنِ الْمَسَاءِ.

اور اس دعا کا بھی ورد کرے:

اللَّهُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه.

”اے اللہ! حاضر و غیب و جاننے والے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔“

مشکلات سے نجات کے لئے دعا

کفایت مہمات کے لئے اس دعا کا ورد کرے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَلِمَةٌ أُلْقِيَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ
حَقٌّ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَوَاتِيمَ أَمْرِي رِضًا بِكَ
وَرِضْوَانِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكِ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ
وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ.

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کلمۃ اللہ ہیں۔ جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف پھینکا اور وہ اللہ کی روح ہیں جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اے اللہ میری عمر کا خاتمہ اچھا کر میرے کاموں کا انجام اپنی خوشنودی اور رضا بنا، اے اللہ میرے وہ دن بہتر بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں۔ اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہی ہماری مدد فرما۔“ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اور عطا کرنے والے کی ذات پاک ہے۔

اور یہ دعا بھی پڑھے:

اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

”اے اللہ موت سے قبل ہماری توبہ قبول فرما۔ موت کے وقت ہم پر رحم فرما۔ اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دے۔ اے اللہ سکرَاتِ موت کو ہمارے لئے آسان فرما۔“

اور ان کلمات کا بھی ورد کرے:

حَسْبِيَ اللَّهُ الْهَادِيَ لِدِينِي حَسْبِيَ اللَّهُ الْمَعِينُ لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَافِي
لِمَا رَحِمَنِي حَسْبِيَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ عِنْدَ
الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عِنْدَ
الْحِسَابِ حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّطِيفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْقَدِيرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ.
حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَافِظُ السَّاتِرُ عِنْدَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ حَسْبِيَ اللَّهُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ عِنْدَ وَرُودِ فِي الْجَنَّةِ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبِيَ اللَّهُ رَبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْخَالِقُ مِنَ
الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْعَزِيزُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

”دین کی ہدایت کے لئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ دنیا میں مجھے اللہ ہی مددگار کافی ہے۔
رحم کرنے کے لئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے جو حکمت والا ہے اور مجھ پر
زیادتی کرنے والے پر طاقت رکھتا ہے۔ موت کے وقت مجھے اللہ رحیم ہی کافی ہے۔ قبر میں
سوال کے وقت مجھے اللہ رؤف ہی کافی ہے۔ حساب و کتاب کے وقت مجھے اللہ کریم ہی کافی
ہے۔ میزان کے وقت مجھے اللہ لطیف ہی کافی ہے۔ پل صراط کے وقت مجھے اللہ قدیر ہی کافی
ہے۔“

”روزِ حشر مجھے اللہ نگہبان و خطاؤں کو چھپانے والا ہی کافی ہے۔ جنت میں داخل ہوتے
وقت مجھے اللہ تمام نقصانات سے محفوظ اور اپنے عذاب سے امن دینے والا ہی کافی ہے۔ مجھے
وہی اللہ کافی ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرشِ عظیم کا رب

ہے۔ مجھے اللہ پروردگار ہی کافی ہے تمام مرہین کو چھوڑ کر۔ تمام مخلوق سے مجھے اللہ ہی کافی ہے جو خالق ہے۔ تمام رزق دینے والوں سے مجھے اللہ ہی کافی ہے جو رؤف ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جو غالب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔“



دوسری فصل:

نمازِ چاشت اور اس کی دعائیں

نماز چاشت کی بارہ رکعتیں ثابت ہیں اور ایک قول کے مطابق نماز چاشت کی کم سے کم تعداد چار رکعت ہے۔ اور اربابِ عزیمت آٹھ رکعت یا چار رکعت نماز چاشت کو نمازِ اشراق کے ساتھ متصل شمار کرتے ہیں۔ اور نماز چاشت کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ والشمس اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ واللیل، تیسری رکعت میں سورۃ والضحیٰ اور چوتھی رکعت میں سورۃ الم نشرح پڑھنا ثابت ہے۔ اور اگر آٹھ رکعت ادا کرنا ہو تو باقی میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی ایک بار یا تین بار پڑھے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر بار کہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ.

اس کے بعد سجدہ میں چلا جائے اور سات مرتبہ يَا وَهَّابُ کہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت آہستہ آواز میں کرے یا فنی بشوق کی ترتیب سے تلاوت کرے جو حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں اس کا بیان ہوگا۔

باطنی دشمن سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ

ان باطنی دشمنوں کو بھگانے کے لئے جن کے بارے میں منقول ہے کہ تیرا سب سے بڑا

دشمن وہ نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے۔ اور ظاہری دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لئے ان حزروں کا ورد کرے۔ اکتالیس (۴۱) اسم جو حضرت غوث الاعظم سے منقول ہیں۔ اور بارہ اسرار اور حزب البحر کا ورد کرے۔ سوچ کو درست رکھنے اور ذہن کو محفوظ رکھنے کے لئے دعائے عکانہ کو مداومت سے پڑھے۔ اور باطن کی فتح کے لئے حرز کبیر کا ورد کرے۔ اور اکثر اوقات درود شریف پڑھتا رہے۔ جس طرح کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے اور غموں میں مبتلا ہو جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھ اللہ تعالیٰ تجھے مصائب سے خلاصی دے گا۔ اور بالخصوص یہ درود شریف جو حضرت پیر دستگیر سے منقول ہے پڑھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَوةً تُحِلُّ بِهِ الْعُقَدَ وَتَفَكُّ بِهِ الْكُرْبَ صَلَوةً فِيهَا رِضَى وَلِحَقِّهِ
أَدَاءً.

خصوصی دعائے غوثیہ

اس کے بعد یہ دعا پڑھے ان میں سے بعض چیزیں حضرت غوث الاعظم کے خاص

وظائف میں سے ہیں: [☆]

﴿اللَّهُمَّ أَرْضَ عَنْ أَمْنَاءِ دِينِكَ وَخُلَفَاءِ أَوْلِيَائِكَ عَنِ الرَّفِيعِ الْعِمَادِ
وَالطَّوِيلِ النَّجَادِ الْمُؤَيَّدِ بِالتَّحْقِيقِ الْمَكْنِيِّ بِالْعَتِيقِ الْخَلِيفَةِ الشَّفِيقِ
الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ أَطْهَرِ أَصْلِ عَرِيقِ الَّذِي اسْمُهُ مَعَ اسْمِهِ مَقْرُونٌ وَجِسْمُهُ مَعَ
جِسْمِهِ مَدْفُونٌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه وَعَنِ الْقَصِيرِ الْأَمَلِ
الْكَثِيرِ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يَتَدَاخِلُ أَفْعَالَهُ مَلَلٌ ذَلِكَ الْمُؤَيَّدُ بِالصَّوَابِ الْمُلْهَمُ

فَضَلَ الْخَطَابِ الَّذِي وَافَقَ حُكْمُهُ نَصَّ الْكِتَابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ابْنُ
 الْخَطَابِ رضي الله عنه وَعَمَّنْ شَيْدَ الْإِيمَانِ وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ وَشَتَّتِ الْفُرْسَانَ وَضَعَعَ
 الطُّغْيَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رضي الله عنه أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ وَاکْرَامَ الْكُرَمَاءِ
 ذِي النُّورَيْنِ وَعَنِ الْبَطْلِ الْبُهْلُولِ زَوْجِ الْبَتُولِ وَسَيْفِ اللَّهِ الْمَسْلُوقِ
 مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَعَنِ السَّبْطَيْنِ
 الشَّهِيدَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنِ الْعَمِيْنِ الشَّرِيفَيْنِ حَمْزَةَ
 وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِأِحْسَانٍ
 إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَعَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ
 وَالْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَعَنْ سِرَاجِ الْأُمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ الْكُوفِيَّ وَعَنِ الْإِمَامِ
 الشَّافِعِيِّ وَعَنِ الْإِمَامِ الْمَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَنِ
 جَمِيعِ الْمَشَائِخِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُرْشِدِ أَبِي سَعِيدِ مُبَارَكِ ابْنِ عَلِيٍّ
 الْمَخْزُومِيِّ رضي الله عنه وَعَنِ الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ وَالْفَوْثِ الصَّمْدَانِيِّ وَالْحَبِيبِ الرَّحْمَانِيِّ
 وَبَحْرِ الْمَعَانِيِّ شَيْخِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ
 الْجِيلَانِيِّ [١] وَعَنِ شَيْخِ الْأَرْبَابِ وَقُطْبِ الْأَقْطَابِ سَيِّدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ
 الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِيِّ وَعَنِ شَيْخِ الْأَبْرَارِ شَيْخِ مُحَمَّدِ الصَّفِيِّ الْحَسَنِيِّ
 الْجِيلَانِيِّ. وَعَنِ الشَّيْخِ الْفَوَّاصِ الْخَوَّاصِ شَيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ الْحَسَنِيِّ
 الْجِيلَانِيِّ وَعَنِ الشَّيْخِ الْوَدُودِ الْمَوْدُودِ أَبِي عَلِيِّ الْمَسْعُودِ الْحَسَنِيِّ
 الْجِيلَانِيِّ وَعَنِ الشَّيْخِ الْمُعِينِ الْمُرْشِدِ الْمُبِينِ أَبِي الْحَسَنِيِّ عَلِيِّ نُوْرِ الدِّينِ
 الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِيِّ وَعَنِ شَيْخِ السُّخَبَاءِ أَبِي مُحَمَّدِ شَاهِمِيرِ الْحَسَنِيِّ

الْحُسَيْنِي الْجِيلَانِي وَعَنْ شَيْخِ النُّقْبَاءِ شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ الْحَسَنِيِّ
الْجِيلَانِيِّ وَعَنْ شَيْخِ الْقُرْبَاءِ شَيْخِ مُحَمَّدِ الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِيِّ [۲] وَعَنْ شَيْخِ
التَّقِيِّ النَّقِيِّ الْوَفِيِّ. الصَّالِحِ الْمَالِحِ الْمُرْشِدِ أَبِي الْفَتْحِ سَيِّدِ عَبْدِ لِقَادِرِ الثَّانِي

الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِيِّ [۳] وَعَنْ الشَّيْخِ الْمَجْتَهِدِ الْعَالِمِ أَبِي عَلِيِّ شَيْخِ

عبدالرزاق الحسنی الجیلانی و عن شیخ الشیخ العامل العارف المرشد

الرَّشَادِ غَوْثِ الزَّمَانِ شَيْخِ حَامِدِ الْحَسَنِيِّ الْجِيلَانِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ

وَأَرْوَاحَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ نَوِّرْ وَجُوهُ مَشَائِخِنَا وَسَادَاتِنَا بِنُورِ وَجْهِكَ

الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ أَدِّمْ قُرَّةَ أَعْيُنِهِمْ بِجَمَالِ ذَاتِكَ الْقَدِيمِ اللَّهُمَّ أَعْلِ دَرَجَاتَهُمْ فِي

أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ أَوْجِدْهُمْ حَقِيقَةَ حَقِّ الْيَقِينِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ فِي نَظْمِ النَّبِيِّينَ

اللَّهُمَّ الْحَقُّهُمْ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ وَالطَّاهِرِينَ خَيْرَ مَا خَلَقْتَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللَّهُمَّ عَرِّفْهُمْ فِي مُحِبِّيهِمْ الْفَائِزِينَ أَجْمَلِ مَا عَرَفْتَ أَحَدًا مِنْ أَحْبَابِكَ

الصَّادِقِينَ اللَّهُمَّ أَرْضِ أَرْوَاحَهُمُ الْعَزِيزَةَ عَنَّا اللَّهُمَّ بَلِّغْهُمْ تَحِيَّةَ وَسَلَامَنَا اللَّهُمَّ

أَعْطِ أَوْلَادَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَأَصْحَابَهُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْصِمْهُمْ مِنْ شَرِّ

الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ زِدْهُمْ شَرَفًا وَكِرَامًا وَإِكْرَامًا حَتَّى تُبَلِّغَهُمْ عَلَى

دَرَجَاتِ الصِّدِّيقِينَ وَالْأَفَاضِلِ الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنْهُمْ وَعَنَّا وَعَنْ

الْمُسْلِمِينَ عَوَائِقَ الزَّمَانِ وَطَوَارِقَ الْحَدَثَانِ وَحَيْفَ الْوَلَاةِ وَسَيْفَ الْمُعَدَّاتِ

وَالْعِيُونَ الْحَاسِدَاتِ وَالظُّنُونِ الْفَاسِدَاتِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْنَا مُتَابِعَتَهُمْ وَ أَوْصِلْ

إِلَيْنَا فُتُوْحَاتِهِمْ وَ أَدِمَّ إِلَيْنَا بَرَكَاتِهِمْ وَ الْحَقْنَا بِهِمْ وَ أَحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ وَ أَهْدَيْنَا
 هَدَاهُمْ وَ أَسْلَكْنَا طَرِيقَتَهُمْ أَنْتَ إِلَهْنَا وَ مَوْلَانَا نَسْأَلُ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّحَ شَأْنَنَا
 وَ شَأْنَ إِخْوَانِنَا وَ أَصْحَابِنَا وَ أَحْبَابِنَا وَ أَوْلَادِنَا وَ شَأْنَ وُلَاةِ أُمُورِنَا. ﴿﴾

اے اللہ تو راضی ہو اپنے دین کے امینوں سے اپنی رحمتیں نازل کر ان پر جو تیرے
 برگزیدہ بندے تھے۔ جو اونچے گھرانے کے اور بڑے پرتلوں والے تھے۔ حق جن کا مؤید تھا۔
 جن کی کنیت عتیق تھی، جو خلیفہ مہربان تھے۔ جن کی اصل بہت پاک تھی جن کا نام سرور کائنات
 ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کے نام گرامی کے ساتھ مقرون اور جن کا جسم حضور ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾
 کے جسم اطہر کے پہلو میں مدفون ہے۔ یعنی امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق ؓ پر اور ان پر
 جو کم خواہشات والے اور کثیر العمل تھے جو زاہد حق میں کسی طرح تھک نہ سکتے تھے، حق جن کی
 تائید پر تھا۔ جنہیں فیصلہ و تفسیہ کرنا الہام ہو چکا تھا وہ جن کا حکم کئی دفعہ وحی اور آیات قرآنی

[☆] جو عبارتیں ان ﴿﴾ قوسین کے اندر ہیں یہ جناب غوث اعظم ؓ سے روایت ہیں، باقی

حضرت موسیٰ شہید قدس اللہ سرہ سے منقول ہیں۔

[۱] سلسلہ قادریہ رزاقیہ اور عزیزہ کے مریدین یہاں سے نیچے اپنے سلسلہ طریقت کے مشائخ کے

اسماء گرامی پڑھیں۔

[۲] سلسلہ نوشاہیہ کے مریدین اس سے نیچے حضرت سید شیخ مبارک حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع

کر کے اپنے شیخ تک پڑھیں۔

[۳] ہمارے سلسلہ عالیہ شیخویہ اور قطبیہ کے مریدین یہاں خط کشیدہ عبارت سے نیچے وعن امام

الصالحین و ہادی السالکین سید میر محمد غوث الجیلانی و عن نصیر الملة

والدین و ہادی المضلین سید عبدالقادر الثالث..... سے آگے اپنے شیخ تک پڑھیں۔

کے موافق اتر یعنی امام عادل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر اور ان پر جنہوں نے لشکر پھیلا کر کفار کی سرکشی مٹادی اور کلام ربانی کو اس کی تلاوت سے مزین کیا۔ جو افضل الشہداء اور اکرام السعداء ہیں جن کا لقب ذوالنورین تھا یعنی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر اور ان پر جو شیر خدا، زوج بتول اور اللہ تعالیٰ کی سوتلی ہوئی تلوار تھے یعنی مظہر العجائب امام عادل امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضور سرور کائنات علیہ السلام والثناء والتحيات کے نواسے سبطین الشہیدین امام حسن و حسین اور آپ کے عم بزرگ حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور تمام مہاجرین و انصار پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ اے اللہ راضی ہو تمام ہدایت یافتہ ائمہ عظام، علماء مجتہدین، چراغ ملت امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور تمام مشائخ طریقت اور اولیائے کرام سے اور اپنی رضا و خوشنودی سے نواز حضرت ابوسعید مبارک بن علی مخزومی، قطب ربانی غوث صمدانی، حبیب رحمانی بحر معانی، شیخ ارض و سما، عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی کو اور تو راضی ہو شیخ ابرار شیخ محمد الصفی الحسنی الجیلانی سے۔ ”شیخ غواص ابو العباس احمد حسنی جیلانی، شیخ ابوعلی مسعود حسنی جیلانی، مددگار اور مرشد برحق ابوعلی نورالدین حسنی جیلانی، ابو محمد الحسنی الجیلانی، شیخ قربا شیخ محمد حسنی جیلانی، شیخ تقی تقی و فی، صالح مرشد ابوالفتح سید عبدالقادر الثانی حسنی جیلانی، شیخ مجتہد، عالم باعمل ابوعلی شیخ عبدالرزاق حسنی جیلانی، شیخ عامل، عارف، ہادی و مرشد غوث زماں شیخ حامد حسنی جیلانی سے اے اللہ ان تمام بزرگوں کی ارواح کو مقدس بنا، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں زندوں اور مردوں کی ارواح کو پاکیزہ فرما۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام اولاد پر درود و سلام بھیج اور اپنی برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ اور سادات کے چہروں کو اپنے نور سے روشن کر دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے

قدیم اور ذاتی جمال کے ساتھ ان کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ اعلیٰ علیین میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ انہیں حق الیقین کی حقیقت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں انبیاء کے گروہ میں شامل کر اے اللہ ان کی اولاد کو پاکیزہ بنا اور انہیں اپنی مخلوق میں سے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ انہیں عشاق بامراد میں متعارف کرادے۔ جس طرح تو نے اپنے سچے اور مخلص اولیاء کو عرفان عطا کیا۔ اے اللہ ان کی ارواح کو ہم سے راضی رکھ۔ ہمارے تحفے اور سلام ان تک پہنچا۔ ان کی اولاد بھائی اور ساتھیوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور انہیں دنیا و آخرت کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ان کے شرف و کرم میں اضافہ فرما یہاں تک کہ تو انہیں صدیقین کے درجہ تک پہنچائے اور صاحب فضیلت مقربین کے مرتبہ تک پہنچائے۔ اے اللہ ان سے ہم سے اور تمام مسلمانوں سے زمانے کے مصائب، حادثات، سلاطین کے ظلم، سونتی ہوئی تلواریں، حسد کرنے والی آنکھیں اور جھوٹے گمان دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی پیروی ہمارے لئے آسان فرما۔ ان کی برکتیں ہم تک پہنچا ہم کو ان کے ساتھ ملا دے۔ قیامت کے روز ان کے زمرے میں شامل کر ہمیں انہی کے راستے پر چلا تو ہمارا معبود اور آقا ہے ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے اور ہمارے بھائیوں، ساتھیوں دوستوں ہماری اولاد اور ہمارے حکام کے معاملات درست فرما۔“

اور بالخصوص حضرت پیر دستگیر کے نام مبارک کا ان الفاظ میں ایک سو گیارہ مرتبہ ورد کرے۔

إِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبُوْ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ ابْنِ أَبِي
صَالِحِ مُوسَى الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيلَانِيِّ رضي الله عنه

اور ایک (۱) مرتبہ سورۃ جمعہ، سو (۱۰۰) مرتبہ سورۃ اخلاص، سو

(۱۰۰) بار سورة فاتحه، سو (۱۰۰) مرتبہ سبحان الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور سو (۱۰۰) مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

اور وہ دعائیں اور اذکار جو دعا کی فصل میں لکھے جائیں گے اگر توفیق ہو تو ان کو بھی اپنا
وظیفہ بنائے۔ اس کے بعد قیلولہ اور آرام کرنے کی نیت کرے کیونکہ قیلولہ رات کے قیام میں
ممد و معاون ثابت ہوتا ہے اور مطلوب کے لیے مفید ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نفس کو آرام
سے بالکل محروم کر دیا جائے تو دماغ پر خشکی چھا جاتی ہے اور مزاج حد اعتدال سے منحرف ہو
جاتا ہے اور تمام حواس اور قوئی کام کرنے سے رک جاتے ہیں اور لوگوں نے آرام کرنے اور
سونے کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ دن اور رات میں سات گھنٹے ہے، گرمی و سردی میں موسم کی
تبدیلی سے وقت میں بھی کمی بیشی کرے یعنی اگر دن بہت لمبا ہے تو سونے کے وقت میں ایک
دو گھنٹہ اضافہ کرے۔ سلوک کا طریقہ یہی ہے، نفس کے جملہ حقوق کا خیال رکھے، کھانے
پینے، پہننے، سونے اور دیگر لذتوں سے اسے محروم نہ رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ منزل تک پہنچنے سے
پہلے ہی نفس فنا ہو جائے۔



تیسری فصل:

وقت زوال کی نماز کے بارے میں

طالب حق کو چاہئے کہ آفتاب کے زائل ہونے سے قبل نیند سے بیدار ہو جائے اور نہایت ہی حضور قلب سے مسواک کے ساتھ وضو کرے دل کو فاسد خیالات اور باطل اندیشوں سے خالی کر دے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب سورج نصف النہار سے زائل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور طالبان حق کی دعا و نیاز واجب الوجود تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا ہے۔ تحیة الوضو کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد۔

ایک سلام کے ساتھ چار رکعت نماز فنی زوال کی نیت کرے، سورۃ بقرہ یادو سو آیات پڑھے یا چار سو (۴۰۰) آیات پڑھے اور اگر زیادہ وقت نہ ہو تو ایک بار آیۃ الکرسی اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھے اور ایک روایت کے مطابق صرف ایک بار آیۃ الکرسی پڑھے۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سولہ (۱۶) مرتبہ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ پڑھے۔ اس کے بعد ظہر کے فرض، صَلَوةُ الْخَضِرِ اور وہ دعائیں اور اذکار جو نماز ظہر کے ضمن میں لکھی جا چکی ہیں، میں مشغول ہو جائے۔



چوتھی فصل

ﷺ نماز مغرب کے بعد، اذکار، دعائیں اور نماز اوابین کے بارے میں ﷺ

مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت عبادت گزاروں کے لئے بہت محمود ہے، جہاں تک ہو سکے اس وقت کو ذکر، مراقبہ، نماز، تلاوت قرآن یا دوسرے اوراد سے زندہ رکھنا چاہئے۔ جب نماز مغرب کی سنتوں سے اور ان دعاؤں سے فارغ ہو جن کا ذکر نماز مغرب کی فصل میں گزر چکا ہے۔

نماز اوابین

توچھ (۶) رکعت نماز اوابین پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص سات (۷) مرتبہ اور معوذتین (فلق اور الناس) ایک مرتبہ نماز کے بعد کلمہ تمجید سو بار پڑھے اور کچھ اور رکعتیں بھی پڑھ لے یا بیس رکعت نماز اوابین پڑھ لے۔ اس کے بعد سینتالیس (۳۷) مرتبہ

يَا سَلَامُ يَا مُهَيْمَنُ يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَبِرَحْمَتِكَ أَسْتَجِيْرُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ
أَعِثْنِيْ. کا ورد کرے۔

اور سورہ واقعہ، سورہ فتح اور سورہ ملک بھی پڑھے۔



پانچویں فصل:

ﷺ قیام شب، نماز تہجد، ذکر اور دعاؤں کے بیان میں ﷺ

سرور عالم، شفیع المذنبین والمذنبات علیہ افضل الصلوات واكمل التحیات فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اس لئے اے درویش تجھے چاہئے کہ ہر وقت اس کوشش میں رہے کہ غیر اللہ سے دوری اختیار کر کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آویزاں رکھے۔ بالخصوص نیم شب اور آخر شب میں جب بیدار ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کیونکہ یہ وقت بہت محمود ہے اور مطلوب و مقصود کے لئے مفید ہے:

خلق کہ توفیق طلب یافتند

کامہ جان در دل شب یافتند

”جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو جائے، وہ نصف شب کو روح و جان کا مقصود حاصل کر لیں۔“

اے درویش.....!! تجھے چاہئے کہ نصف شب میں استغفار و دعا اور آہ و فغان کی کثرت کرے کیونکہ اس کا اثر بہت عجب ہے، جو کوئی اس کیفیت کو پالے۔ اور جب نماز تہجد کے لئے اٹھے تو جس طرح کہ پہلے لکھا گیا ہے قیام کرے۔ مستحب یہ ہے کہ رات کا نصف یا ایک تہائی

یا دو تہائی نماز میں مشغول رہے تاکہ تیری اقتداء اس آیت مبارکہ اور سنت نبوی ﷺ سے ہو۔

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

”اے کملی کی جھرمٹ والے (حبیب!) ﷺ آپ رات کو (نماز میں) قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر (کے لیے) آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں۔“

اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ رات کے پہلے حصہ میں ایک تہائی سوئے اور آدھی رات اٹھے اور آخر شب میں دو سدس (چھ میں سے دو حصہ) نہ سوئے یا اول شب سے نصف حصہ سوئے اور تیسرے حصہ میں اٹھے اور آخر شب میں ۱/۶ حصہ نہ سوئے یا چھٹا حصہ شب اول سے اور چھٹا آخر سے سوئے اور درمیانی شب سے دو تہائی اٹھے۔

روایت ہے کہ حضرت داؤد، علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا: اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں رات کے کس حصہ میں قیام کروں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے داؤد.....! نہ تو اول شب میں بیدار ہو اور نہ آخر میں کیونکہ جس نے رات کے آخری حصہ میں قیام کیا وہ پہلے حصہ میں سو گیا اور جس نے پہلے حصہ میں قیام کیا وہ آخری حصہ میں سو گیا لیکن تو درمیانی حصہ میں قیام کرتا کہ میں اور تو دونوں خلوت میں ہوں، اور اپنی حاجات مجھے پیش کر۔“ پس قیام دونیندوں کے درمیان ہوگا، اور بعض تشنگان دیدار حق اور مشتاقان انتہائی شوق اور طلب کی وجہ سے تمام رات قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ شیخ عارف ابو محمد بن ابوالفتح ہرؤمی سے روایت ہے کہ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی چالیس سال خدمت کی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے اور جب حدیث لاحق ہوتا تو اسی وقت نیا وضو کرتے اور دو رکعت نماز تحیۃ

الوضوٰدا فرماتے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو تنہائی میں چلے جاتے اور اس خلوت میں کوئی بشر آپ کے پاس نہ آتا خلیفہ وقت بارہا آپ کی ملاقات کے لئے آتا لیکن دروازے پر بیٹھ کر واپس چلا جاتا اور ملاقات پر قادر نہ ہو سکتا۔ آپ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھتے جب ایک تنہائی حصہ گزر جاتا تو ان اسماء کے ورد میں مشغول ہو جاتے: **الْمُحِيطُ الْعَالِمُ الرَّبُّ الشَّهِيدُ الْحَسِيبُ الْفَعَّالُ الْخَلَّاقُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ** راوی کہتا ہے کہ میں نے شیخ کو دیکھا، وہ ہوا میں بلند پرواز کرتے، یہاں تک کہ آنکھوں سے او جھل ہو جاتے، اور بعض اوقات آپ پر ہلکی سی نیند طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد قیام کرتے اور حالت قیام میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے یہاں تک کہ دو تہائی رات گزر جاتی، کچھ دیر سجدوں میں پڑے رہتے، زوئے مبارک کو زمین پر ملتے۔ اس کے بعد قبلہ رو ہو کر مراقبہ و مشاہدہ میں بیٹھ جاتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی، اور آپ کا چہرہ مبارک اس قدر تاباں ہوتا کہ قریب ہوتا تھا کہ آپ کے انوار دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔

اور یہ حالت اسی شخص کے لئے سلامتی والی ہوتی ہے اور نقصان نہیں پہنچاتی کہ جس کا نفس شب بیداری میں ذوق و لذت محسوس کرے اور اطاعت کر کے طاقتور ہو جائے ورنہ تکلیف و تکلف کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور نفس بجائے لذت حاصل کرنے کے ناکارہ ہو جائے گا۔ اس قسم کی عبادت صادق و مصدوق ﷺ کے فرمان کے مطابق منع ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: دین کے اوامر پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ پختہ ہے جو اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آجائے گا اور آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رات میں جتنی دیر آسانی سے ممکن ہو نماز پڑھے اگر نیند غالب آجائے تو سو جائے۔ الغرض مستحب قیام شب رات کے ۱/۶ حصہ سے کم نہیں ہے۔

قیام شب کے گیارہ اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طالب حق آفتاب غروب ہونے کے قریب نیا وضو کر کے قبلہ رو ہو کر نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ اور تسبیح و استغفار میں مشغول رہے اور بالخصوص مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کو مختلف اذکار یا تلاوت اور دعاؤں سے معمور رکھے تاکہ لوگوں سے ملاقات کرنے اور ان کی کلام و احوال سننے سے باطن میں جو کدورت نے راہ پائی ہو وہ رفع ہو جائے۔

مغرب اور عشاء کی درمیانی نماز کی فضیلت

حدیث شریف میں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھو کیونکہ یہ نماز دن کی تمام تھکاوٹوں اور کدورتوں کو دور کر دیتی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے مراد عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو نہ کرے بالخصوص فضول کلام کو ترک کر دے تاکہ عشاء اور مغرب کے وظائف سے جو نورانی طراوت حاصل ہوئی ہے وہ زائل نہ ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد وضو کو نیا کرے کیونکہ اس وقت وضو کرنے سے قیام شب میں آسانی ہو جاتی ہے قیام شب میں آسانی پیدا کرنے کا ایک اور ذریعہ معدہ کا کھانے سے خالی ہونا ہے تاکہ پر خوری (زیادہ کھانا) قیام سے مانع نہ ہو جائے اور جب سوئے تو طہارت سے سوئے اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھے تاکہ نفس کو نیند سے بیدار ہونے میں آسانی ہو اور نماز چاشت کے بعد قیلولہ کرے تاکہ نفس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے اور رات کو اٹھنے میں آسانی ہو۔ اور جب نیند سے بیدار ہو اور اس کے دل کی تختی ہر قسم کے ذکر و فکر سے خالی ہو تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و فکر لا متناہی کو اپنے دل میں نقش کر لے کیونکہ جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل جملہ نقوش سے خالی و صافی ہوتا ہے اور فطرۃ اولیٰ کی

طرف لوٹ آتا ہے چنانچہ جب اس حال میں بندہ اپنے دل پر ذکر حق کا نقش کر لے تو فطرت برقرار رہتی ہے۔ اور نماز تہجد نہایت حضور قلب سے ادا کرے۔ ممکن ہے کہ بعض کو تا نظر کے جن کی نگاہ بصیرت ان آداب کے کمال اور حسن کا مطالعہ نہیں کر سکتی وہ ان اوقات کی حفاظت نہ کر پائیں اور ارباب منازل اور صاحب مرتبہ لوگ ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے حالانکہ انہیں علم نہیں کہ جو شخص اللہ کی محبت میں سچا ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے تمام اوقات کو اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور کبھی بیزار نہیں ہوتا اور یہ حقیقت ہے کہ محبت صادق جب ملاقات کی سعادت حاصل کرتا ہے یا محبوب سے مناجات کا موقع حاصل کرتا ہے یا اس کی خدمت بجالانے اور زمین بوسی کرنے کا موقع پاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئیں اور اس نے اپنے مقصود و مطلوب میں کامیابی حاصل کر لی اور اس بات کو صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔

حضور ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کی شب بیداری کا عالم
 اے درویش.....! تجھے معلوم نہیں کہ سرور عالم ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ اپنے اوقات کس طرح صرف فرماتے تھے؟ بالخصوص آپ ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ رات کو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیئے ہیں تو آپ ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ نے جواب دیا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہی سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ قیام شب فرماتے تو یہ کلمات کہتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي

وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِرْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اے اللہ، تمام تعریف تیرے لئے ہے میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے دل کو ٹھڑانہ کر اس کے بعد کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔“

رات کو اٹھنے کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام شب کے لئے اٹھے اور ان کلمات سے نماز کی ابتداء کی:

اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

”اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کے جاننے والے تو اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرماتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، حق بات میں جب میں اختلاف کروں تو مجھے ہدایت فرما۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“

منقول ہے کہ شفیع المذنبین ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر ان

کلمات کو پڑھے اور بعد میں کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي تُوَدَّعَامَانِگے گا قبول ہوگی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

تہجد کے وقت اٹھنے کے بعد کے نبوی وظائف

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سرور عالم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شب کے لئے اٹھتے تو دس (۱۰) مرتبہ تکبیر کہتے دس (۱۰) بار الحمد، دس (۱۰) بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، دس (۱۰) مرتبہ استغفار اور دس (۱۰) مرتبہ تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) کہتے۔ اس کے بعد دس (۱۰) مرتبہ یہ کلمات کہتے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَمِنْ ضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور دس مرتبہ یہ کلمات پڑھتے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے۔ سرور عالم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ نماز شب کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان کلمات کو زبان پر جاری کرتے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ.

سورہ کے آخر تک پڑھتے سرکارِ دو جہاں ﷺ تکبیر تحریمہ کے بعد ان کلمات کو پڑھتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

غَيْرُكَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْحِهِ وَنَفْسِهِ.

اور تین مرتبہ یہ دعائیں مانگتے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تُنَقِّي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَجْهْتُ وَجْهِي لِلذِّئْبِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ
بِذَنْبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ
الْخَلَاوِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِ إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا
أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالْيَكُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَهُ إِلَيْكَ
وَالْيَكُ لَا مَنْجَامِيكَ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ
تُصَدِّعَنِي وَجْهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ أَحْنِنِي مُسْلِمًا.

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میرے اللہ! میری خطاؤں اور میرے درمیان اتنا
فیصلہ کر دے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح
پاک کر دے جس طرح کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری
خطاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو دے۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں باطل سے منہ موڑ کر اسلام قبول کرنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لئے ہے جو پروردگار دو جہاں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام کی راہ پر چلنے والا ہوں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ کل ہے تیرے سوا میرا کوئی پروردگار نہیں۔ میں تیرا ہی بندہ ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو میرے سب گناہ معاف فرما دے بے شک تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور تیری طرف سے ہے۔ تیری ذات بابرکت ہے، عظمت و بلندی والی ہے۔ میں تجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں اور شر تیری طرف سے نہیں۔ اور ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو تو نے اپنی طرف ہدایت دی۔ تیری ذات کے سوا نہ تو کہیں راہ نجات ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے تیری ذات بابرکت ہے۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا چہرہ بگڑ جائے۔ اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھ۔“

نماز تہجد میں حضور نبی اکرم ﷺ کی قرأت احوال و اوقات کے لحاظ سے مختلف ہوتی تھی بعض اوقات آپ سورۃ بقرۃ، آل عمران، النساء اور مائدہ کی تلاوت فرماتے اور ایک روایت کے مطابق سورۃ النعام پڑھتے اور بعض اوقات اس ایک آیت سے صبح کرتے: **اِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ** اور اسی طرح قرأت قرآن اور قیام کے مطابق آپ ﷺ کی تلاوت مختلف ہوتی تھی۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ پہلی دو

رکعت میں خفیف قرأت کرتے اور بعد والی رکعات میں لمبی قرأت کرتے اور جب کسی مرض یا عذر کی وجہ سے نماز تہجد فوت ہو جاتی تو بارہ رکعت نماز تہجد عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔ سلسلہ قادر یہ کے درویشوں کا معمول یہ ہے کہ نماز وتر کے بعد بارہ رکعت ادا کی جائیں اگر مذکورہ بالا طریقہ سے قرآن کی تلاوت نہ کر سکے تو ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ یا سات دفعہ یا پانچ بار یا تین بار سورۃ اخلاص کی قرأت کرے اور نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي
وَتَلْمُ بِهَا شَعْنِي وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا مَشَاهِدِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَ
تُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي وَتَعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُؤَالٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا
وَلَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفُوزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْنَ السُّعْدَاءِ وَالظَّفَرَ عَلَى
الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتْرُكُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي
إِفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا
تَجِيرُنَا مِنَ الْهَجُورِ أَنْ تُجِيرَنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللَّهُمَّ مَا
قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي وَعَدْتُ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَزَاءً أَنْتَ
مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا
ذَ الْجَلَالِ الْجَبَلِ الشَّدِّ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ
الْخُلُودِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالْمُؤَفِّينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ
رَحِيمٌ وَدُودٌ اللَّهُمَّ تَفَعَّلْ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ غَيْرَ الضَّالِّينَ
وَالْمُضِلِّينَ مُسْلِمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِأَعْدَائِكَ وَنُحْبُ بِحُبِّكَ وَنُعَادِي

بِعَدَاوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مِنَّا الدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ مِنَّا الْجُهْدُ
 وَ عَلَيْكَ التَّكْلَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي نُورًا فِي قَبْرِي نُورًا مِنْ بَيْنِ
 يَدَيَّ وَ نُورًا مِنْ خَلْفِي وَ نُورًا عَنْ يَمِينِي وَ نُورًا عَنْ شِمَالِي وَ نُورًا مِنْ فَوْقِي وَ
 نُورًا مِنْ تَحْتِي وَ نُورًا فِي سَمْعِي وَ نُورًا فِي بَصَرِي وَ نُورًا فِي شَعْرِي وَ نُورًا
 فِي بُشْرِي وَ نُورًا فِي لَحْمِي وَ نُورًا فِي دَمِي وَ نُورًا فِي عِظَامِي نُورًا اللَّهُمَّ
 اعْظِمْ لِي نُورًا وَ اعْطِنِي نُورًا وَ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي نُورِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي
 التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَ الْكَرَمِ
 سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.

”اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو
 ہدایت دے، میرے معاملے کو درست فرما دے۔ میرے کاموں کی پراگندگی کی اصلاح فرما
 دے، میرے غائب کی درستی فرما دے۔ میرے نظر آنے والے امور کو بلند فرما دے، میرے
 عمل کو پاکیزہ فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے اور اس رحمت کے ذریعے مجھے ہر سوال سے
 محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے ایمان و یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو اور مجھے ایسی رحمت عطا
 فرما جس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تیری عظمت کے شرف کو حاصل کر لوں، اے اللہ میں
 تجھ سے قضا و قدر میں کامیابی، شہیدوں کی ضیافت و دعوت، سعادت مندوں کے چشموں اور دشمن
 پر کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنی حاجت کو تیرے ساتھ چھوڑتا ہوں اگرچہ میری
 بصارت کم اور عمل کمزور ہے میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے
 کاموں کے پورا کرنے والے، دلوں کو شفا دینے والے کہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے پناہ
 دے اور قبر کے فتنہ سے بچالے، اے اللہ وہ چیز جس کو میں دیکھ نہ سکا یا تجھ سے اس کا سوال نہ

کر سکا اور تو نے اپنی مخلوق سے کسی کو عطا کرنے کا وعدہ کیا یا کوئی عطا و جزاء جو تو اپنے کسی بندے کو دینے والا ہے تو میں اس کی خواہش رکھتا ہوں اور اے عزت و عظمت کے مالک، ہدایت والے کاموں کو جاننے والے، میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور قیامت کے روز تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ مجھے مقررین بارگاہ اور رکوع و سجود کرنے والوں، وعدوں کو پورا کرنے والوں سے بنا۔ بے شک تو رحم فرمانے والا، نیک لوگوں کو دوست رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو تو چاہتا ہے، کرتا ہے، اے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے والے لوگوں سے بنا، ہمیں گمراہ اور گمراہ کن لوگوں سے نہ بنا۔ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کریں اور جن سے تو عداوت رکھتا ہے ہم بھی ان سے عداوت رکھیں، اے اللہ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں، قبول کرنے والا تو ہی ہے، ہماری طرف سے صرف کوشش ہے اور تو کل تجھ پر ہی ہے، اے اللہ میرے دل کو منور کر، میری قبر کو روشن کر۔ میرے آگے، پیچھے دائیں بائیں، اوپر، نیچے سب جگہ کو منور کر دے اور میری سماعت و بصارت میں نور عطا فرما۔ میرے بالوں اور میری جلد میں نورانیت پیدا فرما۔ میرے گوشت اور خون میں نور پیدا فرما اور میری ہڈیوں میں نورانیت پیدا فرما۔ اے اللہ میرے لئے نورانیت کو عظیم کر دے اور مجھے نور عطا فرما میرے لئے ہر طرف نور ہی نور کر دے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی کی تسبیح بیان کرنا مناسب نہیں پاک ہے فضل اور نعمتیں عطا کرنے والی ہستی پاک ہے بزرگی و عظمت والا، پاک ہے ہیبت و عزت والا۔“

اس کے بعد ستر (۷۰) مرتبہ استغفار پڑھے اور پھر یہ مناجات پڑھے:

يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الضَّامِنِينَ يَا مُعْطِيَ السَّائِلِينَ يَا مُجِيرَ الْمُسْتَجِيرِينَ يَا

أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُخَيِّبْ رَجَائِي إِلَهِي رَجَائِكَ يُحْيِينِي
وَوَخُوفِكَ يُمِيتُنِي وَ أَنَا بَيْنَ مَوْتٍ وَ حَيَاةٍ أَخَافُ عَذَابَكَ لِأَنِّي عَصَيْتُكَ وَ
أَرْجُو رَحْمَتَكَ لِأَنَّكَ كَرِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يُحْصَى مَكَارِمُكَ.

”اے وہ ذات مقدس جو ضامن کے ضمیر کو جانتا ہے اے سائلوں کو عطا کرنے والے،
اے پناہ تلاش کرنے والے کو پناہ دینے والے۔ خوفزدہ لوگوں کو امان دینے والے، اے
مومنین کی امید، میری امید کو ناکام نہ فرما۔ اے میرے مالک تیری امید مجھے زندہ رکھتی ہے
اور تیرا خوف مجھے مار دیتا ہے، میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں میں تیرے عذاب سے
ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے تیری نافرمانی کی، تیری رحمت کا امیدوار ہوں کیونکہ تو کریم ہے سب
تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تیرے مکارم کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

ندارم ہیچ توشہ اندر رس راہ
بجز لا تقنطوا من رحمة الله

”اسی راہ (سفر) میں میرے پاس فرمان خداوندی کہ (اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو
جاؤ) کے سوا کوئی زاد راہ نہیں۔“

إِلَهِي تُبْتُ وَ رَجَعْتُ عَمَّا قُلْتُ وَ تُبْتُ عَنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِي إِلَهِي مُلُوكُ
الدُّنْيَا يَعْتَقُونَ الْعَبِيدَ فَانْتَ مَلِكُ الْمُلْكِ فَاعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ إِلَهِي
بَابٍ نَتَوَجَّهُ بِغَيْرِ بَابِكَ وَ أَيِّ جَنَابٍ بِغَيْرِ جَنَابِكَ.

”اے میرے مالک جو کچھ میں نے کہا اس سے توبہ و رجوع کیا اور تمام گناہوں سے توبہ
کی۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو تمام بادشاہتوں کا مالک ہے مجھے
آگ کے عذاب سے آزاد فرما اے پروردگار تیرے در کو چھوڑ کر ہم کس طرف رخ کریں اور

تیری جناب کے سوا کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔“

اے میرے مالک، اے بادشاہ، جب میرے پاؤں بستر مرگ پر دراز ہوں اور دنیاوی امور سرانجام دینے سے میرے ہاتھ عاجز ہو جائیں تو کلمہ طیبہ کو میری زبان اور تمام مسلمانوں کی زبان پر جاری فرمانا، اور اس وقت جبکہ لباسِ حسرت میرے بدن سے جدا کر لیا جائے اور بے آستین لباس مجھے پہنا دیا جائے تو مجھ پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمانا اے اللہ جب میرے ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیئے جائیں اور عزیز واقارب ناامید ہو جائیں تو اس وقت مجھ پر رحم فرمانا، اے اللہ جب لوگ مجھے لحد میں اتاریں تو اس وقت مجھ پر رحم فرمانا۔

کرم کن اے کریم طاقت عدل کراست

گمرچہ سزا لائقیم از تو امید عطا است

”اے اللہ! عدل کی طاقت کون رکھتا ہے؟ بس تو اپنے کرم سے بخش دے۔ اگرچہ ہم تو

لائق سزا ہیں لیکن تیری عطا کی امید ہے۔“

اے اللہ تو ہم سب کی حاجتوں کو جانتا ہے اور پورا بھی کر سکتا ہے، اپنے کرم خاص سے پورا فرما دے دونوں جہاں میں ہمیں عزت عطا فرما، اپنے غضب سے اپنی ہی پناہ میں رکھ، ہمیں ہمارے اپنے حال پر نہ چھوڑ، حکام کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اپنے حبیب پاک، نبی مختار ﷺ کے طفیل، وہ افعال و اعمال جن پر تو راضی نہیں، ان کو اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں عفو و عافیت بخش۔ تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے دوستوں کو شریعت مطہرہ پر قائم رکھ۔

يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اِغْنِنِي يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ اَعْنِي يَا

حَسِيْبَ التَّائِبِينَ تَبُّ عَلَيَّ بِحَقِّ جَاهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُمَّ كَمَا

حَفِظْتَ جِبْهَتِي عَنْ سُجُودِ غَيْرِكَ فَاحْفَظْ لِسَانِي عَنْ سُؤَالِ غَيْرِكَ يَا مَنْ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى يَا قَيُّومَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ إِنَّا عَاجِزُونَ قَاصِرُونَ بُرءَاؤًا
إِلَيْكَ مِنْ زَيْغٍ وَزَلَلٍ مُطِيعُونَ لِمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ فِعْلٍ وَقَوْلٍ.

اے مومنوں کیلئے باعث امید، اے فریادیوں کیلئے فریادرس، میری فریادری کیجئے، اے
مومنوں کے مددگار میری مدد کیجئے، اے توبہ کرنے والوں کی کفایت کرنے والے نبی کریم
ﷺ کے طفیل میری توبہ قبول فرمائیے، اے اللہ! جس طرح غیر کے آگے سجدہ
کرنے سے تو نے میرے چہرہ کی حفاظت کی ہے اسی طرح غیر کے آگے سوال کرنے سے
میری زبان کی حفاظت فرما۔ اے رازوں اور پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے زمین و
آسمان کو قائم رکھنے والے ہم عاجز و قاصر ہیں، کجی اور لغزش میں تیری طرف رجوع کرنے
والے ہیں۔ اور جس قول و فعل کا تو نے حکم دیا ہے اسکی اطاعت کرنے والے ہیں۔“

اے عیب پوش و عیب دان، ہمیں نبی آخر الزمان ﷺ کے طفیل توفیق عطا
فرما، ہم تمام امور شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق سرانجام دیں۔

اس کے بعد آنحضور ﷺ پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے:

يَا مَنْ تَفَرَّدَ بِنُصْرَةِ الضُّعْفَاءِ وَالْمَظْلُومِينَ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَجَزُوا ذَلِكَ
اللَّهُمَّ سَدِّدْ لِسَانَ أَعْدَائِي وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوِّيْ وَلَا حَاسِدِيْ وَأَظْفِرْ عَنِّي
جَمِيعَ أَعْدَائِيْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور ستر (۷۷) مرتبہ یہ کلمات پڑھے:

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا
ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَمِنْ عَذَابِكَ

اَسْتَجِيرُ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَفِيضِينَ اغْنِنِي

اے وہ ذات جو تنہا کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرتی ہے جبکہ تمام مخلوق اس بات سے عاجز ہے۔ اے اللہ! میرے دشمنوں کی زبان بند کر دے اور میرے دشمنوں اور حاسدوں کو میری مصیبت پر خوش نہ کر اور مجھے میرے دشمنوں پر کامیابی عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔

اور چار سو سترہ (۴۱۷) بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا وظیفہ کرے اور ہر انیسویں عدد پر کلمہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بھی اس کے ساتھ متصل کرے۔ اور بلند آواز سے اس کا ورد کرے۔ اس کے بعد پانچ سو سینتیس (۵۳۷) بار يَا اللَّهُ کا ذکر کرے۔ اور مناسب یہ ہے کہ ان تمام اذکار کو سلسلہ عالیہ قادریہ کے طریقہ پر کرے جس کا ذکر، وظیفہ ذکر جہر کی فصل میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دو سو انیس (۲۱۹) بار حضور نبی اکرم ﷺ پر ان الفاظ میں درود شریف بھیجے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ [۱]



[۱] سلسلہ عالیہ قادریہ کی تمام کتب میں درود غوثیہ یہیں تک نقل ہے۔ جبکہ پیران سلسلہ عالیہ قادریہ شیخ شریف ایک متصل روایت کے مطابق تین مزید کلمات کے اضافہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی اس طرح..... اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

چھٹی فصل:

﴿ نماز تسبیح اور اس کی دعاؤں کے بیان میں ﴾

نماز تسبیح کی فضیلت

معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تسبیح کی اہمیت و فضیلت حدیث نبوی ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا اے چچا اگر ہو سکے تو آپ ہر روز نماز تسبیح پڑھا کریں یا ہر جمعہ کے دن اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار، یا سال میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پوری عمر میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ کیونکہ یہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور خطاؤں کو محو (ختم) کرنے والی ہے۔ حدیث نبوی ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ سے نماز کی چار رکعات ثابت ہیں۔

نماز تسبیح کا طریقہ

ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی ایک صورت پڑھیں اس کے بعد پندرہ دفعہ کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اور ہر رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت اور جلسہ تشهد میں دس بار کلمہ تمجید پڑھے۔

نماز تسبیح کی قرأت

بعض ائمہ حدیث، سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی سورۃ پڑھنے کو افضل خیال کرتے ہیں۔ اور

افضل واولیٰ یہ ہے کہ چار مسبحات یعنی سورۃ الحدید، الصف، جمعہ اور تغابن میں سے ایک کی تلاوت کرے۔ اور ایک روایت کے مطابق چھوٹی سورتوں مثلاً سورۃ زلزال، العادیات، القارعة، الهاکم التکاثر، اور اخلاص کی قرأت کرے۔ اور دوسری روایت کے مطابق سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الهاکم التکاثر، العصر، الکافرون، اور سورۃ اخلاص کی قرأت کرے۔ ان میں سے ہر سورت کو ہر رکعت میں قرأت کرے۔

نماز تسبیح ادا کرنے کے دو طریقے منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب ثنا سبحانک اللہم اور سورۃ فاتحہ ساتھ کوئی سورۃ پڑھنے سے فارغ ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی پندرہ بار کلمہ تجید سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا واللہ اکبر پڑھے اور ایک روایت کے مطابق اسکے ساتھ لا حول والاقوۃ الا باللہ العظیم بھی پڑھے، اسکے بعد رکوع میں چلا جائے اور دس مرتبہ تسبیح پڑھے اور اسی طرح قومہ، دونوں سجدوں، جلسہ استراحت اور جلسہ تشہد میں بھی دس دفعہ تسبیح پڑھے۔

دوسری روایت اس طرح ہے کہ تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد پندرہ مرتبہ کلمہ تجید پڑھے۔ اسکے بعد تعویذ و تسمیہ، فاتحہ اور کسی دوسری صورت کی قرأت کرے اور دس مرتبہ کلمہ تجید پڑھے۔ اسی طرح رکوع، قومہ، دونوں سجدوں، جلسہ استراحت اور جلسہ تشہد میں دس بار کلمہ تجید پڑھے [۱]۔ اسی طرح ہر رکعت میں پچھتر (۷۵) مرتبہ کلمہ تسبیح کی تعداد ہوگی اور چاروں رکعتوں میں اسکی تعداد تین سو (۳۰۰) دفعہ ہوگی اور تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے:

[۱] دوسری روایت کے مطابق کلمہ تجید دو سجدوں کے بعد نہ ہے، ورنہ تعداد ۸۵ بار ہو جائے گی.....

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَىٰ وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ
 أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلْبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ
 أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّىٰ أَخَافَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةَ
 تَحْجِزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَ
 حَتَّىٰ أَنَا صِحْحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا عَنْكَ وَحَتَّىٰ أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً
 مِنْكَ حَتَّىٰ أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ حُسْنِ ظَنِّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ.

”اے اللہ! میں تجھ سے اہل ہدی کی توفیق، اہل یقین کے اعمال، اہل توبہ کے خلوص،
 اہل صبر کے عزم، اہل خوف و خشیت کی بنجیدگی، اہل رغبت کی طلب، اہل تقوی کی عبادت اور
 علم کے عرفان کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا رہوں، اے اللہ! میں تجھ
 سے ایسے خوف کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے، حتی کہ تیری اطاعت
 کر کے میں ایسا عمل کروں جو مجھے تیری رضا و خوشنودی کا مستحق بنا دے اور میں تیرے عذاب
 سے ڈر کر سچی توبہ کروں اور شرمندہ ہو کر سچے خلوص اور خواہی کو اپنالوں۔ اور تیرے ساتھ حسن
 ظن کی وجہ سے تمام امور میں تجھ پر ہی توکل کروں، تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے،
 اے نور کے پیدا کرنے والے۔“



[بقیہ صفحہ] یہاں کاتب کی غلطی سے درج ہو گیا، پہلا طریقہ امام ابوداؤد، ابن ماجہ اور صاحب مشکوٰۃ رحمہم اللہ نے
 درج کیا۔ جبکہ دوسرا طریقہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مشائخ حنفیہ کا زیادہ تر معمول اسی پر ہے۔

باب سوم

﴿ تلاوت قرآن مجید کے آداب، ذکر بالجہر کے مختلف طریقے، باطنی اشغال، ذکر خفی، مراقبہ (جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے طریقہ کے مطابق ہے) بارگاہ نبوی کے آداب، آداب مریدین، قبلہ و کعبہ حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آداب، مختلف اذکار اور دعاؤں کے بیان میں ہے۔ اور یہ باب چھ فصلوں، تین مطالب اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ ﴿

پہلی فصل:

﴿ تلاوت قرآن مجید کے آداب کے بیان میں ﴾

تلاوت قرآن مجید کی فضیلت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور مجھ سے سوال نہ کیا تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں“، اور یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ تمام اذکار سے افضل و اکمل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے رب سے اور اس کے اہل سے کلام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اہل اس کے خاص بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کیلئے تلاوت قرآن مجید سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، اس کے ہر حرف کے بدلے نیکی ہے اور وہ نیکی دس گنا بڑھ جاتی ہے۔“

تلاوت قرآن مجید کے آداب

سب سے پہلی بات جو قاری قرآن کیلئے لازم ہے، وہ اخلاص نیت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے کرے اور اللہ کی بارگاہ کے سوا کسی اور کیلئے اسے وسیلہ نہ بنائے۔

تلاوت قرآن مجید کرتے وقت اپنے ذہن کو مستحضر (حاضر) رکھنا چاہیے گویا کہ بندہ

اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، تلاوت کے آداب درج ذیل ہیں:
 وضو نئے سرے سے کرنا، مسواک استعمال کرنا، جگہ تلاوت قرآن کیلئے صاف ستھری
 ہونا، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، خشوع و خضوع اور اطمینان و وقار اور حضور قلب ہونا، معانی پر غور کرنا،
 حزن قلب اور گریہ و زاری کا حاصل ہونا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ترتیل سے اور خوبصورت
 بلند آواز سے نہایت ہی خوف و خشیت سے پڑھنا۔ دوران تلاوت سستی، کاہلی اور ملال سے
 اجتناب کرنا۔

غوث اعظم محبوب حق شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اِحْتَرِمُوا كَلَامَ اللَّهِ ﷻ وَ تَادَّبُوا مَعَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَصْلَةُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ ﷻ
 لَا تَجْعَلُوهُ مَخْلُوقًا.

”یعنی کلام اللہ کا احترام و ادب کرو کیونکہ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ و وسیلہ
 ہے۔ اسے مخلوق نہ بناؤ۔“

کلام الہی کی تلاوت یا سماع اس طرح کرنا چاہیے کہ جب بندہ کی اپنی زبان پر یا کسی اور
 کی زبان پر کوئی کلمہ یا آیت جاری ہو تو یوں محسوس کرے گویا کہ وہ متکلم حقیقی سے سن رہا ہے
 الفاظ کے معانی کی گہرائی میں چلا جائے اور سننے کی لذت میں اس قدر منہمک ہو جائے گویا
 کہ متکلم حقیقی ہی سے سن رہا ہے۔ اور اپنی زبان یا دوسرے کی زبان کو صرف ایک واسطہ ہی
 تصور کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، اور اپنے آپ
 کو انسی انا اللہ بسمع موسیٰ صلی اللہ علیہ و علی نبینا و آلہ و علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے قدیم طریقہ خطاب کے ذریعہ تک پہنچائے۔ چنانچہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس
 فرمان کا بھی یہی مطلب و معنی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے دلوں سے سنتے ہیں اور ان

کے اعمال خارجیہ کے ساتھ کان اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز تعوذ و تسمیہ سے کرے اور جب کسی آیت رحمت پر پہنچے تو مسرت کا اظہار اور اپنی حاجت طلب کرے اور جب کسی آیت عذاب پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور استغفار کرے۔ آیات تسبیح و تحمید پر تسبیح پڑھے اور دعا و تضرع والی آیات پر دعا کرے اور مطلوب و مقصود طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے کسی اسم کی تلاوت کرے تو اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگے، جہاں اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ کی نفی کی گئی ہو وہاں پر نفی کرے اور محل اثبات پر وجود حقیقی کا اثبات کرے۔ جب آیت سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ تلاوت ادا کرے اور اٹھ کر دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے اور جب آیت ”رُسُلِ اللّٰهِ“ پر پہنچے تو سبّار ”رُسُلِ اللّٰهِ“ کا تکرار کرے اور اٹھ کر دو رکعت نماز نفل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جا کر اپنی دینی حاجت طلب کرے اور دل میں اس حاجت کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم یا قرآن کی کسی آیت کا تکرار کرے۔ اور باطنی اعداء کو دور کرنے کیلئے کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اَعْدَى عَدُوکِ نَفْسُکَ الَّتِی بَیْنَ جَنَبِکَ (تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے پہلوؤں میں ہے۔) اور ظاہری دشمنوں کو دور کرنے کیلئے درج ذیل آیات میں کسی ایک آیت کا تکرار کرے:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ

الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ۝ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَهُمُ الْحَقُّ ط اِلَا لَهٗ

الْحُكْمُ رَفِيفٌ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ۝ ۱

”اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر (فرشتوں کو بطور) نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے (تو) ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ خطا (یا کوتاہی) نہیں کرتے ۝ پھر وہ (سب) اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، جان لو! حکم (فرمانا) اسی کا (کام) ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے ۝“

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ج يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَجْرِي إِلَى

أَجَلٍ مُّسَمًّى ط أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ ۲

”وہی اللہ ہے، جو یکتا ہے سب پر غالب ہے ۝ اُس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو (ایک نظام میں) مستحضر کر رکھا ہے ہر ایک (ستارہ اور سیارہ) مقرر وقت کی حد تک (اپنے مدار میں) چلتا ہے، خبردار! وہی (پورے نظام پر) غالب، بڑا بخشنے والا ہے ۝“

اور یہ آیت بھی پڑھے:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اس کے بعد اللہ اَعْلَمُ کہے اور تلاوت میں مشغول ہو جائے۔

۱ (الانعام، ۶: ۶۱-۶۲) ۲ (الزمر، ۳۹: ۴-۵)

اور جب اس آیت پر پہنچے۔ **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** تو دعا وتضرع کرے اور سورت **والضحیٰ** کے بعد قرآن کے آخر تک جتنی سورتیں ہیں ان سب کے ختم کرنے کے آخر میں تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور تکبیر اس طرح سے ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اور ایک روایت کے مطابق صرف **اللَّهُ أَكْبَرُ** پراکتفا کر لے۔

تلاوت قرآن کا وقت

تلاوت کرنے کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ اور صبح کی نماز کے بعد ہے اور مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت بھی محبوب ہے۔ موسم گرما میں قرآن مجید کا ختم فجر کی سنتوں میں کرے اور موسم سرما میں مغرب کی سنتوں میں ختم کرے تاکہ قاری قرآن کیلئے ملائکہ کی طرف سے دعائے مغفرت اور استغفار لمبے دن اور لمبی رات میں واقع ہو۔ اور اگر فجر کی سنتوں میں قرآن مجید ختم کرے تو سوموار کا دن ہو اور اگر مغرب کی سنتوں میں ختم کرے تو جمعرات محبوب ہے، اور روزہ کی حالت میں قرآن مجید کا ختم کرے اور ختم کرنے کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کو جمع کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے قرآن مجید کے ختم کا وقت رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ ختم کے بعد دعا وتضرع کرے۔

ختم قرآن میں سنت نبوی

حضور نبی اکرم ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ قرآن مجید ختم کرتے تو سورۃ فاتحہ سے ابتدا کرتے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ مفلحون تک پڑھتے اور ایک روایت کے مطابق آیت **الکرسی**، **خالدون** تک اور **امن الرسول** آخر سورت تک بھی پڑھتے۔

دعائے ختم قرآن

ختم قرآن کی دعا یہ ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَذَّبَ
الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ
دَعَا لِلَّهِ وَلَدًا أَوْ صَاحِبَةً أَوْ شَبِيهَا أَوْ مَثِيلًا أَوْ سَمْنًا أَوْ عَدَلًا . فَإِنَّ رَبَّنَا أَعْظَمُ
مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ شَرِيكًا فِيمَا خَلَقْتَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا ○ اللَّهُ أَكْبَرُ ○
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ، قِيمًا لِيُنذِرَ
بِأَسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا مَا كَثِيرًا فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ
الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنَ الرَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَى

عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ بَلِ اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ وَ أَحْكُمُ وَ
 أَكْرَمُ وَ أَعْظَمُ مِمَّا يُشْرِكُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ
 وَبَلَغَتْ رُسُلُهُ وَ أَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ
 وَ الْمُرْسَلِينَ وَ ارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ وَ اخْتِمْ
 لَنَا بِخَيْرٍ وَ بَارِكْ لَنَا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ انْفَعْنَا بِالآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ آسُ وَ حَشْتِي فِي قَبْرِی اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي
 بِالْقُرْآنِ وَ اجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَ نُورًا وَ هُدًى وَ رَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ
 وَ عَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَ ارزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَ جِلَاءَ صَدْرِي وَ ذَهَابَ هَمِّي وَ
 غَمِّي.

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تعریفیں اللہ
 ہی کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے، اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا، اس کے بعد
 بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی اللہ ہے اور جھوٹ
 کہتے ہیں، مشرک اللہ تعالیٰ کے بارے میں عربی، مجوسی، یہودی، عیسائی، اور صائبین جنہوں
 نے اللہ کے لیے بیٹا، بیوی، تشبیہ یا تمثیل، یا متوازن اور غیر متوازن ہونے کی اصطلاحات
 منسوب کیں۔

پس تو اے ہمارے رب اس سے عظیم تر ہے کہ وہ تیرے پیدا کیے میں سے تیرا
 شریک ٹھہرائیں۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی
 بادشاہی میں اس کا شریک ہے، کمزوری میں اس کا کوئی حمایتی نہیں۔ اس کی بڑائی بیان کر بہت

خوب بڑائی۔ اللہ بہت بڑا ہے!

اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ اور اس میں کوئی کجی (ٹیڑھا پن) نہیں رکھی، بہت مضبوط ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائیں، اور خوش خبری دیں ان مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت خوب اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا حالانکہ ان کو اور ان کے آباء کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا بول منہ سے بول رہے ہیں، اور محض جھوٹ کہتے ہیں۔

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے اسی کے لیے ہے۔ اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی حکیم اور خبیر ہے، اور جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو باہر نکلتا ہے۔ اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان میں اوپر چڑھتا ہے۔ وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، زمین و آسمان کے بنانے والا اور فرشتوں کو بھیجنے والا جو دو، دو، تین، تین اور چار، چار، پروں والے ہیں۔ اور اپنی خلق میں جو کچھ چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت وہ لوگوں کے لیے کھولے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ وہ روک دے اس کے بعد کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلامتی ہے اس کے پسندیدہ بندوں پر، اللہ اس سے بہت بہتر ہے جن کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا عزت والا اور سب سے بڑا عظمت والا ہے، جن چیزوں سے یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ اکثر

لوگ نہیں جانتے۔

سچ کہا اللہ نے اور سچ پہنچایا اس کے رسولوں نے اور میں اس چیز پر تم میں گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ اے اللہ درود بھیج تمام ملائکہ اور رسولوں پر، اور رحم فرما اپنے مومنین بندوں پر، تمام زمینوں اور آسمانوں میں سے اور خاتمہ ہمارا خیر کے ساتھ فرما، اور برکت دے ہمیں قرآن عظیم میں اور نفع دے ہمیں آیات اور اس ذکر حکیم (قرآن مجید) سے۔ اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انسیت عطا فرما میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن مجید کے ساتھ مجھ پر رحم فرما، اور اس کو بنا میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت، اے اللہ مجھ کو یاد دلا دے اس میں سے جہاں سے میں بھولوں، اور مجھے پڑھا دے اس میں سے جہاں سے میں نہ پڑھ سکوں۔ دن اور رات کے اوقات میں مجھے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو بنا دے میرے لیے حجت (دلیل)، اے پروردگار عالم۔

اور اے اللہ.....!! قرآن پاک کو بنا میرے لیے دل کی بہار اور میرے سینے کی جلا (روشنی) اور میرے ہم و غم سے نجات۔

سجدہ تلاوت میں یہ کلمات کہے:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ آمَنْتُ بِالْقُرْآنِ سَجَدْتُ لِلرَّحْمَنِ فَاعْفِرْ لِي يَا رَحْمَنُ
سَجَدَ وَجْهِي الَّذِي شَقَّ سَمْعُهُ وَبَصْرُهُ وَبِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ
أَجْرًا وَأَوْضِعْ عَنِّي وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ
مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ (عليه السلام) سُبْحَانَ رَبِّنَا أَنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.

پاک ہے میرا رب اور اعلیٰ ہے، ایمان لایا میں قرآن اور سجدہ کیا رحمن کو، پس تو مجھے

معاف فرمادے اے رحم فرمانے والے۔

میری جبیں نے سجدہ کیا، جس نے کھول دی اس کی سماعت اور بصارت، اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں میرے لیے ثواب لکھ، اور مجھ سے بوجھ اتار دے، اور اپنی بارگاہ میں اس کو میرے لیے ذخیرہ کر لے اور مجھ سے سجدہ قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا، پاک ہے ہمارا رب اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔



دوسری فصل:

ذکر جہر اور اشغال باطنی کے بیان میں ﷺ

آداب ذکر

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: (مدح اور حکم کے انداز میں)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ.

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ابن آدم کی جو گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں گزری ہوگی قیامت کے روز وہ اس پر حزن و ملال کا اظہار کرے گا۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان حکایت کرتے ہوئے فرمایا: جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ساتھی ہوں۔ تم مجھے شوق و محبت سے یاد کرو میں تمہیں وصل اور قربت کے ساتھ یاد کروں گا۔

آنحضور ﷺ نے فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَإِنْ صِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ.

”ہر چیز کیلئے ایک صیقل ہے اور دل کا صیقل (پالش کرنے والا، جلا دینے والا) ذکر الہی

ہے۔“

غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

موت القلوب الغفلة عن الله تعالى و عن ذكره فمن اراد منكم أن يحيى قلبه فليكثر فيه ذكر الحق وَعَلَيْكُمْ والانس به والنظر إلى سلطانه و عظمته و تصرفه في خلقه و ايضا قال ان ذكرت ربك بالسن حسن صنعته فتح انفعال قلبك وان ذكر بالسن لطائف اسرار وفاتت ذاكر اعلى الحقيقة وان ذكرته بقلبك قربك من عبادة الرحمة وان ذكرته بسرک ادناک من مواطن القدس وان صدقت في حبه حملک يحتاج لطفه إلى مقعد صدق ما عرف قدر جلاله من فطر لحظة عن ذکر ولا لاحظ أزلية وحدانية من الفت بعين سره بغيره.

”یعنی اللہ اور اس کے ذکر سے غفلت کرنا دلوں کے لئے موت ہے لہذا اگر تم میں سے کوئی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں یاد حق کی کثرت کرے اور اس سے انس حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت میں غور و فکر کرے اور مخلوق پر اس کے قبضہ و تصرف میں تدبر کرے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تو نے اپنے رب کا زبان سے ذکر کیا تو اچھا کیا اپنے دل کی غفلت کو دور کیا، اگر تو نے باطنی لطائف سے ذکر کیا تو انہیں ذکر کی حقیقت میں مشغول کر دیا، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے یاد کیا تو تیرا رب اپنی بندوں پر مہربان ہے، اگر تو نے اسے خفیہ ہو کر یاد کیا تو تو نے اپنے آپ کو بارگاہ اقدس کے قریب کر لیا، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچ بولا تو اسکے لطف سے سچائی کا شہسوار ہو جائے گا، اگر جو لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی قدر نہ پہچان سکے گا، اور ذکر کے بغیر اسکی کوئی بھی ازلی صفت تو حید کا بھید ملاحظہ نہ کر سکے گا۔“



اللہ کا ذکر دلوں کی شفاء

اے درویش! حضور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

ذکر اللہ تعالیٰ شفاء القلوب

کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لئے شفا ہے۔

اور غوث اعظم کا ارشاد ہے:

اذا دام علی ذکر الحق جاءت إليه المعرفة والعلم والتوحيد

کہ جب کوئی شخص ذکر حق پر مداومت کرے تو اسے معرفت، علم اور توحید نصیب

ہو جاتے ہیں۔

اس لئے تجھ پر لازم ہے کہ تو ان تمام وظائف کو جو بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب سے

پڑھے کہ تیرا کوئی وقت اور کوئی حالت ان سے خالی نہ ہو، آنے جانے، کھانے پینے، پہننے،

بیٹھنے، سونے، سننے، کہنے اور تمام حرکات و سکنات میں ذکر الہی میں مصروف رہے۔ تاکہ کوئی

لمحہ بھی غفلت و سستی اور لہو و لعب میں نہ گزرے جس طرح کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

ﷺ نے فرمایا:

اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا انه مجنون و اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا

المنافقون انکم مراؤن.

اللہ تعالیٰ کا اس قدر ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں اور ایسی حالت ہر قسم کے

خیالات و اوہام کی نفی اور جہدِ بلیغ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جس قدر دل سے وسوسوں کو دور کیا

جائے اسی قدر یہ نسبت قوی و محکم ہو جاتی ہے، لہذا کوشش کر کہ تیرے دل کا صحن تمام متفرق

خیالات سے خالی ہو جائے اور تجھے پوری طرح دل جمعی حاصل ہو جائے۔ طالب کو چاہیے کہ

تمام اوقات ذکر کا خاص خیال رکھے بالخصوص نصف شب، آخر شب، نماز عشاء، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کے وقت کا خیال رکھے اور جتنے وظائف تحریر کیے گئے ہیں انہیں اپنے اپنے اوقات میں ادا کرے۔

سب سے پہلے غسل کرے اور وضو نئے سرے سے کرے اس کے بعد دو (۲) رکعت تحیۃ الوضو ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص چالیس مرتبہ پڑے۔ اس کے بعد آنحضور ﷺ پر دس بار یہ درود شریف بھیجے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ
وَبَعْدَ كُلِّ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
اور دس بار یہ کلمات پڑھے:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوبُ إِلَيْهِ
اور تینتیس (۳۳) بار کلمہ تجید، ستر (۷۰) بار یا حی یا قیوم، ایک (۱) بار اَسْتَغْفِرُ
اور ایک بار یا تین بار یہ آیت پڑھے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [۱]

اس کے بعد یہ آیات پڑھے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ [۲]

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [۳]

[۱] آل عمران: ۱۸ [۲] البقرة: ۱۵۲ [۳] البقرة: ۱۶۳

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [۱]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [۲]

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَنزِلُ مَا أَفْتَلُ

أُنْقَلِبُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يُّنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي

اللَّهُ الشَّاكِرِينَ [۳]

الْم ۖ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [۴]

ان آیات میں سے ہر ایک کو دو مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ

نَسْتَعِينُ سے وَلَا الضَّالِّینَ آمین تک پڑھے۔ اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے جو آئندہ

صفحات پر تحریر کیا جائے گا اور اس ذکر کے خاتمے پر یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ اللَّهُمَّ بِجَلَالِ قُدْرَتِكَ وَبِجَمَالِ اُنْسِكَ وَ

بِنَظْرِكَ اِلَىٰ اَوْلِيَائِكَ وَبِقُرْبِكَ اِلَىٰ اَصْفِيَائِكَ وَبِشَوْقِكَ اِلَىٰ

مُشْتَاقِيكَ وَمَحَبَّتِكَ اِلَىٰ طَالِبِيكَ وَبِشَوْقِكَ اَنْ تُنَوِّرَ قَلْبِي بِنُورِ

مَعْرِفَتِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ حُضُورِكَ حَتَّىٰ يَسْرُلَنَا صِبَا حَتَّىٰ بِحَارِ الْاَنْوَارِ

وَيَنْتَهِي لَنَا دَرِ الْاَسْرَارِ ۖ اَللّٰهُمَّ شَرِّفْنَا بِمُشَاهَدَةِ جَمَالِكَ وَوَصَالِكَ وَارْزُقْنَا

[۱] البقرہ: ۱۸۶۔ [۲] البقرہ: ۲۵۵۔ [۳] آل عمران: ۱۴۴۔ [۴] آل عمران: ۱۰۱

نِعْمَةً لِقَائِكَ وَاحْشُرْ نَافِي زُمْرَةَ أَوْلِيَاكَ اللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنْ مُحَبَّةِ الدُّنْيَا قُلُوبَنَا
وَأَبْصِرْ عُيُونَنَا فِي عُيُونِنَا (۱) اللَّهُمَّ زَيْنُ ظَوَاهِرِنَا لِطَاعَتِكَ وَبَوَاطِنَنَا
بِخَشِيَّتِكَ وَأَبْصِرْ عُيُونَنَا فِي عُيُونِنَا بِمَعْرِفَتِكَ اللَّهُمَّ صَفِّرِ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِنَا
وَعَظْمِ جَلَالِكَ فِي قُلُوبِنَا إِلَهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ إِلَهِي أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا
الْمَمْلُوكُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الدَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ وَأَنْتَ الْبَاقِي
وَأَنَا الْفَانِي وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا اللَّئِيمُ وَأَنْتَ
الْكَرِيمُ وَأَنَا الْجَانِيُّ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْخَاطِئُ وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ
وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ وَأَنْتَ الْمُعْطَى وَأَنَا السَّائِلُ وَأَنْتَ الرَّزَّاقُ وَأَنَا
الْمَرْزُوقُ وَأَنْتَ حَقٌّ مِمَّنْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَعِيْتُ بِهِ وَسَأَلْتُهُ وَدَعَوْتُهُ وَرَجَوْتُهُ
لَأَنَّكَ كَرِيمٌ إِلَهِي كَمْ مِنْ مُذْنِبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَكَمْ مِنْ مُسِيءٍ قَدْ تَجَاوَزْتَ
عَنْهُ فَاعْفِرْ لِي رَبَّنَا وَتَجَاوَزْ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحیم ہے۔ اے اللہ اپنی قدرت کے جلال، اپنی
محبت کے جمال، اولیاء کی طرف نظر کرنے، اصفیاء کو قریب کرنے، مشتاقین کے اشتیاق اور
طالبین کی محبت اور شوق کے طفیل میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے اور مجھے
اہل حضور میں سے بنا، اے اللہ ہمیں اپنے جمال اور وصل کے مشاہدہ سے مشرف فرما، ہمیں
اپنی ملاقات کی نعمت عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں اپنے اولیاء کے زمرے میں اٹھا۔ اے
اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر اور ہماری آنکھوں کو ہمارے عیب دیکھنے کیلئے

(۱) ایک دوسری جگہ یہ جملہ اس طرح ہے جو زیادہ مناسب ہے۔ أَبْصِرْ عُيُونَنَا فِي عُيُونِنَا ...

بينا کر دے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنی اطاعت کے لئے اور ہمارے باطن کو اپنی خشیت کے لئے سنوار دے اور اپنی معرفت کے ساتھ ہماری آنکھوں کو ہمارے عیب دیکھنے کی بصارت دے، اے اللہ ہماری نظروں میں دنیا کو حقیر بنا دے اور ہمارے دلوں میں اپنے جلال کو عظیم بنا دے، اے اللہ تو پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ تو مالک کائنات ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تو غالب ہے اور میں کمزور و ذلیل، تو غنی ہے اور میں محتاج، تو باقی ہے اور میں فانی، تو احسان فرمانے والا ہے اور میں غلط کار، تو کریم و نسی ہے اور میں کمینہ و گھٹیا، تو کرم کرنے والا ہے اور میں گناہگار، تو رحیم ہے اور میں خطا کار۔ تو خالق ہے اور میں مخلوق۔ تو قوی ہے اور میں ناتواں۔ تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل، تو رزاق ہے اور میں روزی تلاش کرنے والا، تو حق ہے۔ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور تجھی سے استغاثہ کرتا ہوں۔ تجھی سے سوال کرتا ہوں اور تجھی سے امید رکھتا ہوں کیونکہ تو کریم ہے۔ اے اللہ کتنے ہی گناہگار ہیں جنہیں تو نے بخش دیا اور کتنے ہی غلط کار ہیں جنہیں تو نے معاف کر دیا، پس اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور مجھے معاف فرما، میں تو تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں۔

اس کے بعد سرور کائنات، خلاصہ موجودات ﷺ، جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، اصحاب نامداد، غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی اور تمام اولیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو، درود شریف، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے اس کے بعد اپنی خیر و عافیت، تمام اہل اسلام کی سلامتی، بادشاہ وقت کی عافیت اور ظاہری و باطنی دشمنوں کی مقہوری کے لئے دعا کرے۔

ذکر کی شرائط اور آداب

جب تنہا یا جماعت کے ساتھ ذکر جہر کرنا چاہے تو ذکر کی تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھے۔

پہلی شرط..... اخلاص نیت

سب سے پہلی شرط صدق نیت ہے کیونکہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے اگر نیت خالص ہوگی تو اعمال کا ثواب افضل و اکمل ہوگا۔ اگر کوئی شخص دونوں جہانوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی امید مراد و حاجت رکھے تو وہ دین میں نئی راہ نکالنے والا اور طریقت سے ہٹنے والا ہے۔ بارگاہ ربوبیت میں قرب حاصل کرنے، مناجات و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل کرنے کے لئے نیت کی طہارت واجب و لازم ہے۔ لہذا اگر نیت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی ہو تو یقیناً مقام عبودیت کی طرف منسوب ہوگا۔ مشکل عبادات، اذکار متنوعہ اور اشغال جن کا مقصد طلب جاہ، ریا کاری، ظہور کرامات اور کشف آیات ہو، تقرب خداوندی مقصود نہ ہو، اگر ایسے شخص سے لوگوں کے طلب کرنے پر کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ مکر اور استدراج ہوگا اور حماقت اور بارگاہ صمدیت سے دوری کا موجب ہوگا۔ کثرت شغل، کم خوری اور دوام ذکر باطن کی صفائی دلوں کو روشن کرنے اور نفوس میں تاثیر پیدا کرنے میں خاص دخل رکھتے ہیں۔ لہذا طالب کرامت کو جب اشغال و اذکار اور ریاضت کے سبب صفائے باطن اور نورانیت حاصل ہو جائے اور بعض علوم کا اکتساب کر لے اور بعض نفوس میں تصرف اور تاثیر کرنے لگے اور یہ خیال کرے کہ مقصد اعلیٰ

صرف یہی ہے تو وہ شیطان کے قریب ہے اور تکبر و غرور نے اسے دھوکا دے رکھا ہے۔ اسے چاہئے کہ دوسروں کو حقارت و نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسے مقام پر شریعت کی حرمت و وقار اس کے دل سے اٹھ جائے (العیاذ باللہ) اور اللہ تعالیٰ کے حدود و احکام کو چھوڑنے لگ جائے اور حلال کو چھوڑنے اور حرام کا مرتکب ہونے کی پرواہ نہ کرے اور شیخ اسلام سے مردود ہو جائے اور اگر سلوک کے راستہ میں کسی سے اتفاقی طور پر کرامت ظاہر ہو جائے اور اس کی نیت بھی مخلص ہو اور عزیمت کے راستہ پر سچا ہو تو اسے عزیمت کی پختگی اور یقین کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہر حال ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔

دوسری شرط گناہوں سے توبہ

اور ذکر کی شرائط میں سے دوسری شرط گناہوں اور شریعت کے خلاف کاموں سے استغفار اور توبہ ہے۔ توبہ (خلوص دل سے) تمام گناہوں سے کرے اور دل کو ماسوی اللہ کی جانب متوجہ نہ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کیونکہ تمام مقامات کی بنیاد اور تمام خیرات کی چابی اور جسم و دل کے ظاہری اور باطنی معاملات و منازلات اور تمام خیرات تک پہنچانے کا سب سے بہتر ذریعہ توبہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

العجب من یقنط و معہ النجات

تعجب اس شخص پر جس نے قنوط اور مایوسی اختیار کی اور پھر اس کے ساتھ نجات بھی ہو۔
لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین! نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، توبہ اور استغفار نجات ہے۔ لہذا توبہ سے کوتاہی اور لاپرواہی کرنا اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جنہوں نے توبہ نہ کی پس وہ لوگ ظالم ہیں۔

تیسری شرط طہارت جسمانی

ذکر کی ایک اور شرط طہارت ہے۔ طہارت اکبر یعنی غسل کرے اور اگر غسل نہیں کر سکتا تو نیا وضو کرے اور تحیۃ الوضو کے نفل پڑھے جس طرح کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور ذکر سے قبل اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک صاف کر لے، نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ کپڑے پر گندگی لگی ہو یا کپڑا غصب کیا گیا ہو، ان تمام نجاستوں سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے جس حجرے میں ذکر کرنا ہو وہ چھوٹا سا، تاریک اور لطیف ہو اور خوشبو سے معطر ہو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔

چوتھی شرط حضور قلب

شرط یہ ہے کہ دل کو حاضر اور مراقب رکھے اور اس طرح تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ حاضر اور تشریف فرما ہیں، ہمیشہ وقار اور ادب و احترام کا لحاظ رکھے۔ اپنے ظاہر و باطن کو عبادت کی شکل میں رکھے، لباس کی موافقت اور احکام الہی کی موافقت میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے تاکہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ کے نجات کے درپے ہوئے اور غیر متناہی فیض کے نازل ہونے کے لئے تیار ہو جائے۔

پانچویں شرط دل کا رابطہ مرشد کے ساتھ رکھے

اور یہ بھی شرط ہے کہ ذکر کرتے وقت دل کا رابطہ مرشد کے ساتھ ہو۔ اس کی تفصیل شغل باطن کے بیان میں مذکور ہوگی۔

ذکر جہر (بلند آواز سے ذکر کرنا)

حضرت غوث اعظمؒ نے فرمایا: ذکر پہلے زبان کے ساتھ ہوتا ہے پھر دل کی طرف تجاوز کرتا ہے پھر محبت اور شوق زبان کی طرف تجاوز کرتے ہوئے آ جاتی ہے جس وقت بندہ خدائے غالب و بزرگ تر کے لئے جہالت کی نفی کر کے علم ثابت کرتا ہے اور بعد کی

نفی کر کے قرب ثابت کرتا ہے اور صحت کی نفی کر کے ذکر ثابت کرتا ہے اور وحشت کی نفی کر کے انس ثابت کرتا ہے اور اندھیرے کی نفی کر کے نور ثابت کرتا ہے اور راستہ میں ”میں“ اور ہم نہیں رہتا مگر ”تو“ ہی ہو جاتا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ عارف اپنے دل کی آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جوہر کی وجہ سے جاننے والا ہوتا ہے پھر حق اس کو تمام طور پر لقمہ بنا لیتا ہے پھر ہم اس میں ہر چیز کو غائب کر دیتے ہیں۔ خدائے غالب و بزرگ تر اس کی نیکیوں کو بے پایاں بنا دیتا ہے وہ کہتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے۔ عارف کے نزدیک ظاہر اور باطن، اول اور آخر، صورت اور معنی میں حق ہی ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس وقت دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظمؒ نے یہ بھی فرمایا:

اللسان غلام القلب وتبع له
زبان دل کی غلام اور تابع ہوتی ہے

سلسلہ قادریہ اور ذکر بالجہر کے طریقے

ذکر بالجہر کا طریقہ (نفی و اثبات کا ذکر)

جاننا چاہئے کہ سلسلہ قادریہ میں ذکر جہر کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ اختیار کیا ہے اور اس کی صورت نفی اور اثبات سے مرکب ہے تاکہ ذکر کرنے والا اس کلمہ کو زبان پر جاری کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، دل اور زبان کے درمیان مطابقت کو نگاہ میں رکھے اور نفی کی صورت میں تمام محدثات یعنی ماسوی اللہ کا مطالعہ نظر فنا سے کرے اور اثبات کی صورت میں قدیم کے وجود کا بقا کی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کرے اس کلمہ

پر مواظبت و مداومت کرنے اور تکرار کرنے سے دل میں توحید پختہ ہو جاتی ہے اور اس مقام پر ذکر کی صفت لازم ہو جاتی ہے۔ ذکر کو مسلسل ذکر کی امداد پہنچتی ہے اور پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کی صفت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اور دل کا جوہر اس حقیقت میں متحد ہو جاتا ہے اور اس مقام پر ذکر میں اور ذکر مذکور میں محو اور فانی ہو جاتا ہے۔ یہ تو کلمہ توحید کا ظاہر ہے یعنی ظاہر کے لحاظ سے دل محو ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت اس کے باطن کے لحاظ سے فائدہ دینے والی اور بکھیرنے والی ہوتی ہے، اور اس حالت میں عبادت کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ذکر اور ذکر اور مذکور تینوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں ہم تو یہی کچھ بیان کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے۔

ایک گروہ کے ذکر کی سند ایک اثبات کے ساتھ ہے: جلسہ کو مربع کی شکل بنائے یعنی مربع شکل بنا کر اس طرح بیٹھے کہ دائیں پاؤں کی انگلی کے سر کے ساتھ کیمیا کے بند کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی گھٹنے کے بند کو دائیں پاؤں کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوؤں پر سیدھا کر کے اس طرح رکھے کہ انگلیوں سے لفظ اللہ سمجھا جائے اور اپنے مرشد کو ذکر کے وقت حاضر تصور کرے اور اس کی ولایت سے مدد اور تقویت طلب کرے، سر کو دائیں زانوں کی طرف نیچے لے جائے اس حد تک جھکائے کہ ڈاڑھی کو چھنگلیا تک پہنچائے اس جگہ سے لا الہ کہتا ہو اور دائیں زانوں سے اٹھائے اور دائیں کندھے تک پہنچائے تھوڑا سا سر اور دائیں کندھے کو پیٹھ کی طرف خم کرے اور اس جگہ سے لا الہ کو صعود یعنی چڑھا کر لا الہ کو صبوط یعنی نیچا کرے پھر اپنی اصلی حالت پر آ کر سر سے آغاز کرے اور نفی کی حالت میں آنکھ کو کھلا رکھے اور اثبات کی حالت میں آنکھ کو بند رکھے اور لا الہ کہتے وقت ما سو اللہ کے وجود کی نفی کا تصور کرے۔

دل میں گزرنے والے برے خطرات کی بھی نفی کرے اور اِلَّا اللہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے وجود ہستی کا اثبات کرے اور حق تعالیٰ کی ذات کو اپنا محبوب اور مطلوب تصور کرے اور اس جگہ میں راز ہے جو اپنے مرشد سے معلوم کرے۔ اس طریقہ پر جب دل میں آہستہ آہستہ ذکر پختہ ہو جاتا ہے تو نفی و اثبات کے جوہر سے دل منور اور جوہر دار بن جاتا ہے۔ تو ذکر دل کی ولایت پر غالب ہو گا اور جو کچھ حق کے سوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا اور ذکر ذکر کے نور سے معمور ہو جائے گا اور اس مقام و مرتبہ پر پہنچ کر ذکر تمام علائق و عوائلق سے منفرد ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے فانی ہو جاتا ہے اور حق کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے۔

ذکر یک ضربی بیک اثبات

سابقہ طریقہ کے مطابق لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کے کلمہ کو دو زانوؤں کے درمیان سے نکالے کلمہ کو دائیں کندھے کی پیٹھ پر پہنچا کر اِلَّا اللہ کی بائیں طرف ضرب لگائے پھر سر سے شروع کرے۔

ذکر دو ضربی بیک اثبات

دو ضربی ذکر کی سند میں اس جلسہ اور اس دور کو جو اوپر مذکور ہو چکا ہے، ثابت رکھنے کے علاوہ اس بات کا خیال کرنے کہ ایک ضرب اِلَّا اللہ کی، قاعدہ مذکورہ کے ساتھ، بائیں زانو کے سر پر کرے اور دوسری ضرب نیم ٹھہرا ہو کر مذکورہ صورت کے مطابق لگائے اس طرح دو اثبات اور دو پیالے اِلَّا اللہ کے ہو جائیں گے۔ ذکر کو ایک خاص وضع کے ساتھ سختی سے کرے تاکہ ذکر کی حرارت تمام جسم میں پہنچ جائے۔

ذکر سہ ضربی بہ سہ اثبات

سہ ضربی ذکر کی سند میں تین اثبات کی رعایت اور دور کو نگاہ رکھ کر ایک ضرب کو بائیں زانو پر اور ایک ضرب کو دائیں زانو پر اور ایک ضرب کو دونوں زانوؤں کے درمیان دل پر کلمہ

اَلَّا اللّٰه کہتا ہوا کرے پھر نئے سرے سے پکڑے گا۔ اور ذاکر ذکر کرتے وقت ایک حرارت اور لذت محسوس کرے گا۔

ذکر سہ ضربی بہ چہار اثبات

تین ضربی ذکر کی سند چار اثبات کے ساتھ مقررہ دور کی رعایت رکھ کر ایک ضرب بائیں زانو پر، ایک ضرب دائیں زانو پر اور ایک ضرب دونوں زانوؤں کے درمیان کر کے ذکر کرے اور ایک ضرب برابر ناف کے اَلَّا اللّٰه کہتا ہوا کرے۔

ذکر چہار ضربی بیک اثبات

جلسہ کے ایک اثبات کے ساتھ چہار ضربی ذکر کی سند میں مقررہ دور کو نگاہ رکھ کر کلمہ لا کو دو زانوؤں کے درمیان سے نکال کر اور ہمزہ اَلَّا اللّٰه کو مد کے ساتھ کھینچے اور بائیں کندھے سے گزار کر اپنے میں ضرب لگائے اور اَلَّا اللّٰه کی ہا سے اپنی پیٹھ کی جانب ضرب لگائے۔ اس صورت میں کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه کا چار جگہوں پر انصرام ہوگا اور ایک نفی اور ایک اثبات میں چار مرتبہ ثابت ہو جائے گا۔

اثبات کے ذکر کا طریقہ

اثبات کے ذکر کا طریقہ یعنی کلمہ اَلَّا اللّٰه ضربی کا جلسہ مقررہ کو نگاہ میں رکھ کر کرے۔ اَلَّا اللّٰه کی ایک ضرب دائیں طرف ایک ضرب بائیں طرف اور ایک ضرب دل پر۔

چار ضربی ذکر کا طریقہ

چار زانوؤں پر بیٹھ کر مذکورہ طریقہ کی رعایت رکھ کر کرے۔ اَلَّا اللّٰه کی ایک ضرب دائیں طرف، ایک ضرب بائیں طرف، ایک ضرب دل پر اور ایک ضرب سامنے کی طرف لگائے۔

پانچ ضربی و پانچ رکنی ذکر

پانچ ضربی و پانچ رکنی ذکر میں جلسہ مذکورہ کی رعایت رکھی جائے۔ اِلَّا اللہ کی ایک ضرب بائیں طرف، ایک ضرب دائیں طرف، ایک ضرب دل پر، ایک ضرب آگے اور ایک ضرب آسمان کی طرف کرے۔

اِلَّا اللہ کے ذکر کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ تشہد کے جلسہ کی طرح بیٹھے، بائیں پاؤں کو بچھائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے رکھے، ایک ضرب اِلَّا اللہ کی بائیں زانو پر اور دوسری ضرب دل پر لگائے پھر اس کے بعد دوزانوؤں پر کھڑا ہو کر ایک ضرب سینہ پر کرے اور ایک ضرب دل پر کرے پھر نئے سرے سے شروع کر کے اس کی تکمیل کرے۔

اِلَّا اللہ کے ذکر کا ایک اور طریقہ حالت ثنی میں ہے، پہلے قدم کے اٹھاتے وقت لَا اِلٰهَ كِهے اور دوسرا قدم رکھتے وقت اِلَّا اللہ کہے یا ہر قدم پر اِلَّا اللہ کہے۔

ذکر اسم ذات

يَا اللّٰهُ کے ذکر کی سند کے بارے ہمارے شیخ و آقا محی الدین ابی محمد عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

اسم اللہ الاعظم هو اللہ و انما يستجاب لك اذا قلت اللہ و ليس في قلبك غيره.

اسم اعظم وہی اللہ کا نام ہے جب تو اللہ کہے اور تیرے دل میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو تو تجھے جواب دیا جاتا ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اِلَّا اللّٰهُ کے ذکر کے بعد اسم ذات يَا اللّٰهُ کے ذکر میں مشغول ہو جائے

ذکر اسم ذات کا طریقہ

جب یا اللہ زبان پر کہے تو یا اللہ یا اَحَدُ یا اللہ یا صَمَدُ تصور کر کے بائیں طرف یا اللہ الصمد اور دائیں طرف یا اللہ احد اور دل پر یا اللہ کی ضرب کرے اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے اسمائے صفات میں سے ایک اسم اپنے مدعا و مقصد کے مطابق اسم ذات کے ساتھ ملا کر مشغول ہووے اور امید رکھے کہ میری حاجت پوری ہوگی، گناہگار اپنے گناہوں اور تقصیرات کی مغفرت کے لئے یا اللہ غَفُورٌ غَفَّارٌ میں مشغول ہو جائے اور مریض اپنے مرض کی شفا کے لئے یا اللہ شَافِیٌ اَنْتَ الشَّافِیُّ میں مشغول ہو، اور چاہئے کہ ندا کی ضرب دل سے نکال کر لفظ اللہ کو دل پر ضرب کرے۔

حقائق کے کشف کے لحاظ سے یا هُوَ کا ذکر مؤثر ہے ذات کی تجلی کے لئے اسم سے صرف الف اور لام کو گرا کر صرف هاء کی تین حرکتوں کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ دائیں طرف هاء کو زبر کے ساتھ، بائیں طرف هاء کو زیر کے ساتھ اور دل پر هاء کو پیش کے ساتھ کہے اور اگر بائیں طرف پیش کے ساتھ کہے اور دل پر زیر کے ساتھ تو اس میں اسے اختیار ہے۔

شغل آية الكرسي

باطن کے دروازوں کو کھولنے، مصیبتوں کو دور کرنے اور درازی عمر کے لئے لفظ اللہ کو دل پر ضرب کرے پھر کلمہ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ کو مذکورہ طریقہ کے مطابق ذکر کرے اور تحریک دے کر کلمہ اِلَّا هُوَ کو دل پر ضرب کرے، اس کے بعد الْحَيُّ کو دائیں جانب اور الْقَيُّومُ کو بائیں جانب ضرب کرے۔

کشف ارواح کے لئے شغل اسم یا احمد یا محمد ﷺ

شغل اسم یا احمد یا محمد یا رسول اللہ ﷺ۔ کشف ارواح کے لئے یا احمد یا محمد کے ذکر کے ساتھ دائیں طرف، یا محمد کے ذکر کے ساتھ بائیں جانب اور یا رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ دل پر ضرب کرے۔ اور کشف ارواح کے لئے یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ، ان چھ اسموں کے ذکر میں شش ضرب طریقہ کے ساتھ مشغول ہووے۔

شغل شیخ

ہزار بار یا شیخ یا شیخ کہے، حرف ندا کو دل سے نکال کر دائیں جانب لے جائے اور لفظ شیخ کو بائیں جانب لے جا کر دل پر ضرب کرے۔ مذکورہ بالا اسمائے ذات رسالت ﷺ کا اسم گرامی اور دوسرے تمام مشائخ کے اسماء کے ذکر کے وقت حرف ندا کو دل سے نکال کر مذکورہ طریقہ کے ساتھ ختم کرے۔

ذکر خفی

ذکر دل، ذکر خفی اور پاس انفاس کے طور طریقہ اور روش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ادعوا ربکم تضرعاً و خفیة انه لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی کی حالت میں پکارو بلاشبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے: ادعوه علانیا و خفیة یعنی اس کو ظاہر اور پوشیدہ میں پکارو کیونکہ تضرع، ضراعات سے ہے جس کا لغت میں معنی ہے: سخت

حاجت اور ضرورت کا اظہار کرنا اور خفیہ کا لفظ جہر اور سر کے درمیان مشترک ہے اور یہ اضداد میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان معتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے وقت مقفی و مسجع اور پر تکلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی و

ان ذکرنی فی ملاً ذکرته فی ملاً خیر منه . (۱)

﴿اذا كان يوم القيامة وجميع الخلائق بحسابهم وجاء الحفظه بما

حفظوا وكتبوا قال الله سبحانه وتعالى لهم انظروا واجعل له من شئ

فيقولون ربنا ما تركنا من شئ فيقولون يا ربنا ما تركنا شئاً علمناه وحفظناه

الا وقد احصينا ه وكتبنا فيقول الله تعالى ان لك عندى كنز الا يعلمه احد

وانا اجزيك به قال وهو الذكر الخفى وقال النبى ﷺ اذكر الله ذكرا

خاملا قيل وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفى وبفضل الذكر على

الذكر الذى يسمعه الحفظة تسعين درجة . ﴿(۲)

یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ میرے متعلق اس

کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے

(۱) بخاری کتاب التوحید، ترمذی باب حسن الظن باللہ، اور ابن ماجہ نے بیان کی معمولی اختلاف متن سے نقل کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ذیل والا متن یہاں کسی کے ساتھ نہیں ملا۔

(۲) مندرجہ بالا تو سین میں دی گئی عبارت حدیث قدسی کا حصہ ظاہر کی گئی ہے۔ اپنے مضمون کے اعتبار سے تو ممکن ہے مگر ہمیں یہ متن حدیث پاک کی کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا۔ واللہ اعلم بالصواب

تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں اور جب وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔

روزِ قیامت جب تمام مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا اور محافظ فرشتے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا اور لکھا ہوا حساب و کتاب لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس بندے کا حساب دوبارہ دیکھو کیونکہ میرے پاس اس کے لئے ایک چیز ہے۔ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ہمیں اس کے بارے جو کچھ معلوم ہوا ہم نے اسے شمار کر کے لکھ لیا اور محفوظ کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلاشبہ میرے پاس تیرے لئے ایک ایسا خزانہ ہے جس کا علم میرے سوا کسی اور کو نہیں اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔ فرمایا: اور وہ ذکر خفی ہے اور حضور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکرِ خفی کرو۔ عرض کی گئی: ذکرِ خفی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ذکر خفی ہے۔ ذکر کی فضیلت اس ذکر پر جس کو محافظ فرشتے سنتے ہیں نوے درجے زیادہ ہے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الذکر الخفی لا یعرفہ الملک لأن لا اطلاع له علیہ فہو سر بین الرب

و بین العبد.

ذکر خفی کو فرشتے نہیں پہچان سکتا ہے کیونکہ فرشتے کو اس پر اطلاع نہیں ہوتی اور وہ رب اور بندے کے درمیان راز ہے۔

ذکر باطن

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ظاہر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذکر خفی، ذکر جہر سے بہتر ہے لیکن اہل تحقیق کا یہ خیال ہے کہ ذکر خفی اور پاسِ انفاس، زبان کے ذکر کے ماسوا ہے کیونکہ

یہ سرکا ذکر ہے اور علم مجازی اور علم ظاہری سے باہر ذکر خفی کی معرفت حاصل ہوتی ہے مگر اس کا انحصار مشاہدہ، ذوق اور وجدان پر ہے۔

اے درویش جاننے کی بات ہے کہ محبوب حق شیخ محی الدین سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إذا قلت لا اله الا الله قل اولاً بقلبك ثم بلسانك و اتكل عليه دون غيره أما تستحيى أن تقول لا اله الا الله ونك الف معبود وغيره ، تب الى الله عزوجل في جميع ما انت فيه ، من كان ذا كراً لله عزوجل بقلبه فهو الذاكر . ومن لم يذكره بقلبه فليس بذاكر اذ ذكر الحق عزوجل اولاً بقلبك ثم بقلبك ثانياً اذ ذكره بقلبك الف مرة . وبلسانك مرة ثم ذكر اللسان بلا قلب لا كرامة لك ولا غرارة لك الذكر هو ذكر القلب والسر ثم ذكر اللسان حتى ذكرته بلسانك فانت تائب . فاذا ذكرته بقلبك فانت سالک حتى ذكرته بسرک فانت محب فاذا سمعت ذكره فانت محبوب فاذا ذكر الله بسرک فانت عارف.“

(جب تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے تو پہلے اپنے دل میں کہہ اور پھر اپنی زبان کے ساتھ کہہ اور اس کے غیر کو چھوڑ کر صرف اسی پر توکل کر کیا تجھے اس بات سے شرم و حیا نہیں آتی کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ کے سوا تیرے ہزاروں معبود ہیں۔ اللہ غالب و بزرگ کی طرف توبہ و رجوع کر، اور ان تمام چیزوں سے توبہ کر لے جن میں تو مبتلا ہے جو شخص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقت میں وہی ذکر ہے اور جو دل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ ذکر ہی نہیں پہلے تو حق تعالیٰ کا ذکر اپنے دل کے ساتھ کر اور پھر بدن کے ساتھ، اپنے دل کے

ساتھ اللہ کا ذکر ہزار دفعہ کر اور اپنی زبان کے ساتھ ایک دفعہ پھر بغیر دل کے تیری زبان کا ذکر کرنا نہ تو کرامت ہوگی اور نہ باعث غرور و تکبر، ذکر تو صرف ذکر قلب اور ذکر سر ہے، پھر جب تو نے اپنی زبان کے ساتھ ذکر حق کیا تو تو تائب ہوگا۔ اگر دل کے ساتھ ذکر کرے گا تو پھر تو سالک ہے، اگر سر کے ساتھ ذکر کرے گا تو پھر تو محبت ہے، اگر تو اس کا ذکر سنے گا تو پھر تو محبوب ہے اور اگر تیرے سر کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا تو پس تو عارف ہے۔)

ہر وقت تصور شیخ میں رہنا

جاننا چاہئے کہ اس راستے پر چلنے کی جملہ شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے پیرو مرشد کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کر کے اپنے دل کو اس سے مربوط کرے، بالخصوص وقت شغل جو مشکل بھی پیش آئے گی تو شیخ کی متمثلہ صورت اس کا سدباب کر دے گی، اپنے پیرو مرشد کا تصور کر کے حال عرض کرے تو شیخ کا دل اس مشکل کو کھولنے میں مدد کرے گا اور حقیقت کھل جائے گی، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے فیض کی امداد دل پر ہوتی رہے گی اور امید واثق ہے کہ جو بھی مشکل راستے میں ہوگی، پیرو مرشد کی ولایت اس کو دور کرنے میں مدد دے گی۔ اور اگر یہ واسطہ اور رابطہ مضبوط و مستحکم نہ ہو تو شیطان راستہ پالیتا ہے اور ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب نبی کریم ﷺ کے طفیل شیطان کی گمراہی اور اس کے لشکروں سے بچائے! آمین

تصور شیخ اور ذکر اسم ذات کا طریقہ

جب سالک اپنے پیرو مرشد سے مذکورہ اسمائے صفات کی اجازت حاصل کرے تو اسے چاہئے کہ طہارت اکبر یعنی غسل یا طہارت اصغر یعنی وضو کرنے کے بعد خالی، پاکیزہ اور اندھیری جگہ میں مربع بنا کر بیٹھ جائے اور ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کوناف

کے نیچے سے مد کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات کے معنی کو اپنے تصور میں ملاحظہ کرے سانس کے عروج و صعود کی رعایت کرے اور اس طریقہ میں مشغول ہو جائے۔

اللَّهُ سَمِيعٌ اللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ قَدِيرٌ

پھر آخری اسم سے اول اسم کی طرف عروج کرے اللہ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ بَصِيرٌ اللَّهُ سَمِيعٌ پھر پہلے اسم سے آخری اسم کی طرف عروج کرے۔ اسی طریقہ پر ذکر میں مشغول رہے جب ذکر، ذاکر کا ملکہ ہو جائے اور دل میں پختہ ہو جائے تو پھر دوسرے طریقہ پر مشغول ہو اور وہ اس طرح ہے:

اس طریقہ میں بھی رعایت عروج و صعود نفس اور پیر و مرشد کے ساتھ دل کا رابطہ اور دوسرے آداب شرط ہیں بلکہ پیر کے رابطے اور واسطے کا خیال اور چشم تصور کو اس صورت پر مقرر کر دینا ہی اس راستہ کے کام کی اصل ہے۔ پیر و مرشد کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی مورث اور موصل ہے۔

اللَّهُ حَاضِرِي اللَّهُ نَاصِرِي اللَّهُ شَاهِدِي اللَّهُ مَعِي

پھر نئے سرے سے آخری اسم سے پہلے اسم کی طرف عروج کرے اور اس طریقہ پر مداومت کرے۔

دیگر طریقے

بڑی بڑی صفات کا ملاحظہ، رابطہ و واسطہ کا خیال اور سانس کے عروج و صعود کی رعایت رکھ کر لفظ اللہ کو ناف سے مکمل قوت کے ساتھ نکال کر اس طریقہ میں مشغول ہو جائے:

سَمِيعٌ بَصِيرٌ عَلِيمٌ دَائِمٌ قَائِمٌ حَاضِرٌ نَاطِرٌ شَاهِدٌ

پھر آخری اسم سے پہلے اسم کی طرف لوٹ آئے۔

مذکورہ شغل پر مداومت کرنے اور تمام شرائط کی رعایت رکھنے کے بعد اس طریقہ میں مشغول ہو جائے:

اللَّهُ دَائِمٌ اللَّهُ قَائِمٌ اللَّهُ مُحِيطٌ پھر آخری اسم سے پہلے اسم کی طرف لوٹ آئے اور اوقات کی رعایت ہاتھ سے نہ چھوڑے بالخصوص سحری کے وقت کا خیال رکھے اور صبح کی نماز گزارنے کے بعد اور رات کے وقت نائے کئے بغیر مذکورہ بالا اذکار میں مشغول ہو جائے اور باقی پاس انفاس کے ذکر سے غفلت و سستی نہ کرے اور پاس انفاس کا ذکر نفی و اثبات سے مرکب ہے۔



تیسری فصل

مراقبہ کے بیان میں

اعمال کی اقسام

معلوم ہونا چاہئے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری جیسے نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر جہر وغیرہ اور دوسری باطنی جیسے محاضرہ (تصور کی مدد سے کسی کو سامنے لانا)، مراقبہ اور محاسبہ وغیرہ۔ ان اعمال کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اعمال ظاہری اور باطنی کے درمیان جمع کرے، نماز کو سب سے مقدم کرے اس کے بعد تلاوت اور اس کے بعد ذکر اور مراقبہ۔ جو اس سلسلہ کے اولیاء کبار اور اکابرین کا ملین کا طریقہ رہا ہے۔ اگر معذوری اور کمزوری ہو تو اعمال باطنی یعنی مراقبہ، محاضرہ اور محاسبہ وغیرہ کو چھوڑ کر اعمال ظاہری پر اکتفا کرے۔ اسی طرح ظاہری گناہوں اور برے کاموں سے پرہیز کرے اور شرم و حیاء اختیار کرے باطن میں مذمومہ خطرات سے پرہیز کرے اور اپنی تمام ظاہری حرکات و سکنات اور باطنی خطرات و نیات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو رقیب و نگہبان اور مطلع خیال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں:

فاعلم أنه لا اله الا هو . هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل

شیء علیم . (سورۃ محمد: ۱۹، سورۃ الحدید: ۳)

جان لیجئے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی

باطن ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ أَنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (۱)

”اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو

یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

مراقبہ اول: خلوت و جلوت میں ماسواء اللہ سے انقطاع

محبوب حق شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اپنے رب کا خلوت و جلوت میں مراقبہ کرو،

اپنی آنکھوں کو اس طرح کھڑا رکھو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ

یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اے بندے! تو کہاں ہے اور وہ لوگ جو اللہ غالب و بزرگ تر

کی بارگاہ میں باطنی مراقبہ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ظاہر میں مراقبہ کرتے ہیں اگر تو فلاح و

کامیابی چاہتا ہے تو اس کے سامنے تجھ پر سکون لازم ہے۔ ظاہری سکون ہو حرکات سے اور

باطنی سکون ہو خطرات سے، یقیناً ظاہر، باطن کا عنوان ہے۔ اگر تو اس کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا

ہے تو تجھ پر سکون لازم ہے۔ تحقیق تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے ظاہر کی حفاظت

کرتے ہیں اور اللہ غالب و بزرگ تر تمہارے باطن کی حفاظت کرتا ہے۔ تمام دائرہ اس کے

حق پر ہے وہ تجھے دنیا و آخرت میں نہ چھوڑے گا اور دل کے اعمال کا لحظہ، ظاہر کے اعمال سے

یقیناً ہزار دفعہ بہتر ہے۔ ہر وہ چیز جو تجھے ذکر الہی سے منحرف کرتی ہے تیرے لئے سنگی تلوار

ہے۔ اور روزہ، فرض نماز اور سنت کے ادا کرنے کے بعد اللہ غالب و بزرگ تر کی بارگاہ میں

(۱) (بخاری و مسلم، کتاب الایمان)

مراقبہ کرنا تجھ پر لازم ہے اور تیرا نفس اس چیز کے مطابق ہونا چاہئے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اگر دین اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے تو جلوت اور خلوت میں اللہ کے علم کا مراقبہ کر۔ صرف جلوت میں مراقبہ منافقین کے لئے ہے اور خلوت و جلوت دونوں میں مراقبہ دوسروں کے لئے ہے۔ اے اللہ غالب و برتر کو پکارنے والے.....! اور آنسو بہانے والے.....!، اس کی قدرت پر غور و فکر کر اور اپنے دل کو پاک کر کیونکہ وہ اللہ کا مسکن ہے۔ تم اللہ بزرگ و برتر سے سنو اور ماسواء کو بھول کر اپنے دلوں کے ساتھ اسے دیکھو۔ اس کے دروازے پر توحید، اخلاص اور صدق و صفا کے ساتھ بیٹھ کر اسے پکارو تو وہ غیر کے سوا صرف تمہارے لئے کھولے گا، اپنے دل کو کسی غیر کے ساتھ مشغول نہ کر۔ اے غلام.....! مخلوق کی طرف فنا کی آنکھ سے دیکھ بغیر اس کے کہ تو ان کی طرف انکساری و عاجزی سے بھرپور آنکھ سے دیکھے۔ تحقیق تمام چیزوں کا وجود اس کے حرکت دینے اور اس کے تسکین دینے سے ہے، دروازے سے قرب کو طلب کر، تجھ پر ہر چیز میں نگہبان موجود اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہر ایک چیز سے ہر ایک چیز کی طرف زیادہ قریب ہے۔

مراقبہ دوم: مشاہدہ حق

جان لیجئے کہ دوام مراقبہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والا ہونا، نیستی، فنا اور نسیان کی حالت میں ہونا اور ماسوی الحق سے سر کو کھینچ لینا۔ مراقبہ مخالفت نفس، جزم و یقین اور دوام محاسبہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، محاسبہ سے مراد ہے کہ ہر وقت اپنے اعمال سے خالی و ناامید ہونا، اپنی کوتاہی و کمی کا ملاحظہ کرنا، اپنے حال سے واقف ہونا۔ (جو یا تو شکر کا سبب ہے یا عذر کا سبب ہے) اور اپنے آپ کو ریا اور عجب اور خود پسندی سے دور کرنا کیونکہ ریا اور عجب تکبر کی چھوٹی سی آستین ہے اور تو نہیں جانتا کہ دوزخ کا پہاڑ یہی ہے۔

خاطر دل جمع رکھ آج کا دوست کل تک نہ رہے گا تپ اور سوز میں کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ کسی لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جب بھی ہو سکے اللہ کی یاد سے نور حاصل کر، کیونکہ ہر وقت تجھے حضوری نصیب نہیں ہوگی۔ حضوری جب بھی تیرا ساتھ دے تو تو لائق بارگاہ ہو جا جہاں سے تو نور و روشنی حاصل کرے گا۔

چاہئے کہ اس شغل کو اپنائے اور اپنے گناہوں کو ملاحظہ کرے اور حس نفس کی رعایت رکھ کر تمام شرائط کو جو اس سے قبل لکھی جا چکی ہیں تمام اوقات میں اور تمام حرکات و سکنات میں اپنے اوپر لازم رکھے۔

يَا عَالِمُ بِي يَا قَرِيبُ مِنِّي يَا شَاهِدُ عَلَيَّ

اے درویش حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ظاہر میں، باطن میں، تمام وقت میں اور ہر حال میں دیکھنے، والا ہے وہ اس خسارہ کی جگہ کا دیکھنے والا ہے جو دوسروں سے تعلقات جوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رضا کا طریقہ اختیار کر۔ تمام دوسروں سے دل کو اٹھالے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دل کو باندھ۔ دوسرے تمام لوگوں سے تعلق توڑ دے۔ صرف حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ، تمام چیزوں میں جو جمال اور کمال ظاہر ہے یہ سب اسی کے جمال اور کمال کے پر تو سے ہے لہذا جو دانا ہے وہ اسی کی دانائی کے اثر سے ہے اور جس جگہ بینائی ہے وہ اسی کی بینائی کا ثمرہ ہے۔

لہذا اے دوست.....! تو کوشش کر۔ اپنے آپ کو آپ ہی ڈھانپ لے اور اس کام کی طرف متوجہ ہو جو تجھے حقیقت کی طرف مشغول کرے اور اپنے آپ سے تجھے چھڑا دے۔ اس شغل کو اس قدر دوام اور مواظبت کے ساتھ کر کہ یہ تیری جان کے ساتھ مل جائے۔ اور تیری ہستی سے ایک نور اٹھے اور یہ معنی عین ذکر ہے بلکہ اس کی حقیقت ہے۔



چوتھی فصل

﴿﴾ محبت اور چند صورتی و معنوی آداب کے بیان میں ﴿﴾

حدیث شریف میں ہے کہ ایک اعرابی مدینہ شریف میں آیا عرض کی یا رسول اللہ ﴿﴾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿﴾ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرا گھر مدینہ شریف سے دور ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو حضور نبی اکرم ﴿﴾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿﴾ نے فرمایا:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

”آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“

یعنی اگر چہ ذات اور شخص دور ہے لیکن محبت کے لحاظ سے ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ ہے۔ اے درویش! نبی اکرم ﴿﴾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿﴾ کی محبت میں جلنے والے اس حدیث کی رو سے آپ ﴿﴾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿﴾ آج بھی زندہ ہیں جس شخص نے بھی اس جگہ دوستی پالی اس نے انوار و تجلیات سے روشنی پالی اور جو بندہ بھی آپ کی محبت میں رہے وہ ابد تک زندہ ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔

لَا بُعْدَ مَعَ الْمَحَبَّةِ

”محبت کے ساتھ دوری نہیں ہے۔“

ادب کیا ہے؟

معلوم ہونا چاہئے کہ لفظ ادب چند منتخب اقوال سے عبارت ہے اور افعال تہذیب دو قسم

کے ہوتے ہیں۔ ایک افعال قلوب ہیں ان کو نیات اور اخلاق بھی کہتے ہیں۔ دوسرے افعال قوالب ہیں جن کو اعمال بھی کہتے ہیں۔ اخلاق و نیات، باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور قوالب اور اقوال ظاہر نیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا درست اور صحیح مرد وہ ہے جس کی نیت ظاہر و باطن اور قول و فعل میں حسن اخلاق سے آراستہ ہو۔ اس کا اخلاق اس کے قول کے مطابق ہو اور اس کی نیت اس کے عمل کے موافق ہو، اپنی شخصیت کا اظہار اسی طرح کرے جس طرح حقیقت میں ہے اور اگر بیان حالی، مقالی یا خلقی میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصف نہ پائے تو اسے سوء ادب خیال کر کے اس کے تدارک کی کوشش کرے کیونکہ تمام اعمال کی اصل تہذیب اخلاق ہی ہے۔

بے ادب قابل نفرت

محبوب حق، محی الدینؒ کہتے ہیں: خبردار اے درویش.....! ہر وہ شخص جس کے پاس ادب نہیں وہ خالق اور مخلوق کے ہاں قابل نفرت ہے اور ہر وقت جس میں ادب کا لحاظ نہیں وہ ہمیشہ کے لئے حقیر اور قابل نفرت ہے اور اللہ تعالیٰ حسن ادب والے کے ساتھ ہے۔ لہذا تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ حفظ آداب محبت کا ثمرہ ہے اور یہی محبت کا بیج بھی ہے۔ جتنی محبت کمال پر ہوگی حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی رعایت کا اہتمام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں محبت زیادہ پختہ اور راسخ ہوگی وہ حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا اہتمام زیادہ کرے گا کیونکہ ایمان والوں کے نزدیک دار معرفت واضح ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں اور بارگاہ ربوبیت تک رسائی کا وسیلہ ہیں۔ لہذا محبت الہی اور محبت رسالتآب ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم و ملزوم ہیں اور جس جگہ محبت الہی کمال پر ہوگی وہاں حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی رعایت

لازم ہوگی لہذا اہل ایمان کے لئے عموماً اور اہل کشف و عرفان کے لئے خصوصاً رسالت پناہ کے آداب کی رعایت لازم اور واجب ہے۔

بخدا خدا کا یہی ہے در

آنحضور ﷺ اگرچہ بصورت جسمانی، ظاہر بین نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں لیکن صفت روحانیت میں اہل بصیرت کے ہاں مکشوف اور ظاہر و عیاں ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کی شریعت کی صورت، روحانیت کا قالب اور سانچہ ہے۔ اور تمام روحوں اور نفوس کو آپ کی امداد متواتر و مسلسل پہنچ رہی ہے اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ج

(الانفال، ۸: ۲۴)

”اے ایمان والو! جب (بھی) رسول (ﷺ) تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں (جاودانی) زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول (ﷺ) کو فرمانبرداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے (فوراً) حاضر ہو جایا کرو۔“

اس وجہ سے حیات کو مسلسل فیض حاصل ہو رہا ہے، اس آیت سے واضح ہے کہ بارگاہ رسالت، دراصل بارگاہ ربوبیت ہی ہے کیونکہ اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول ﷺ کی بارگاہ میں جب تمہیں رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں، یعنی جس نے رسول اکرم ﷺ کے بلائے پر بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو گویا اس نے بارگاہ ربوبیت میں حاضری دی اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کی بارگاہ کو اپنی بارگاہ قرار دے دیا۔ محبت کے رابطہ کا پختہ ہونے اور تمام آداب و شرائط کا خیال رکھنے کے بعد اس

ذات اقدس کا مراقبہ کے ذریعے ملاحظہ کرے اور ظاہر و باطن میں آپ ﷺ کو اپنے اوپر مطلع اور حاضر خیال کرے تاکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے تصور کا مطالعہ ہمیشہ کے لئے حفظ آداب کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ اس کے بارے غوث اعظم ﷺ نے فرمایا:

آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آپ کتاب و سنت کو ہمارے لئے چھوڑ گئے تو آپ ﷺ پر داخل ہو۔ تیرا ہاتھ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ آپ کو اپنا وزیر اور اپنا استاد بنا، اپنا ہاتھ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھوڑ تجھے زینت ملے گی، سنگھار کیا جائے گا۔ آپ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ مریدوں کی روحوں کے درمیان حاکم ہیں، صالحین کے امیر ہیں۔ ان کے درمیان احوال اور مقامات کی تقسیم کرنے والے ہیں کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اور آپ کو کل کائنات کا امیر بنایا ہے۔

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”اے میری قوم توجہ کرو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دو اور اگر تمہیں کوئی مرض لاحق ہو تو اسی دوا کو استعمال کرو جو تمہارے لئے بیان کی گئی ہے۔“

اگر ان تمام آداب اور صدق توجہ کا خیال رکھے تو اتنی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے گی کہ بندہ پر معافی کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ اس محبت و محبوب ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مخالفت سے شرم کرنی چاہئے اور آداب صحبت کے بجالانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ ہو۔ اس بات کی تصدیق غوث اعظم کے اس قول سے ہوتی ہے کہ:

واسطہ نبوت کو چھوڑنے والا مردود ہے

شریعت محمدیہ، ملت اسلامیہ کے وجود کے درخت کا پھل ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے

جس نے اپنے نور سے کائنات کی ظلمتوں کو روشن کر دیا ہے۔ اتباع شریعت، سعادت دارین عطا کرتی ہے، لہذا اس بات سے خوف رکھ کہ تو شریعت کے دائرے سے نکلے اور اجماع امت سے جدائی حاصل کرے، اور دل میں کبھی خیال تک نہ آئے کہ کسی سالک کو جو کمال منزلت اور علوم مرتبت حاصل ہوا ہے وہ اس کا اپنا کمال تھا، بلکہ یہ سب کچھ تو حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، اور یہی عظیم ادب ہے، اگر کسی ولی کو ولایت کی تکمیل حاصل ہے تو بھی سرکار دو جہاں ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے نور سے ہے۔ کوئی صاحب وصال حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد سے مستغنی ہو کر مقام وصل پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ کمالیت اور علویت کا جو بھی مرتبہ ہے وہ سب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتناء کی روح اور نفس مقدسہ و مطہرہ کے تقسیم کئے ہوئے فیض سے ہے۔ اور حضور نبی اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر کوئی شخص بھی امداد الہی سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا شخص جس کے دل میں اس واسطے سے استغنا اور استقلال پیدا ہو وہ مردود اور دھتکارا ہوا ہے۔

نعوذ باللہ من الحور بعد الکور

ہم ہلاکت اور کمی و نقصان سے اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں۔

سنت نبوی ﷺ کی پیروی

کمال اعتقاد کے بعد دوسری چیز حضور نبی اکرم ﷺ کے طریقہ اور سنت کی متابعت ہے حضور نبی اکرم ﷺ کی متابعت میں انتہائی جدوجہد کر اور اہمال و غفلت کو کسی صورت جائز نہ رکھ۔ اس بات کا مصداق بھی حضرت غوث اعظم کا یہ فرمان ہے:

شریعت کی خدمت کا خائف طریق الی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور طریق الی اللہ کا مطلب عبودیت کے قانون کو لازم جاننا، شریعت اسلامیہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور تقویٰ

کے راستہ میں استقامت اختیار کرنا ہے۔ اے غلام!! تجھ پر لازم ہے کہ شریعت کے متعلق جدوجہد کر اور نفس کی مخالفت کر، اگر تو مرید کامل ہے تو تمام قسموں کو شریعت کے ساتھ مضبوط پکڑ۔

تمام سلاسل کے مشائخ کا ادب

دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صوری و معنوی نسبت رکھتا ہے اسے تمام سادات، علماء اور مشائخ طریقت کو حضور نبی اکرم ﷺ کی محبت کی وجہ سے دوست رکھنا چاہئے۔

توحید و سنت کا تلازم

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام حالات میں، خواہ اعتقادات ہوں یا اقوال اور افعال، حضور اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ مقارن رکھ، آنحضرت کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ خیال کر کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی واحد ذات پر ایمان لائے لیکن حضور نبی اکرم ﷺ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو ایسا ایمان درست اور مقبول نہیں ہے، جو کچھ صرف فرائض کو ادا کرتا ہے اور آنحضور ﷺ کی سنتوں کو ترک کر دیتا ہے تو وہ وصل کی راہ پر چلنے والا نہیں ہے بلکہ آنحضرت ﷺ کی تعظیم اور اطاعت کو، عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تعظیم خیال کر اس طرح مشکوٰۃ نبوت اور قرب الہی کے انوار کی تجھ پر بارش ہوگی۔ ہر حال میں آنحضور ﷺ کے جلال اور جاہ و حشمت کو ملحوظ رکھ اور ظاہری شریعت کے دائرہ سے قدم باہر نہ رکھ۔ اس بحث کے متعلق بھی حضرت غوث اعظم کا یہ فرمان ہے۔

شریعت و طریقت کا باہمی تلازم

”بچا تو اپنے آپ کو اس بات سے کہ تو شریعت کے دائرے سے نکلے اور آپ ﷺ کے

اہل سے جدا ہو۔ حدود شرع کا لحاظ رکھنا تجھ پر لازم ہے۔“

شریعت اعظم والوں کے دلوں میں عجیب حکمتیں ہیں۔ ناموس اکبر کے اسرار میں خزانے اور غیب کے جواہر ہیں اس کے امر کی قبولیت کو اپنا طریقہ بنا۔ اے لوگو!..... ظاہر شریعت پر عمل کرو۔ کتاب و سنت پر چلو۔ یہاں تک کہ ظاہری اعمال باطنی اعمال پر ابھاریں جب تو ظاہر پر عمل کرے گا تو باطن کی سمجھ پیدا ہوگی پہلے سمجھنے والا تیرا باطن ہوگا۔ پھر تیرا قلب نفس کو بتائے گا اور نفس زبان کو اور زبان مخلوق کو سنائے گی اور لوگوں تک ان مضامین کا پہنچانا ان کے نفع اور بھلے کے لئے ہوگا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ مرتبہ محبت میں تمام آداب کا لحاظ رکھا جائے، بارگاہ میں حاضری ہو تو نہایت تمکنت کا مظاہرہ ہو۔ آداب سخن کا لحاظ ہو۔ ظاہری شریعت کے حقوق کے تمام آداب کی رعایت رکھی جائے، تمام آثار و اخبار کو فراموش نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ تیرا شمار نافرمانوں اور روگردانی کرنے والوں میں ہو جائے۔

اللهم صل علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین.



پانچویں فصل

شیخ سے مرید کے آداب کے بارے میں

معلوم ہونا چاہئے کہ صحبت شیخ کے آداب مرید کیلئے لازم اور واجب ہونے چاہیے۔ کیونکہ آداب کی رعایت کرنا دلوں کے کھینچنے اور مائل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اور روح کے مشاہدات کا جمال اور عقل کا کمال سوائے محاسن آداب کے کہ جو تہذیب اخلاق سے عبارت ہے، حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ جب مرید اپنے شیخ کی صحبت میں مؤدب ہوگا تو شیخ کے دل میں بھی اپنے مرید کے لئے محبت پیدا ہوگی اور منظور رحمت الہی ہوگا، شیخ کا دل برکات اور رحمت الہی کے نزول کا مقام ہے، جب اس دل میں مرید کے لئے محبت پیدا ہوگی تو علی سبیل التواتر اور علی سبیل التعاقب اس دل سے جاری ہونے والا لامتناہی فیض مرید کو بھی حاصل ہوگا۔ شیخ کا مرید کو قبول کر لینا، حق سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت رسول مقبول ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت پر صریح دلیل ہے اور یہ قبولیت اس بات کی صحیح علامت ہے کہ شیخ جس سلسلہ طریقت سے نسبت رکھتا ہے، مرید کو اس سلسلہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ چونکہ شیخ کی تربیت کے حقوق کا بدلہ حسن ادب کی رعایت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے شیخ (جو مرید کا روحانی باپ ہوتا ہے) کی تعظیم و توقیر اور اس کے آداب کا خیال رکھنا گویا اس کے حقوق میں سے ایک حق کا ادا کرنا ہے اور اس کے حقوق سے غفلت اور سرکشی کرنا عین تقصیر اور نافرمانی ہے۔ حدیث شریعت میں ہے:

من لم يؤقر كبيرنا و لم يرحم صغيرنا فليس منا.

جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھایا وہ ہم میں سے نہیں۔

علماء حضرات جانتے ہیں کہ شیخ کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے قرب کے اسباب میں سے ہے۔ جس نے شیخ کے حقوق ادا نہ کئے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہا اور من ضیع رب الأدنی لم یصل الرب الاعلی جس نے رب ادنی کے حقوق کو ضائع کیا وہ رب اعلیٰ تک نہ پہنچا۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تیرا باطن حق کے نزدیک ظاہر ہے اور جب تیرا ہاتھ اس کے خاص بندوں میں سے کسی کے ہاتھ میں آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور عاجزی اختیار کر کیونکہ اذا تواضعت للصالحین تو تواضعت للہ جب تو نے نیک بندوں کے لئے عاجزی وانکساری کی تو، تو نے اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کی اور من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالیٰ جس نے اللہ کے لئے عاجزی کی اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔

اولین ادب : شیخ و مرہبی پر کامل اعتقاد

شیخ کے ساتھ مرید کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے شیخ کی تربیت و ارشاد اور تہذیب اخلاق پر اعتقاد رکھے۔ اگر کسی اور کو اپنے شیخ سے بھی کامل خیال کرے گا تو اس کی محبت و الفت سست پڑ جائے گی اور شیخ کے اقوال و احوال کا حقہ مرید پر اثر انگیز نہ ہوں گے کیونکہ مرید میں شیخ کے اقوال و احوال کے سرایت کرنے کا واسطہ مرید کی محبت ہی ہے۔ شیخ سے جتنی محبت کمال پر ہوگی شیخ کی تربیت کے لئے مرید میں اسی قدر زیادہ استعداد ہوگی، اس کا مصداق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے:

یا غلام اجعلنی مرآة قلبک و سرک و مرآة اعمالک اجیبونی فانی
داعی اللہ عزوجل ادعوکم الی بابہ و طاعته و لا ادعوکم الی نفسی .

میرے عزیز! مجھے اپنے دل اپنے راز اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا۔ میرا کہنا مانو! بلاشبہ میں
تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے والا ہوں۔ میں تو تمہیں اس کے دروازے اور اس کی اطاعت کی
طرف بلاتا ہوں اپنے نفس کی طرف ہرگز نہیں بلاتا۔

دوسرا ادب: بارگاہ شیخ کی حاضری

دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کی ملازمت ہمیشہ برقرار رکھے، اپنے ذہن میں اس تصور کو
جاگزیں کر لے کہ میرے دل کا دروازہ شیخ کی ملازمت اور خدمت سے ہی کھلے گا اور کمر ہمت
باندھ کر دل میں یہی خیال رکھے کہ یا تو اپنے مطلوب کی خواہش کے ساتھ اپنی جان شیخ کے
سپردہ کر دوں گا یا اپنے مقصود کو پہنچ جاؤں گا۔ اپنے شیخ کے قول اور قبول سے کسی وقت نہ پھرے
کیونکہ مشائخ اپنے مریدوں کے احوال کے جانچنے کے لئے مختلف امتحانات لیتے ہیں۔ اس
بارے میں حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں:

اثبتوا علی خبثونة کلامی وقد افلحتم یا غلام اسمع هذا الکلام
وتفحص فی صومعتک مع نفسک و هواک یا غلام سافر الف عام تسمع
منی کلمة یا غلام الولاية ههنا والدرجات ههنا وفي مجلسی تخلع الخلع .
میری تلخ کلامی پر تم ثابت قدم رہو اور تحقیق تم فلاح پا جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے تو اس
کلام کو سن اور اپنی خانقاہ میں اپنے نفس اور اپنی خواہش کے ساتھ جستجو کر۔ اے میرے بیٹے تو
ہزار سال سفر کر تو مجھ سے ایک کلمہ سنے گا۔ اے میرے بیٹے ولایت یہاں ہے۔ درجات و
مراتب یہاں ہیں۔

تیسرا ادب: شیخ کو اپنے مال میں متصرف سمجھے

تیسری چیز مرید کا اپنے شیخ کے تصرف کو تسلیم کرنا ہے شیخ کو اپنے تمام مال اور نفس میں متصرف سمجھے، شیخ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لے اور جو کچھ وہ فرمائے اس سے راضی ہو۔ جیسا کہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کن ابدامع الدلیل الی أن یوصلک الی المنزل لا تخرج عن رأیتہ ولا تخالفہ فإنک تصل الی مقصودک.

ہمیشہ راہنما کے ساتھ رہ تا کہ وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ اس کے جھنڈے کے سایے سے مت نکل اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کر۔ بے شک تو اپنے مقصود و مطلوب تک پہنچ جائے گا۔

چوتھا ادب: شیخ پر اعتراض نہ کرے

چوتھا ادب ظاہری و باطنی اعتراض کو ترک کرنا ہے، شیخ کے تصرفات پر اعتراض کو جگہ نہ دے۔ جب کبھی شیخ کے اقوال اور احوال کے سمجھنے میں مشکل پیش آئے اور ان کے صحیح اور درست ہونے کے بارے کچھ معلوم نہ ہو تو اس وقت بھی اپنے فہم کے تصور اور اپنے علم کی قلت کا خیال کرے اور شیخ کے تصرف کو فاسد نہ سمجھے۔ اس بارے میں محبوب حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اگر تو اپنے شیخ پر تہمت لگائے تو پھر اس کی صحبت اختیار نہ کر کیونکہ اب تیرے لئے اس کی صحبت بہتر نہیں اس طرح کہ ایسے مریض کو دوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جس کا اپنے طبیب کی بات پر یقین نہ ہو۔ حال یا مقال یا افعال میں شیخ پر تہمت لگانے کے بعد تیرا اس کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسا کہ سانپوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اپنے شیخ کے فقر، نقصان، نسیان، اختلاف حال، قصور عبادت اور خوشی و طرب کی طرف نہ دیکھ کیونکہ جو اس کے باطن میں ہے وہ

اس کے ظاہر میں نہیں تو اس کے فائدہ کا انتظار کر۔“

پانچواں ادب: خواہش نفس کو ترک کرنا

پانچویں بات شیخ کے اختیارات اور تصرفات میں مرید کے اختیار کا سبب ہے۔ خواہ امور دینی ہوں یا دنیوی۔ کھانے، پینے، سونے، بیدار ہونے اور لین دین کے اعمال ہوں یا عبادات کی اقسام نماز روزہ، افطار، نوافل، ذکر، تلاوت اور مراقبہ کے اعمال ہوں۔ یہ تمام امور و معاملات اور اعمال اپنے شیخ کی اجازت اور تعین کے بغیر نہ کرے اس بارے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

”اس کی حد کو نہ پھلانگ اپنے رہنما کا غلام ہو جا۔ اس کی اتباع کر اپنے کجاوے کو اس کے سامنے چھوڑ دے۔ جلدی جلدی کبھی اپنے رہنما کے دائیں و بائیں جانب آ اور کبھی آگے اور پیچھے کی طرف اس کی رائے کا انکار نہ کر، اس کے حکم کی مخالفت نہ کر، تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اے بیٹے! نفس اور اس کی خواہشات کو چھوڑ دے اور ان لوگوں کے قدموں کی خاک ہو جا۔“

چھٹا ادب: شیخ کے حسن خلق پر اعتقاد

چھٹا ادب شیخ کے خطرات و خیالات کی رعایت کرنا ہے، اپنے شیخ کے حسن خلق، حلم و بردباری اور عفو و درگزر پر اعتقاد کے باعث ایسے امور اور باتوں کو معمولی اور حقیر شمار نہ کر، جو شیخ کے لئے ناپسندیدگی اور کراہت کا باعث ہوں، کیونکہ دل میں گزرنے والے خیالات خواہ وہ ناپسندیدگی کے ہوں یا خوشی و رضا کے، مریدین کے نفوس میں مکمل اثر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”تمہاری تکذیب تمہاری ولایت کے لئے زہر قاتل ہے اور تمہاری دنیا و آخرت کو تباہ کرنے کا سبب ہے۔“

ساتواں ادب: شیخ کی رائے سے اختلاف نہ کرے

ساتواں ادب کشف اور دقائق میں شیخ کے علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ واقعات کا کشف خواہ خواب میں ہو یا بیداری میں ہو اس بارے میں مستقل طور پر نصیحت پر یقین نہ کر، بلکہ اس کو شیخ کے علم کے سپرد کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کا منشاء کوئی ایسا ارادہ ہو جو مرید کے دل میں پوشیدہ ہو اور اسے اس بارے میں کچھ علم نہ ہو اور اسے سچا جان لے اور اس طرح ایک خلا پیدا ہو جائے لہذا اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کر، اور شیخ اپنے علم و یقین کی وسعت کے مطابق جو حکم فرمائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر۔ اس بارے میں محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے شیخ کی رائے سے نہ نکل اور اس کے قول کی مخالفت نہ کر، جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہاتھ پر کھولے اسے قبول کر۔“

آٹھواں ادب: شیخ کی بات کو انتہائی توجہ سے سنے

آٹھواں ادب صفائے سماعت ہے۔ مرید کے کان ہمیشہ شیخ کے کلام کی طرف متوجہ رہیں اور وہ اس انتظار میں ہو کہ شیخ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوتے ہیں اور اس کی زبان کو کلام حق کا واسطہ جان کر یقین کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ کبھی بھی اپنی ذاتی خواہش کے ساتھ منتظر اور حاضر نہ ہوتا کہ شیخ کے فوائد سے محروم اور بے نصیب نہ رہے۔ اس بارے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے: بے شک میں یقین سے بات کہتا ہوں اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ مجھے حکم کیا جاتا ہے پھر میں حکم کرتا ہوں۔ میں نے کلام کیا اور میرے حق کی وجہ سے مجھے کہا گیا۔ اے عبدالقادر تو کلام کر، میں تیرے کلام کو رد نہ کروں گا۔

اور چاہیے کہ شیخ کی کلام اور اپنے حال کے درمیان وجہ مناسبت اور مطابقت تلاش کرے

اور اس طرح خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر استعداد کی زبان کے ساتھ اپنی بہتری تلاش کرتا ہوں۔ شیخ کے ساتھ کلام کرتے وقت اپنے نفس کی خواہش کو نکال دے، اپنی دانش اور اپنے علم و معرفت کا اظہار نہ کر اور نہایت اچھے طریقہ سے اپنی حاجت عرض کر۔ جب امراء کی زبان اس کی بارگاہ میں مقام ارادت و عقیدت سے دور جا پڑتی ہے تو اس بارے میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

احسن ادبک بین یدی معلمک ولیکن صمتک اکثر من نطقک
فان ذاک سبب لتعلمک و قربک الی قلبہ.

اپنے (شیخ) استاد کے سامنے حسن ادب سے بیٹھ اور تیری خاموشی تیرے نطق سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ تیری تعلیم اور استاد کے دل میں قرب حاصل کرنے کا سبب ہے۔

نواں ادب: شیخ کی بارگاہ میں گفتگو کے آداب

نواں ادب، نرم اور دھیمی آواز ہے، شیخ کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرے کیونکہ اکابر کے نزدیک بلند آواز ترک ادب کی ایک قسم ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ کسی معاملے پر جھگڑا ہوا اور شیخین کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

”اے ایمان والو، بارگاہ رسالت میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔“ (۱)

اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد یہ دونوں نور چشم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی نرم اور آہستہ آواز میں عرض کرتے کہ اہل مجلس کو ان کے کلام سننے میں سخت دشواری پیش آتی پھر ان دونوں بزرگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لئے وحی

ربانی یوں نازل ہوئی:

ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ و اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبہم للتقویٰ. (۲)

”بلاشبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پست
کرتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کیلئے چن لیا ہے۔“

دسواں ادب: شیخ کے ساتھ بے تکلف نہ ہو

دسواں ادب یہ ہے کہ قول و فعل میں شیخ کے ساتھ بے تکلفی سے باز رہے کیونکہ بے تکلفی
اور خندہ روئی سے احتشام اور وقار اٹھ جاتا ہے اور فیض کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ شیخ سے
بات کرتے وقت یا بات سنتے وقت یا مولائی اور یا سیدی کے القاب استعمال کرے اور تعظیم و
احترام کے تمام طریقوں کا خیال رکھے روایت میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام
حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام
ان کی تعظیم کے لئے اپنا یہ فرمان نازل کیا کہ

ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم
لا تشعرون. (۱) حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں بلند آواز
سے بات نہ کرو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع
ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام یا
رسول اللہ ﷺ اور یا نبی اللہ کے القاب کے ساتھ عرض کرتے تھے۔

(۱).....(۲) سورة الحجرات: ۲.

اسی طرح آداب تکلم اور آداب فعلی کی رعایت رکھنا بھی لازم ہے۔ سماع کی محفل اور دیگر مجلسوں میں اپنی تمام حرکات و سکنات پر نگاہ رکھے اور شیخ سجادہ کو کبھی نظر انداز نہ کرے جتنا ممکن ہو سکے شیخ کے دربار میں حرکت نہ کرے اور ہنسی و بے تکلفی کو ترک کرے۔

گیارہواں ادب: کثرت سوال سے اجتناب کرنا

گیارہویں بات یہ ہے کہ کلام کے اوقات کی معرفت حاصل کرے۔ دینی اور دنیوی مہمات میں سے جو کچھ شیخ سے عرض کرنا چاہے تو سب سے پہلے شیخ کے حال کو جاننے والا ہو کہ آیا اس وقت میں بات کرنے کی گنجائش بھی ہے یا نہیں۔ بات کرنے سے پہلے حضرت تقدس تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے شیخ کے ساتھ مکالمت کے آداب میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ تاکہ تقرب حاصل کرنے میں اس کی مثال اس صدقہ جیسی ہو جائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ (۲) ”اے ایمان والو! جب تم رسول (ﷺ) سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا
چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم ﷺ کی مجلس میں بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنی بات پر بہت زور دیتے تھے اور یہ بات حضور نبی اکرم ﷺ کی طبیعت پر گراں گزرتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور نبی اکرم ﷺ سے مکالمت کا درس دیا۔ اس آیت کے نزول

(۱) سورة حجرات: ۲، (سورة المجادلہ: ۱۲)

کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معمول تھا کہ آپ جب سرکار دو جہاں ﷺ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو پہلے کچھ ہدیہ و نیاز پیش کرتے اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ سے مکالمت کرتے۔

بارہواں ادب: شیخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھنا

بارہواں ادب یہ ہے کہ شیخ کے اسرار کو پوشیدہ رکھے۔ شیخ کی کرامات اور واقعات کو ظاہر کرنے اور لوگوں کو اطلاع دینے میں جلدی نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چھپانے میں شیخ کے لئے کوئی دینی یا دنیوی مصلحت ہو اور مریدوں کے علم کی اس تک رسائی نہ ہو اور اس کے ظاہر کر دینے سے فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔

تیرہواں ادب: اپنے اسرار شیخ کی خدمت میں پیش کرے

تیرہواں ادب یہ ہے کہ اپنے اسرار کو ظاہر کرے اور شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے، راہ سلوک میں جو کچھ منکشف ہو تصریحاً یا کنایۃً شیخ کی خدمت میں عرض کرتا رہے کیونکہ شیخ کو اپنے احوال سے اگر مطلع نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہو جائے اور باطن میں گرہ پڑ جائے اور شیخ کی امداد بند ہو جائے، جب شیخ کی خدمت میں عرض کرتا رہے گا تو وہ اپنی توجہ کے ساتھ راہ سلوک میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔

چودھواں باب: مرید فنا فی الشیخ ہو

شیخ کی بارگاہ میں مرید کے لئے سب سے معظم اور اہم ادب وہ ہے جو حضور غوث صمدانی قطب ربانی محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نیاز مندوں کو سکھایا:

”تو میری ذات میں فنا ہو جا میں تمہیں ہمیشہ کے لئے زندہ کر دوں گا۔ ہماری پی عقیقت کی آگ میں جل جا یہ آگ تمام حجابوں اور دروازوں کو جلا دے گی اور پھر ہمارے

اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہ رہے گا تو اس کو دیکھ لے گا جیسے تو ہمیں دیکھتا ہے۔ اے میرے بیٹے! مجھے اپنے دل اپنے راز اور اپنے اعمال کا آئینہ بنا لے۔ اے میرے بیٹے! جب تجھے موت آئے گی تو تو مجھے دیکھے گا اور پہچانے گا تو مجھے اپنے دائیں، بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف دیکھے گا۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

ذِكْرِي جِلَاءُ الْأَبْصَارِ بَعْدَ عَمَائِهَا
وَأَخِي فُوَادَ الصَّبِّ بَعْدَ الْقَطِيعَةِ

”میرا ذکر آنکھوں کے اندھے ہونے کے بعد ان کی جلا اور روشنی کا باعث ہے اور میں

عاشقوں کے دلوں کے مردہ ہو جانے کے بعد ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔“

حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا:

اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو پس میں اچھا ہوں۔ جس نے کسی تکلیف میں مجھ سے مدد طلب کی تو میں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، جس نے سختی کی حالت میں میرا نام لیکر مجھے پکارا تو میں اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہوں اور جس نے اپنی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ طلب کیا تو اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا اور جب تم اللہ سے سوال کرو تو میرے وسیلہ سے سوال کرو۔

سرکار بغداد محبوب سبحانی کا تصور

اے درویش اگر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے جمال اور کمال کا مشاہدہ کرنے کی تجھے سعادت نصیب ہو تو پھر اسی صورت کو اپنا نصب العین بنا لے اور اس صورت سے ملاقات کے خیال میں فنا ہو جا اگر یہ نسبت درست ہوگئی تو پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس جمال کے انوار تیرے

جسم میں کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر اب تک تجھے یہ نسبت حاصل نہیں ہے تو پھر آپ ﷺ کے حلیہ مبارک کو اپنے تصورات میں بٹھالے پھر تو دونوں جہانوں کی سعادت سے محروم نہ ہوگا اور اس نسبت کے حاصل کرنے میں بھی تجھے مقصود و مطلوب حاصل ہو جائے گا۔

حلیہ مبارک

نخیف بدن، قدمیانہ، عریض سینہ، عریض و طویل داڑھی، پیوستہ ابرو حلیہ مبارک کو نصب العین بنا کر عرض کرے: اے غوث اعظم ہمیں اپنے جمال کے مشاہدہ سے محروم نہ کر۔ اپنی ملاقات سے گم نہ کر اور ہمارے ساتھ اپنی محبت کم نہ کر۔ اپنی عنایت کے مواہب ہم تک بھی پہنچا۔ اپنی محبت اور لقا سے ہمیں سعادت مند بنا۔ اگر میں گناہگار ہوں بد کردار ہوں گناہوں اور تقصیرات کے سبب اس نعمت کے قابل نہیں ہوں، آپ ہمیں اس کے قابل بنا دیں آپ ہی کا فرمان ہے ان لم یکن مریدی جید فانا جید اگرچہ میرا مرید عمدہ نہیں پس میں تو عمدہ ہوں اور آپ نے فرمایا تھا: مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم میرا ہاتھ تیرے ہاتھ پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر ہے۔ اے غوث اعظم آپ نے فرمایا تھا:

”ان السعداء والاشقیاء تعرض علی“

”بے شک نیک بخت اور بد بخت سبھی میرے پاس لائے جاتے ہیں“۔ میری شقاوت و بد بختی کو دور فرما دو اور مجھے اس قابل بناؤ کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ اے غوث اعظم آپ نے فرمایا تھا:

مَنْ نَادَانِي بِاسْمِي فِي شِدَّتِهِ كَشَفْتُ عَنْهُ وَ مَنْ تَوَسَّلَ بِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي حَاجَتِهِ قَضَيْتُ حَاجَتَهُ

جس نے اپنی تکلیف میں مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا تو میں اس کی تکلیف دور کر

دوں گا اور جس شخص نے اپنی حاجت میں میرے ساتھ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا تو اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی لہذا میں گناہگار، بدکار تیری ذات کے ساتھ وسیلہ لایا ہوں اور دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور میری امید تیری عنایت اور مہربانی پر منحصر ہے۔ مجھے اپنی رحمت اور مہربانی سے مایوس نہ کر کیونکہ تیری مہربانی کے سوا میرے پاس کوئی پناہ اور بجا نہیں۔ میں کس کے سامنے جاؤں اور کس کی طرف منہ کروں جبکہ ہمارا بجا اور ہماری پناہ تیری ذات اقدس ہی ہے اور بس!

حَاشَاہُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِيَ مَكَارِمَهُ

أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ

”حضور کی شان کرم اس سے منزه ہے کہ امیدواران کے در سے بخشش و عطا سے محروم ہو

جائے یا پناہ گزین عزت و احترام حاصل کئے بغیر لوٹ آئے۔“

اللَّهُمَّ عَلَي سَيِّدِنَا وَ طَيْبِ قُلُوبِنَا وَ حَبِيبِنَا وَ شَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عِزَّتِهِ

وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا.



چھٹی فصل

متفرق اذکار اور دعاؤں کے بیان میں ﷺ

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ زِينَةَ عَرْشِهِ وَ رِضَاءَ نَفْسِهِ وَ مِدَادَ
كَلِمَاتِهِ وَ مُنْتَهَى عِلْمِهِ وَ جَمِيعَ مَا شَاءَ خَلْقَ وَ ذَرَأً وَ بَرَأً ، عَالِمُ الْغَيْبِ
وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الَّذِي
أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ الْأِمَامَ وَ الْأُمَّةَ وَ الرَّاعِيَ وَ الرَّعِيَّةَ وَ الْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فِي
الْخَيْرَاتِ وَ ادْفَعْ شَرَّ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّعِيَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ النَّقِبَةَ
صَلَاحًا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ وَ اعْصِمُهُمْ مِنْ مَعْصِيَتِكَ
وَ كُفْرَانِكَ وَ أَعِمِّمْ بِذَلِكَ جَمَهُورَ عِبَادِكَ فِي جَمِيعِ بِلَادِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ
كَرِيمٌ بَرُّ رَوْقٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرِ فَاصْلِحْهَا وَ أَنْتَ الْعَالِمُ
بِذُنُوبِنَا فَاعْفِرْهَا وَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتِرْهَا وَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِحَوَائِجِنَا فَاقْضِهَا

وَ أَنْتَ الْعَالِمُ بِمُهْمَاتِنَا فَارْتَفِعْنَا يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَيَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ اَللّٰهُمَّ
 اِحْفَظْنَا حَيْثُ نَهَيْتَنَا وَلَا تُفْقِدْنَا مِنْ حَيْثُ اَمَرْتَنَا اَعِزَّنَا بِطَاعَةٍ وَلَا تُزِلَّنَا
 بِالْمَعْصِيَةِ اَشْغِلْنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اِقْطَعْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ يَقْطَعُنَا عَنْكَ
 اَللّٰهُمَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ
 يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. لَا تُخَيِّبْنَا فِي غَفْلَةٍ وَلَا
 تَاْخُذْنَا عَلٰى عِشْرَةِ (۱) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الدّٰيْنِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
 وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کی مخلوق کی تعداد
 اس کے عرش کی زینت، اس کی ذات کی رضا، اس کے کلمات کی سیاہی اور اس کے علم کی انتہا
 کے برابر تعریف ہے۔ اس نے جو کچھ چاہا پیدا فرمایا، خلق کو زیادہ کیا اور نیست سے ہست کیا۔
 وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے رحمن و رحیم ہے۔ بادشاہ ہے بہت زیادہ پاکیزگی والا
 غالب اور حکمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا
 کوئی شریک نہیں سب بادشاہی اسی کے لئے ہے تمام تعریف اس کے لئے ہے۔ وہ زندہ کرتا
 اور موت دیتا ہے۔ سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں شہادت
 دیتا ہوں کہ محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
 جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر

(۱) وفی مکان آخر..... لا تاخذنا علی غرۃ.

دے اگرچہ مشرکین ناپسند کریں اے اللہ! امام امت، محافظ اور رعایا سب کی اصلاح فرما دے بھلائی کے کاموں کے لئے ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان میں سے بعض کے شر کو بعض سے دور فرما دے اے اللہ، رعایا، عوام اور نگہبانوں کو ایسی بھلائی اور صلاح عطا فرما جو انہیں تیری معرفت اور خوشنودی کے قریب کر دے اور انہیں اپنی نافرمانی اور کفر و انکار سے محفوظ فرما اور اپنا یہ فضل و کرم تمام بندوں پر تمام ملکوں میں عام فرما دے۔ بے شک تو سخی کریم نیکی کو پسند فرمانے والا اور رؤف و رحیم ہے اے اللہ تو رازوں کو جاننے والا ہے ان کی اصلاح فرما تو ہمارے گناہوں کو جاننے والا ہے انہیں بخش دے تو ہمارے عیبوں کو جاننے والا ہے انہیں چھپا دے تو ہماری حاجات کو جاننے والا ہے انہیں پورا فرما۔ تجھے ہماری مہمات کا علم ہے ان میں ہماری کفایت فرما۔ اے حاجتوں کے پورا فرمانے والے اور اے مہمات کی کفایت کرنے والے۔

اے اللہ جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما اور جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہاں گمراہ نہ کر۔ ہمیں اطاعت کے ساتھ عزت دے اور گناہوں کے ساتھ ذلیل نہ کر۔ غیروں سے پھیر کر اپنی طرف متوجہ فرما، ہر کاٹنے والا جو ہمیں تجھ سے جدا کرے تو اسے ہم سے دور کر دے ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت سکھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کچھ اس نے ارادہ فرمایا وہ موجود ہو گیا اور جس چیز کا ارادہ نہ کیا وہ وجود میں نہ آئی نہ تو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی ہمت مگر بلندی عظمت کے مالک اللہ کی توفیق سے۔ ہمیں غفلت کی وجہ سے محروم نہ کر اور نہ ہی عشرت کے سبب ہمارا مؤاخذہ فرما۔ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کا اقدام کریں تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلے والی امتوں پر ڈالا۔ اے اللہ ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس

کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہمیں معاف فرمادے ہماری مغفرت فرما۔ ہم پر رحم فرماتو
ہمارا آقا ہے کافروں کے گروہ پر ہماری نصرت فرما۔

یہ حزب بھی حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے

منقول ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَوْضِعِكَ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَبِكَمَالِ جَمَالِ
سِرِّكَ فِي سَرَائِرِ الْمُقَرَّبِينَ وَبِدَقَائِقِ حَقَائِقِ السَّادَاتِ الْفَائِزِينَ وَبِخُشُوعِ
وَخُضُوعِ دُمُوعِ أَعْيُنِ الْبَاكِينَ وَتَرْجِيفِ قُلُوبِ الْخَائِفِينَ وَبِتَرْنَمِ خَوَاطِرِ
الْوَاصِلِينَ وَبِرَيْنِ حَنِينِ أَيْنِ الْمُرِيدِينَ وَبِتَوْحِيدِ تَمَجِيدِ تَحْمِيدِ سُنَنِ
الذَّاكِرِينَ وَبِرَسَائِلِ وَسَائِلِ الْمَسْأَلِ الطَّالِبِينَ وَبِمُكَاشَفَاتِ الْمُهَيَّمَاتِ نَظَرَاتِ
أَعْيُنِ عَيْنِ الْيَقِينِ وَبِوُجُودِ وَجْدِهِ وَجُودِهِمْ بِكَ فِي غَوَامِضِ سِرِّ الْمُحِبِّينِ
أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ الرَّسَائِلِ وَالْوَسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ أَنْ تَغْرِسَ فِي حَدَائِقِ
بُسَاتِينِ قُلُوبِنَا أَشْجَارَ تَوْحِيدِكَ وَتَمَجِيدِكَ لِنَقْطِفَ مِنْهَا ثَمَارَ تَسْبِيحِكَ
وَ تَقْدِيرِكَ بِأَنَامِلِ كَفِّ اجْتِنَاءِ لُطْفِكَ وَ إِحْسَانِكَ اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنْ
بَصَائِرِ أَبْصَارِنَا حُجُبَ الْإِحْتِجَابِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ رَمَى سَهْمَ الْإِبْتِهَالِ فَأَصَابَ
وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ دَعَوَتْ جَوَارِحُ أَرْكَانِهِ لِخِدْمَتِكَ فَاجَابَ وَ اجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مِنْ
خَوَاصِ أَهْلِ الْعِنَايَةِ وَالْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ إِنَّ أَرْضَ قُلُوبِنَا مُجْدَبَةٌ بِالسَّيِّئَةِ عَائِسَةٌ
فَاسْقِهَا اللَّهُمَّ مِنْ سَحَابِ الطَّلِ الْوِلَايَةِ يَصِحُّ مَخْضَرَةٌ بِجَمِيعِ رِيَاحِينَ
الرِّيَاضِ الْقُبُولِ وَالْإِيمَانِ مَتَفَقِ رِيَاحِينَ مِنْ كَمَائِمِ أَزْهَارِ طَلْعَتِهَا شَاهِدِ الرُّوِيَةِ
وَالْعِيَانِ مِنْ ثَمِّ لَبِّ بَلْبَالِ تَرْجَمَتِهَا كَتَبَلِيلِ الْبَلِيلِ فِي أَفْنَانِ الْإِغْصَانِ شَاكِرَةِ

ذاکرۃ علی ما ولیتها من فوائد النعم والاحسان ﴿ (۱) اللہم منّا الدعاء
 ومنک الاجابة ومنّا الرمی بسہم الرجاء ومنک الاجابة فاجعلنا اللہم
 منک یا مولانا ممن دعا محبوبہ فاجابه واعطاه ما تمنی علیہ وما آخاہ
 اللہم ونحن عبیدک الفقراء المساکین واقفین علی عتبه باب جنابک
 وساحة الطافک منتظرین لشربہ من حمیا خندریس رحیق غایہ شرابک.
 ﴿ لنصبح بہا نشاء والہا انینا من سکرہ بحظہ خمارک اللہم اجعلنا ممن
 جدت بہ الیک خطاہ اللہم من الفته متعلقہ باذیال المعروف والکرم وقد
 حطت الاجمال اجمالها علی جناب قدرک معطرہ بنسائم نسیمات
 قربک وانسک ﴿ (۲) مستجیرۃ بک ایہا الملک الدیان من جور

متن میں موجود عبارات درست نہیں، درج ذیل عبارات کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ عبارات
 ”الفیوضات الربانیة فی مآثر والاوراد القادریة“ مطبوعہ الجامع الازہر الشریف سے لی گئی
 ہیں۔

(۱) من سحاب امطار الولاية بالازهار لتصبح مخضرة بجميع رياحين القبول
 والایمان۔ متفتحة کما تم ازهار طلعتها بشقائق الرؤیة والعیان۔ مترنماً لب بلبل فرحتها
 کترنم البلبل فی افنان الاغصان۔ شاکرة ذاکرة لک علی ما اولیتها من فوائد النعم
 والاحسان۔

(۲) لنصبح بہا نشاوی مؤلهین من سکرۃ لحظۃ خمارک۔ واجعلنا ممن جدت
 بہ الیک مطایا الهمم متملقۃ متعلقۃ بأذیال المعروف والکرم وقد حططنا اجمال
 أثقالنا علی ساحات قدسک معطرۃ من نفحات نسیمات قربک وانسک۔

سلطان القطیعة والهجران . اَللّٰهُمَّ فَاسْمِعْ تَبْتَلْنَا اِلَيْكَ فَقَدْ تَوَكَّلْنَا فِيْ جَمِيْعِ
اُمُوْرِنَا عَلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا عَنْكَ (۱) اِلَّا اِلَيْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
وَصَلِّىْ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ
اِنَّا نَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُصْلِحُ لِلْعَرَضِ عَلَيْكَ وَ اِيْقَانًا نَعْفُ بِهٖ فِي الْقِيَامَةِ بَيْنَ
يَدَيْكَ وَ رَحْمَةً تَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ دَنَسِ الْعُيُوْبِ وَعِلْمًا نَفْقَهُ بِهٖ اَوْ اَمْرًا وَ
نَوَاهِيْكَ وَ فَهْمًا نَعْلَمُ بِهٖ كَيْفَ نُنَاجِيْكَ وَ اجْعَلْنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مِنْ
اَهْلِ وَّلَايَتِكَ وَ اَمَلًا قُلُوْبِنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَ كَحَلِّ عِيُوْنِ عَقُوْلِنَا بِاِثْمَدِ
هِدَايَتِكَ وَ اَحْرَسُ اَقْدَامِ افْكَارِنَا مِنْ مَوَاطِئِ الشُّبُهَاتِ وَ اَمْنَعُ طُيُوْرَ نَفُوْسِنَا
مِنَ الْوُقُوْعِ فِيْ شَبَابِكَ مُوْبِقَاتِ الشُّهُوَاتِ وَ اَعِنَّا فِيْ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ عَلٰى
تَرْكِ الشُّهُوَاتِ وَ اَمَحْ سَطُوْرَ سَيِّاَتِنَا عَنْ جَرَائِدِ اَعْمَالِنَا بِاَيْدِي الْحَسَنَاتِ
كُنْ لَنَا حَيْثُ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ مَنَا اِذَا اَعْرَضَ اَهْلُ الْوُجُوْدِ بِوُجُوْهِهِمْ عَنَّا حِيْنَ
تَحْصِيْلِ فِيْ ظَلَمِ اللُّحُوْدِ وَ بَرَهَا فِيْ اَفْعَالِنَا اِلٰى يَوْمِ الشُّهُودِ وَ اَجِرْ عَلٰى لِسَانِ
عَبْدِكَ الضَّعِيْفِ عَلٰى مَا اَلْفِ مِنْ الْعَصْمَةِ مِنَ الذَّلٰلِ وَ وَقِّفْهُ حَاضِرِيْنَ الصّٰلِحِ
الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ وَ اَجِرْ عَلٰى لِسَانِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهٖ السّٰمِعُ وَ تَذَرِفْ لَهٗ الْمَدَامِعُ وَ
تَأَلَّفْ لَهٗ الْقَلْبُ الْخَاشِعُ وَ اغْفِرْ لَهٗ وَ لِلْحَاضِرِيْنَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا
نَعُوْذُ بِفَضْلِكَ مِنْ صَدِّكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَ بِقُبُوْلِكَ مِنْ رَدِّكَ
فَاَجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَ وُدِّكَ وَ اَهْلُنَا لِشُكْرِكَ .

(۱) ایک دوسرے نسخہ میں عنک کی بجائے منك ہے جو زیادہ مناسب ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عارفوں کے دلوں میں تیرے مقام کے طفیل، مقربین کے سروں میں تیرے سر کے جمال اور کمال کے طفیل، مقام ولایت پر فائزین سرداروں کے حقائق اور دقائق اور زاری و بکا کرنے والی آنکھوں کے آنسوؤں اور خضوع و خشوع کے وسیلہ سے اور تیرے عذاب سے ڈرنے والوں کے دلوں کے کانپنے اور واصلین کے دلوں کی آواز اور مریدوں کے اشتیاق اور آہیں بھرنے کے طفیل اور ذکر کرنے والوں کے توحید، بزرگی اور حمد بیان کرنے کے طریقوں کے وسیلہ سے اور طالبوں کے رسائل، مسائل، اور وسائل کے طفیل اور عین الیقین والوں کی آنکھوں کے دیکھنے اور مہمات کو کھولنے کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے رسائل، وسائل اور مسائل کی حرمت کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے باغوں میں اپنی توحید اور بزرگی کے درخت لگا دے تاکہ ہم ان سے تیری تسبیح و تقدیس کے پھل چن سکیں اور ہاتھوں کی انگلیوں سے تیرے لطف اور احسان کے خوشے توڑیں۔

اے اللہ ہماری آنکھوں کے آگے حائل ہونے والے پردوں کو کھول دے اور ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہوں نے عجز و انکساری کا تیر پھینکا اور وہ درست جا لگا۔ اور ہمیں اس شخص کی طرح بنا جس کے اعضا کو تو نے اپنی خدمت کے لئے بلایا تو وہ حاضر خدمت ہو گیا اے اللہ ہمیں ان خواص سے بنا جن پر تیری عنایت ہے اور جنہیں تو دوست رکھتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کی زمین بنجر ہے شکستہ اور مایوس ہے اس کی کھیتی مرجھا چکی ہے اسے سیراب کر دے۔ پس تو قلوب کو خوشبودار ولایت کے موسلا دھار بادل سے سیراب فرماتا کہ قبول و ایمان کے تمام پھول سرسبز ہو جائیں دیکھنے اور معائنہ والے کی بساط کے مطابق، اپنے خوشے کی کلی کی تھیلی سے کھل جائیں، اپنی خوشی کے بلبل کی آواز میں مترنم ہو جائیں، جیسے ٹہنیوں کے درمیان بلبل

کا ترنم، شکر کرنے والے ذکر کرنے والے ہو جائیں، اس کے مطابق جو فائدہ مند نعمتیں اور احسان انکے سپرد ہیں۔ اے اللہ ہم تو صرف دعا کرتے ہیں قبولیت کرنے والا تو ہی ہے ہم تو صرف امید کا تیر پھینک سکتے ہیں قبول کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والوں سے بنا اے ہمارے آقا ہمیں اس شخص کی طرح بنا جس نے اپنے محبوب سے دعا کی تو اس نے قبول کر لی۔ اور اسے وہ کچھ عطا کر دیا جس کی اس نے امید کی تھی اور اسے ناکام نہ کیا۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج و مسکین بندے تیری بارگاہ کے دروازے کی دہلیز پر کھڑے اس انتظار میں ہیں کہ تیری شراب کے شہد سے ایک گھونٹ پیئیں۔ تاکہ ہو جائیں اس کے نشہ سے سوز و گداز وار خود رفته اپنے حصے کی شراب معرفت سے۔ اے اللہ ان سے بنا جن کے قدم صرف تیری طرف اٹھتے ہیں، اور جن کا دامن بخشش اور نیکی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اے اللہ ہم نے دنیا سے رشتہ توڑ کر تیری طرف رخ کیا ہے تمام امور میں تجھ پر توکل کیا ہے، اور جنکا جمال تیری بارگاہ قدرت سے اتارا گیا ہے، اور تیرے قرب اور انس کی خوشبودار ہواؤں سے معطر ہے، اے انتقام لینے والے بادشاہ! قطع تعلق اور چھوڑ دینے والے زور آور سے تیری پناہ چاہتے ہوئے، تیری بارگاہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ ہی کوئی جائے نجات ہے۔ اے سب سے زیادہ رحیم ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے آقا محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر کثیر صلوة و سلام ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری بارگاہ میں حاضری کے قابل بنا دے اور ایسے یقین کا جس کے ساتھ روز قیامت ہم تیرے سامنے بیٹھ سکیں اور ایسی رحمت جو ہمیں عیوب کی میل کچیل سے پاک کر دے اور ایسا علم جس کے ذریعے ہم تیرے اوامر اور منہیات کو سمجھ سکیں اور ایسا فہم جس کے ذریعے ہم تجھ سے مناجات کا طریقہ معلوم کر سکیں اور دنیا و آخرت میں ہمیں اپنی ولایت

والوں سے بنا اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے ہماری عقلوں کی آنکھوں کو اپنی ہدایت کے پتھر سے سرمہ لگا دے۔ ہماری فکروں کے قدموں کی نگرانی فرما کہ وہ شک و شبہ کی جگہ پر نہ پڑیں اور ہمارے نفسوں کے پرندوں کو ہلاکت خیز شہوتوں کے جالوں میں پڑنے سے روک لے اور نماز قائم کرنے اور خواہشات کو ترک کرنے میں ہماری مدد فرما اور نیکی کے ہاتھوں کے ساتھ ہمارے اعمال نامے سے ہماری برائیوں کی سطروں کو مٹا دے۔ جہاں پر ہماری امیدیں ختم ہو جائیں وہاں ہماری مدد فرما جب دنیا والے ہم سے منہ پھیر لیں اور ہمیں قبروں کے اندھیروں کے حوالے کر دیں تو تو ہمارے اعمال کو نیکی بنا یوم شہود تک۔ اپنے ضعیف بندے پر، ذلت اور پستی سے بچا کر اپنی الفت جاری فرما۔ موافق کر اسکو قول و عمل میں نیک رفقاء کے اور اسکی زبان پر ایسے کلمات جاری فرما جو سامع کے لئے نفع بخش ہوں ان کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور ڈرنے والے کا دل مانوس ہو جائے۔ اپنے بندے کی بخشش فرما حاضرین مجلس اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم تیرے اعراض کرنے سے تیرے فضل و کرم کی پناہ چاہتے ہیں اور تیرے دور کر دینے سے تیرے قرب کی اور تیرے رد کر دینے سے تیری قبولیت کی پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا اطاعت اطاعت کرنے والا محبت کرنے والا بنا اور شکر کرنے والا بھی بنا۔

رات کا دو گانہ

حضرت سیدنا غوث اعظم ؒ نے فرمایا: جب لوگوں کی آوازیں ختم ہو جائیں اور مخلوق خدائے متعال آغوش خواب میں چلی جائے تو نیم شب اٹھ کر نیا وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور کہے:

دَلَّنِي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ حَتَّى يَدُلَّنِي عَلَيْكَ وَيُعَرِّفَنِي

طریقک.

”مجھے اپنے محبوب و مقرب بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف رہنمائی فرما جو

مجھے تیری طرف رہنمائی کرے اور تجھ تک پہنچنے کا راستہ مجھے بتا دے۔“

خصوصی وظیفہ

کسی دوست سے یہ بھی منقول ہے کہ مشکلات کے کھولنے اور مہمات کی کفایت کے

لئے یہ دو شعر بہت اہم ہیں، ان دو شعروں کا گیارہ سو (۱۱۰۰) مرتبہ وظیفہ کرے اور تمام آداب

و شرائط کا خیال رکھے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وظیفہ کے اوّل و آخر میں درود شریف پڑھے۔

دوسری یہ کہ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خلوت و تنہائی میں وظیفہ کرے۔ تیسری

شرط یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرے اور صدق نیت بھی ہو اور قبولیت کا یقین بھی اور حضرت

غوث اعظم کی روح پر فتوح کو اپنے پاس حاضر خیال کرے اور آپ سے مدد و استعانت کرے

اور خشوع و خضوع کے ساتھ وظیفہ میں مشغول ہو جائے۔ (شعریہ ہیں)

أَيُّدِرْكُنِي هَمٌّ وَأَنْتَ ظَهِيْرِي

أُظْلِمُ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ نَصِيْرِي

فَعَارٌ عَلَيَّ حَامِي الْحَمِي وَهُوَ قَادِرٌ

إِذَا ضَاعَ فِي الْبَيْدَاءِ عِقَالٌ بَعِيْرِي

”کیا مجھے غم لاحق ہو سکتا ہے؟ جبکہ تو میرا مددگار ہے اور کیا دنیا میں مجھ پر ظلم کیا جائے گا؟

جبکہ تو میرا نصیر ہے۔ یہ بات چراگاہ کے محافظ کے لئے باعث عار ہے۔ جبکہ وہ قادر بھی ہے

کہ جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے۔“



استجابت دعا کا وظیفہ

دینی و دنیوی مرادوں کے پانے، استجابت دعا اور درازی عمر کے لئے درج ذیل اذکار کو پابندی سے بجالائے۔

- ۱۔ فجر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ **هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**
- ۲۔ ظہر کی نماز کے بعد ہزار مرتبہ **هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ**
- ۳۔ نماز عصر کے بعد ہزار مرتبہ **هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**
- ۴۔ نماز مغرب کے بعد ہزار بار **هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
- ۵۔ نماز عشا کے بعد ہزار مرتبہ **هُوَ اللَّطِيفُ**

ہر روز درج ذیل وظائف کو مواظبت سے پڑھے

سورۃ جمعہ سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ اور کلمہ تجید **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** ان سب کو ایک ایک مرتبہ پڑھے اور ہر سورت کے ساتھ اور کلمہ تجید کے ساتھ درود شریف سو (۱۰۰) بار پڑھے۔

غالب دشمن سے پناہ کی دعا

روایت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت حضور غوث اعظم ؑ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور کہنے لگا حضور میں عمر رسیدہ ہوں اور بچے بھی چھوٹے ہیں دشمن بہت غالب ہے آپ کی پناہ چاہئے آپ نے اپنا سر جھکایا اور مراقبہ میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمانے لگے، آؤ! اے سائل اور یہ دعا لکھ لو اور اسے پڑھا کرو۔ یہ دعا پروردگار نے مجھے الہام کی ہے کہ دشمن تجھ پر اور تیرے فرزندوں پر کبھی کامیابی حاصل نہ کر سکے گا اور جو شخص بھی صبح شام اس دعا کا وظیفہ کرے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے، اس واقعہ کے بعد شیخ علی ہتی کو

بھی جو اپنے وقت کے اجلا مشائخ میں سے تھے۔ اسی دعا کا مکاشفہ ہوا اور فوراً حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال ظاہر کیا۔

خلیفہ وقت نے دعا کا وظیفہ کیا اور اپنی مراد حاصل کر لی، اس کا دشمن بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے نابود ہو گیا اور اس بادشاہ کے بعد اس کے فرزند خلیفہ ہوئے، دعا یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا عَلِيُّ يَا وَلِيُّ يَا وَفِيُّ يَا عَلِيُّ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
رَحِیْمَهُمَا اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي مِنْهُمَا مَا تَشَاءُ وَ تَرْزُقُنِي مَا تَشَاءُ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
جَلَّ رَبُّی فَقَدِرَ عَزَّزْنِی فَقَدْ هُوَ مُعِیْنٌ لِّمَا صَبَرْتُ وَ اذْكُرُوا لِلّٰهِ ذِكْرًا الْاَكْبَرَ وَ
صَلِّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ اَجْمَعِیْنَ

”اے قائم بالذات، دوسروں کو قائم رکھنے والے، بلند، دوست رکھنے والے، وفا کرنے والے، بلند مرتبہ اے دنیا اور آخرت میں رحمن اور رحیم۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا و آخرت سے جو کچھ چاہے عطا کرے اور جو کچھ چاہے عنایت فرمائے۔ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرا پروردگار بلند عظمتوں والا ہے وہ قادر ہے، اس نے مجھے عزت دی، تحقیق وہ صبر کرنے والے کا مددگار ہے، اللہ کا ذکر کرو، ذکر اکبر اور درود و سلام ہو مخلوق میں سب سے بہتر محمد ﷺ پر اور آپ کی ساری آل پر۔“

دشمن پر غلبہ پانے کی دعا

کفایت مہمات، رزق کی فراخی اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لئے صبح کے وقت اس دعا کا وظیفہ کرے اور جمعرات کے دن سے پڑھنا شروع کرے: (دعا یہ ہے)

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْقَادِرِ الْقَاهِرِ الْقَوِيِّ الْكَافِيِّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ

دشمنوں کو دفع کرنے اور ان پر کامیابی پانے کے لئے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو چالیس مرتبہ پڑھے اور اول و آخر درود شریف پڑھے۔

يَا مَنْ يَفْرُدُّ بِنُصْرَةِ الضُّعْفَاءِ وَ الْمَظْلُومِينَ وَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اسُدِّدْ لِسَانَ اَعْدَائِي وَ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَ لَا حَاسِدِي وَ اَظْفِرْنِي عَلَى جَمِيعِ اَعْدَائِي بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

”اے وہ ذات جو تنہا کمزوروں اور مظلوموں کی نصرت فرماتی ہے اور تمام مخلوق اس بات سے عاجز اور قاصر ہے اے اللہ میرے دشمنوں کی زبان بند کر دے۔ میرے دشمنوں اور حاسدوں کو میری مصیبت پر خوش نہ کر اور مجھے اپنے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا فرما اے سب سے زیادہ رحیم و کریم میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔“

سونے سے قبل مناجات

عشا کی نماز کے بعد جب سونے کا ارادہ کرے تو ان مناجات کا ورد کرے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : اے مالک کائنات، بادشاہ کل، اگر مجھ سے کوئی گناہ، خطا، کفر، شرک، ریا، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، چغتل خوری، زنا، غیبت، فحش کلامی، بہتان، جھوٹ لہو و لعب، سہو، حسرت، تکبر، غرور، نفاق، حق تلف کرنے، حرام کاری کرنے، نفرت کرنے، امانت ترک کرنے، خیانت کرنے، ظلم و تعدی کرنے، کسی جانور یا آدمی کا حق تلف کرنے اور استاد، پیر، ماں اور باپ کے حقوق پورے نہ کرنے کا ارتکاب ہوا ہے اور اگر میں نے فسق و فجور یا بدعت کوتاہی اور غلطی کی ہے اور جس بارے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے وہ کام کیا اور جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا وہ کام انجام دیا یہ سب کچھ میں نے دانستہ طور پر کیا یا بھول کر کیا یا

میرے دل میں خیال آیا یا زبان پر جاری ہوا قوی۔ فعلی طور پر حاضر و غیب ہونے کی حالت میں ظاہر اور باطن میں اور سری و جہری طور جو کچھ میں نے دانستہ ارتکاب کیا یا نادانستہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو میں ان تمام گناہوں سے باز آتا ہوں اور پشیمان و شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ دوبارہ ان برائیوں کا ارتکاب نہ کروں۔ میں تہہ دل سے مسلمان ہوتا ہوں اور تیری وحدانیت کے ساتھ ایمان لاتا ہوں، جس چیز سے تو نے منع فرمایا ہے اس سے بیزار ہوں اور ایمان لاتا ہوں اس چیز کے ساتھ جس پر محمد رسول اللہ ﷺ ایمان لائے۔ میں یقین اور صدق دل سے کہتا ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ
رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ.

اے اللہ! تمام عمر مجھے اسی اقرار و تصدیق پر ثابت رکھو اپنے حبیب محمد رسول اللہ ﷺ کے طفیل اے خداوند میں نے اپنے تمام دینی و دنیوی امور تیرے سپرد کر دیئے اور تجھ پر چھوڑ دیئے ہیں اور میں تجھی سے سوال کرتا ہوں:

اللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِخْتَمَ لَنَا
بِالْخَيْرِ بِحُرْمَةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
”اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں خیریت و عافیت اور صحت کاملہ کا سوال کرتے
ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل کے طفیل ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے

سب سے زیادہ رحم کرنے والے میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔“

اس کے بعد درج ذیل مناجات پڑھے جو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا وَلَا تُعَذِّبْنَا مِنْ ذُنُوبِ السَّمْعِ وَالْبَصْرِ وَالْفُؤَادِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ عَمْدًا وَنِسْيَانًا لَيْلًا وَنَهَارًا سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَاتُّوبُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ كُلِّهَا وَأَقُولُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مَحْجُوبِينَ عَنْ لِقَائِكَ فَقِنَا مِنْ شُرُورِ الدَّارَيْنِ بِبِرَّةِ الْقُرْآنِ وَنَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مَحْجُوبِينَ عَنْ لِقَائِكَ فَقِنَا مِنْ شُرُورِ الدَّارَيْنِ بِبِرَّةِ الْقُرْآنِ وَنَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَامًا أَلْفِ أَلْفِ

”اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کر اور ہمیں کانوں اور آنکھوں کے دل، ہاتھوں اور پاؤں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر اور وہ گناہ جو ہم نے دانستہ یا بھول کر، دن میں یا رات کے وقت اور چھپ کر یا ظاہری طور پر کئے ہیں ان تمام گناہوں سے تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنی ملاقات سے ہمیں اپنے پردے میں نہ رکھ۔ ہمیں دنیا و آخرت کے شر سے بچا قرآن مجید کی برکت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

برکت کے طفیل اور میری طرف سے آپ ﷺ کی بارگاہ میں تحیات و سلام پہنچا
 اے اللہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر سلام و صلوة بھیج اتنی تعداد میں جتنی کوئی بھی نہ بھیجے
 اور آپ ﷺ پر صلوة و سلام بھیجے اتنی تعداد میں جتنا کہ کسی نے نہ بھیجا اور
 آپ ﷺ پر صلوة بھیج جس طرح تو پسند کرتا ہے اور جتنی تیری رضا ہے کہ تو
 آپ ﷺ پر درود بھیجے اور آپ ﷺ پر صلوة بھیج جتنا کہ تو نے
 ہمیں آپ ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور آپ ﷺ پر درود
 بھیج جتنا کہ درود بھیجنا مناسب ہے۔ اے سب سے زیادہ رحیم تیری رحمت کا امیدوار ہوں
 اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات سے پردے میں نہ رکھ۔ دونوں جہاں کے شر سے ہمیں بچا قرآن
 مجید کی برکت اور نبی آخر الزمان ﷺ کے طفیل اور آپ ﷺ کو
 میری طرف سے ہزار ہزار درود و سلام پہنچا۔

مصیبتوں اور تکلیفوں کے دور کرنے اور برکات کے حصول کے لئے منقول ہے کہ ہر
 نئے مہینہ درج ذیل ذکر و اذکار کیے جائیں۔

تیس (۳۰) بار سورہ فاتحہ

چالیس (۴۰) بار آیت رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا

لأولنا وآخرنا و آية منك وارزقنا و أنت خير الرازقين..... (المائدة: ۱۱۴)

اکیس (۲۱) بار آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ قَدْرًا..... (الطلاق: ۳)

دس (۱۰) بار يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مُعْطِيُّ يَا بَاسِطُ يَهَابُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ

دس (۱۰) مرتبہ یا حَافِظُ يَا حَفِیْظُ يَا رَقِیْبُ يَا وَكِیْلُ يَا اللهُ
 دس (۱۰) مرتبہ فَاللهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (☆)

وظیفہ برائے حصول مراد

حصول مراد کے لئے مندرجہ ذیل وظیفہ کرے۔

نئے مہینے کی پہلی تاریخوں میں اتوار کی رات دس رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد دس ۱۰ مرتبہ آیۃ الکرسی اور پچاس ۵۰ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اکیاسی (۸۱) بار اَسْتَغْفِرُ اللهُ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ کا ورد کرے، یہ نماز اتوار کی سات راتوں تک پڑھے اور مذکورہ بالا طریقہ کا لحاظ رکھے۔

(☆) اس سے اگلے تمام اوراد و وظائف آخر تک ”تیسیر الشاغلین میں نہیں ہیں، بلکہ اُس میں یہاں تک چودہواں باب ختم ہو جانے کے بعد پندرہواں باب ”آداب مراقبہ“ سولہواں باب ”آداب رسالت مآب ﷺ“ سترہواں باب ”آداب مرید با شیخ“ اور اٹھارہواں باب ”آداب شیخ جیلانی“ ہے۔ اور اس کے بعد کتاب اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کتاب ”ہدایۃ المریدین“ میں یہ ابواب سابقہ صفحات میں بڑی تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ یعنی اب ہم اس متن کا مطالعہ کریں گے جو تیسیر کے نسخہ میں مندرج نہیں یہ فقط اسی کتاب کا خاصہ ہے۔ البتہ اُس میں اختتامی کلمات میں حضور غوث اعظم کے شعر درج ہیں جو کتاب ہذا میں نظر سے نہیں گزرے۔ شعر یہ ہیں:

انا المشہور بین الناس اسماً	وسری شاع فی قاس ردانی
ببغداد نشأت وراق وقتی	انا الجیلی محبوبی عطانی
وعبدالقادر المشہور اسمی	ومن یرعی الزمان وقد رعانی
ومن ینکر علی فقد جفانی	وجدی صاحب السبع المثانی

دو گانہ صلوٰۃ غوثیہ پڑھنے کا طریقہ

اب ہم نماز دو گانہ ادا کرنے کا طریقہ اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اسماء و القاب ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ جن کا ذکر اسلاف نے کیا اور سلسلہ قادریہ کے نیاز مندوں نے ان کو اپنا وظیفہ بنایا ان اسماء و القاب کا ذکر علامہ نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف الشافعی اللخمی نے اپنی تصوف کی مشہور و معروف کتاب بہجة الاسرار میں اور امام عبداللہ ابن السعد الیافعی نے اپنی کتاب ”رأس المفاخر فی مناقب الشیخ عبد القادر“ میں کیا ہے۔

حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرو اس وقت میرا وسیلہ دے کر بارگاہ ایزدی میں سوال کیا کرو۔ جو کوئی شخص مصائب اور مشکلات میں مجھے پکارتا ہے اس کی مصیبت اور مشکل فوراً دور کر دی جاتی ہے۔ جو شخص مجھے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے اس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور جو شخص مندرجہ ذیل طریقہ پر دو نفل پڑھے اور اس کے بعد شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور پھر گیارہ قدم بغداد شریف کی طرف چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے کہ وہ سائل کی حاجت پوری کرے گا۔ (۱)

(۱) بہجة الاسرار و رأس المفاخر

نماز غوثیہ کا طریقہ

ایک اور طریقہ استعانت جو راقم الحروف (حافظ جمال الدین سید موسیٰ پاک) کو اپنے آباء و اجداد سے دست بدست اور سینہ بہ سینہ تلقین ہوا اور اجازت ملی وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اتوار کی رات جب سب لوگ محو خواب ہو جائیں تو غسل کرے اور غسل کرنے میں کسی سے مدد نہ لے دوسری شرط

مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو استعمال کرنا اور تنہائی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سرکارِ دو جہاں ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کی روح مبارک کو اپنے اوپر حاضر و ناظر خیال کرے اور تصور میں رکھے اور حضرت غوث الاعظم ؑ کے حلیہ مبارک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے اور اپنے پیرومرشد کو کہ جنہوں نے تلقین و اجازت کی ہے۔ اپنے پر حاضر جانے اور استمداد و التجا کا انداز اختیار کرے۔ اس کے بعد دو گانہ نماز مندرجہ ذیل طریقہ سے ادا کرے۔

نماز کی نیت ان الفاظ سے کرے: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْأَسْرَارِ هَدِيَّةً حَضْرَةَ شَيْخِ مُحَمَّدِ الدِّينِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ .

پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر گیارہ مرتبہ یہ درود شریف پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

اس کے بعد گیارہ مرتبہ حضور نبی اکرم ﴿صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم﴾ کا نام نامی اسم گرامی ان الفاظ کے ساتھ لے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي

اس کے بعد گیارہ مرتبہ کہے: اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ شَيْخِ الثَّقَلَيْنِ مُحَمَّدِ الدِّينِ اَبُو مُحَمَّدٍ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ قَدَّسَ اللهُ تَعَالَى سِرَّهُ الْعَزِيزَ اِقْضِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اغْنِنِي . اس کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ

لَكَ الْكُلُّ وَمِنْكَ الْكُلُّ وَبِكَ الْكُلُّ وَإِيكَ الْكُلُّ وَلَكَ الْكُلُّ وَأَنْتَ
الْكُلُّ وَلَكَ الْكُلُّ .

اے اللہ سب کچھ تیرے لئے ہے اور سب کچھ تیری طرف سے ہے اور سب کچھ تیرے
ساتھ ہی ہے اور سب کچھ تیری طرف ہی ہے اور سب کچھ تیرے لئے ہے اور تو ہی سب کچھ
ہے اور تیرے لئے ہی سب کچھ ہے۔

اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے اور بغداد شریف کی جانب گیارہ قدم چلے پھر کھڑا ہو
کر دو قدم پیچھے ہٹے اور کہے:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُطْبَ الزَّمَانِي

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الرَّحْمَانِي

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعَرِّفَ حَضْرَةِ رَبَّانِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا نَائِبَ رَسُولِ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ رَسُولِ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْفَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَوْسَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخَ مُحِي الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْكَ خَيْرَ اللَّهِ عَنَّا الْخَيْرِ

”درود و سلام ہو آپ پر اے قطب الزمانی۔ درود و سلام ہو آپ پر اے محبوب رحمانی

۔ درود و سلام ہو آپ پر اے غوثِ صمدانی۔ درود و سلام ہو آپ پر اے بارگاہِ ربوبیت کی معرفت دینے والے۔ درود و سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث۔ صلوة و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی کمان۔ درود و سلام ہو آپ پر اے جن و انس اور ملائکہ کے شیخ۔ درود و سلام ہو آپ پر اے آسمانوں اور زمینوں کے شیخ۔ درود و سلام ہو آپ پر اے شیخ محی الدین عبدالقادر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔

اس کے بعد گیارہ مرتبہ ”الْغِيَاثُ“ اور بارہ مرتبہ ”أَغْثِنِي“ کہے اور اسی جگہ کھڑا ہو جائے اور آپ کے قدم مبارک کے پاس اپنے آپ کو حاضر تصور کر کے یوں کہے: حضور میں اس کام میں عاجز ہوں اور حیران و پریشان ہوں (اور اپنے اس کام کا نام بھی لے)۔ اس کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھے۔ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی تین بار اور سورۃ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے اس کے بعد پھر کہے: میں اس کام میں عاجز ہوں اور پریشان ہوں اور اپنے اس کام کا نام بھی لے۔ اور الْغِيَاثُ اور أَغْثِنِي کا تکرار کرتا رہے اس کے بعد جس طرح کہ گیارہ قدم بغداد کی طرف گیا تھا اسی طرح نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ایک سو دس ۱۰۰ مرتبہ کہے: يَا عَبْدَ اللَّهِ اغِثْ بِإِذْنِ اللَّهِ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي۔ جب حاجت پوری ہو جائے تو نیک لوگوں کو مذکورہ مقدار کے مطابق کھانا کھلائے۔

دو گانہ نماز کا ایک اور طریقہ

نیا وضو کر کے دو رکعت نماز تحیۃ الوضو نہایت خضوع و خشوع سے ادا کرے اس کے بعد کلمہ طیب، کلمہ استغفار اور یا اللہ اور یا مُحَمَّدُ اور یا سَيِّدِ مُحَمَّدِي

الدِّينِ ہر ایک کو گیارہ مرتبہ کہے اور اَلْغِيَاثُ اَغْنِيْ گیارہ بار کہے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اس طرح نیت کرے:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى صَلَوةَ التَّطَوُّعِ هَدِيَّةً شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُحَمَّدِ الدِّينِ
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيِّ مُتَوَجِّهًا اِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللّٰهُ اَكْبَرُ

ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر نہایت خضوع و خشوع اور حضور قلب سے درود شریف کلمہ طیب، کلمہ استغفار، کلمہ تمجید، یا اللہ اور یا محمد اور یا شیخ محمد الدین اور اَلْغِيَاثُ اَغْنِيْ ہر ایک گیارہ مرتبہ پڑھے۔ بعد ازاں تکبیر کہتا ہو ابغدا شریف کی طرف گیارہ قدم جائے اور حضور دل کے ساتھ کھڑا ہو کر گیارہ مرتبہ کہے:

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غَوْثَ الصَّمْدَانِي

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُطْبَ الزَّمَانِي

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الرَّحْمَانِي

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَ السُّبْحَانِي الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا لَيْبَ الزَّمَانِي

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَلِيْلَ الرَّحْمَانِي

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعْرِفَ حَضْرَةِ الرَّبَّانِي الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا نَائِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اَلصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَوْسَ اللّٰهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَيْخَ الثَّقَلَيْنِ بِرُكَّةِ الْقُرْآنِ وَالنَّبِيِّ آخِرِ
الزَّمَانِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

درود و سلام ہو آپ پر اے غوثِ صمدانی درود و سلام ہو آپ پر اے قطبِ الزمانی درود و
سلام ہو آپ پر اے حبیبِ رحمانی، درود و سلام ہو آپ پر اے محبوبِ سبحانی، درود و سلام ہو
آپ پر اے دلیلِ رحمانی، درود و سلام ہو آپ پر اے بارگاہِ ربوبیت کی معرفت عطا کرنے
والے، درود و سلام ہو آپ پر اے نائبِ رسول اللہ ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) درود و سلام ہو آپ
پر اے وارثِ رسول اللہ ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ تعالیٰ کی کمان،
قرآن مجید اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی برکت کے طفیل۔

نمازِ غوثیہ پڑھنے کا تیسرا طریقہ

یہ بھی منقول ہے:

دو رکعت نمازِ نفل مذکورہ بالا نیت کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ
مرتبہ سورۃِ اخلاص پڑھے، نماز سے فراغت کے بعد گیارہ (۱۱) قدم بغداد شریف کی طرف
چلے اور وہاں کھڑے ہو کر مندرجہ ذیل گیارہ نام پڑھے:

شیخِ محی الدین، سید محی الدین، ولی محی الدین، بادشاہ محی الدین، سلطان محی الدین،
مخدوم محی الدین، مولانا محی الدین، خواجہ محی الدین، درویش محی الدین، فقیر محی الدین، غریب
محی الدین یا عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ
اس کے بعد کہے:

يَا شَيْخَ الْمَشَائِخِ وَالْأَوْلِيَاءِ قُطْبَ الْعَالَمِ شَيْخَ مُحْيِي الدِّينِ سَيِّدَ عَبْدُ
الْقَادِرِ جِيلَانِي ﷺ حضور اس معاملہ میں بندہ عاجز اور حیران و پریشان ہے آپ کے سپرد

کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپؐ کے دامن سے وابستہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے مصلیٰ پر واپس آجائے اور سجدے میں سر رکھ کر چند بار درود شریف پڑھے، اپنی حاجت پیش کرے اور پھر حضرت غوث الاعظم کے مندرجہ ذیل اسماء مبارکہ پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ . خَوَاجَةُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ ﷺ . اِلٰهِيْ
 بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ . قُطْبِ الْمَشْرِقِيْنَ وَالْمَغْرِبِيْنَ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ
 الْجِيْلَانِيَّ ﷺ . اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ قُطْبِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ سَيِّدِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ قُطْبِ الْكَوَاكِبِ سَيِّدِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ قُطْبِ الْحَجْرِ وَالشَّجَرِ
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ بَارِ اَشْهَبِ مُجِیْبِ
 كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . اِلٰهِيْ بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحَمَّدِي الدِّیْنِ
 قُطْبِ الْجَنُوْبِ وَالشِّمَالِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . يَا ابْنَ اَبِيْ صَالِحِ مُوسَى
 جَنِكِيْ دُوْسْتِ . يَا غَوْثَ الصَّمْدَانِيَّ . يَا مَحْبُوْبَ السُّبْحَانِيَّ . يَا سُلْطَانَ مُحَمَّدِي
 الدِّیْنِ . يَا اَبَا مُحَمَّدٍ . يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ . يَا عَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيْلَانِيَّ . يَا حَسَنِيَّ يَا
 حُسَيْنِيَّ . يَا جِيْلِيَّ . اَغْنِنِيْ وَاْمُدِّدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ
 الْجِيْلَانِيَّ شَيْئًا لِّلّٰهِ .

”اے میرے اللہ شیخ محی الدین خواجہ عبد القادر جیلانی کے طفیل، اے میرے اللہ شیخ محی
 الدین، مشرق و مغرب کے قطب سید عبد القادر جیلانی کے طفیل، اے اللہ عرش و کرسی کے
 قطب شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کے طفیل، اے اللہ ستاروں کے قطب شیخ محی الدین

سید عبدالقادر جیلانی کا واسطہ، اے اللہ حجر و شجر کے قطب شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی کا واسطہ، اے اللہ باز اشہب اور ملائکہ کا کلام سننے والے شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی کا واسطہ، اے اللہ جنوب و شمال کے قطب شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی کے طفیل، اے ابو صالح جنگی دوست کے فرزند ارجمند، اے غوث صمدانی، اے محبوب سبحانی اے سلطان با اقتدار محی الدین، اے ابو محمد، اے ابو عبداللہ، اے عبدالقادر جیلانی، اے حسنی، اے حسینی، اے جیلی، میری فریاد سی کیجئے اور میری حاجت کے پورا کرنے میں مدد کیجئے، اے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے واسطہ کچھ عطا کیجئے۔“

حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ القاب و اوصاف صاحب کتاب بہجۃ الاسرار نے نقل کئے ہیں اسی طرح آپ کے ہم عصر، متقدمین اور بعد میں آنے والے اولیاء اللہ نے بھی آپ کے القاب ذکر کئے ہیں۔ آپ سے جو پہلے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام، شیخ ابوبکر ہرا، شیخ ابو محمد شنبکی، شیخ تاج العارفین ابو الوفاء، شیخ عزاز بطایخی، شیخ عقیل منجی اور شیخ ابو عمران موسیٰ بن ماہین وغیرہم ہیں اور آپ کے ہم عصر اولیاء میں شیخ مطرباد رانی، شیخ عبدالرحمن طفسونجی، شیخ ابوالحسن جوستی شیخ ابوالبرکات ہامی، شیخ ابوالحسن علی بن ہتی، شیخ یوسف بن ایوب ہمدانی (سلسلہ نقشبندیہ کے مرجع) شیخ ابوالحسن الرفاعی، شیخ ابونجیب سہروردی، شیخ بقا بن بطو، شیخ ابوفرائی مغربی، شیخ ابو مدین، شیخ ابوسعید محمد قیلوی، شیخ شہاب الدین السہروردی اور شیخ قضیب البان موصلی وغیرہم ہیں۔ ان تمام بزرگان دین کے احوال و مراتب اور کمالات و کرامات کا ذکر امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب ”خلاصۃ المفخر“ میں تفصیل سے کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ يَا مُحِي الدِّينِ يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ، يَا وَلِيَّ اللَّهِ يَا قُطْبَ
الْوَقْتِ يَا غَوْثَ الزَّمَانِ يَا فَرْدَ وَقْتِهِ يَا مَنْ قَدَّمَهُ عَلَى رِقَابِ كُلِّ وَلِيٍّ اللَّهُ يَا مَنْ
شَرَّفَ أَرْزَمَانَهُ يَا أَعْلَى الْمَنْزِلَةِ يَا فَتَى يَا عَجْمِي يَا مُتَصَرِّفٌ يَا شَرِيفٌ يَا مَنْ
اِفْتَقَرَ إِلَيْهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ يَا مَنْ انْتَفَعَ بِهِ سَائِرُ النَّاسِ يَا شَفِيعٌ يَا مَنْ يُبْرِئُ
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ يَا مَنْ تَوَاضَعَ لَهُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ يَا
صَادِقٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا مَنْ لَهُ التَّصَرِّيفُ الْعَامُّ يَا مَنْ لَهُ الْعَرَبِيُّ النَّسَبُ يَا مَنْ شَرَّفَ
مِنْ بِحَارِ الْقُدْسِ يَا مَنْ جَلَسَ عَلَى بَسَاطِ الْمَعْرِفَةِ يَا مَنْ شَاهَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى
بَارِدًا مُتَلَاشِيًا فِي مَشْهُودِ الْكِبْرِيَاءِ يَا فَانِيًا فِي مُعَايِنَةِ الْهَيْبَةِ يَا مَنْ نَشَرَ عَلَيْهِ
رِدَاءَ الْأَنْسِ يَا مَنْ سَمَانِي عِرْلَقِي الْعَنَاءِ يَا مَنْ بَلَغَ مَقَامَ الْقَرَارِ يَا مَنْ نَطَقَ
بِالْحِكْمِ مِنْ مَعَادِنِ الْأَنْوَارِ يَا مَنْ اِمْتَزَجَ بِوَيْدَاءِ سِرِّ مَكْنُونِ الْأَسْرَارِ يَا فِي
الْحُضُورِ صَاحِبًا يَا فِي الصَّحُورِ مَاحِيًا يَا وَاقِفًا بِالْحَيَاءِ يَا مُتَسَبِّبًا بِالْأَدَبِ يَا
مُتَكَلِّمًا بِالتَّوَاضُعِ يَا مَلِكًا بِالْإِفْتِقَارِ يَا مُقَرَّبًا بِالتَّخْصِيفِ يَا مُخَاطَبًا بِالْإِكْرَامِ يَا
سَيِّدَ الْأَوْلِيَاءِ يَا قُطْبَ الْعَالِيِ يَا فَرْدًا السَّامِيِ يَا رَيْسَ عُلُومِ الْمَعَارِفِ يَا مَنْ
سَلِمَتْ لَهُ أَرْزَمَةُ الْحَقَائِقِ يَا سَيِّدَ الْبَارَاتِ الشُّهُبِ يَا قَائِدَ رَكْبِ الْمُحِبِّينِ يَا مَنْ
نُطِقَهُ يُحْصِلُ مَا فِي الصُّدُورِ وَانْفَاسُهُ تُبْعَثُ مَا فِي الْقُبُورِ يَا مَنْ رَحِمَ مُتَبِعِيهِ وَ
مُجِيبِيهِ يَا مَلِكَ الزَّمَانِ يَا إِمَامَ الْمَكَانِ يَا قَائِمًا بِأَمْرِ اللَّهِ يَا وَارِثَ كِتَابِ اللَّهِ يَا
نَائِبَ رَسُولِ اللَّهِ يَا مَنْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَيْدِيهِ وَاهْلُ وَقْتِهِ كُلُّهُمْ عَائِلَتُهُ يَا مَنْ
يَدُورُ الْقَطْرُ بِدَعْوَتِهِ وَيَدِرُّ الصَّرْعُ بِبِرْكَتِهِ يَا مَنْ نَكَسَ رُؤْسُ الْأَوْلِيَاءِ كُلِّهَا

لِهَيْبَتِهِ يَا مَأْمُونُ يَا مَنْ أَحَدٌ مِنَ اللَّهِ مَوْثِقَانِ لَا يُمَكِّنُ بِهِ يَأْمَنُ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ
 وَالْيُ وَقْتِهِ إِلَّا أَطَاعَهُ وَاصْفَا لَهُ وَاعْتَرَفًا مَكَانَهُ وَلَمْ تَبْقَ نَادِيَةٌ مِنْ أُنْدِيَةِ صَالِحِي
 الْحَيِّ إِلَّا قَصَدَتْهُ وَسَمَتْ عَلَيْهِ وَنَابَتْ عَلَى يَدَيْهِ وَازْدَحَمَتْ فِي بَابِهِ يَا مَنْ
 شَرَبَ الْأَوْلِيَاءَ كُؤُسًا هَيْئَةً مِنْ مَنَاهِلِ عِرْفَانِهِ يَا مَنْ كَانَ النَّفْسُ الصَّادِقُ
 يَصْدُرُ عَنْهُ فَيَطِيرُ شِعَاعَ نُورِهِ فِي الْآفَاقِ اسْتِطَارَةَ النُّورِ فِي الْأَشْرَاقِ يَا صَدْرَ
 الْأَوْلِيَاءِ يَا صَدْرَ الْأَقْطَابِ يَا أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ يَا أَجَلَ الْمُكَاشِفِينَ يَا مَنْ يُقْتَدَى
 بِأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ يَا مَنْ يُبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مَنْ يَبْرُزُ فِي هَيْبَةِ
 الْمَقَامَاتِ وَيُظْهِرُ فِي جَلَالَةِ الْكِرَامَاتِ يَا مَنْ يَسْطُو بِعِزَّةِ الْحَالِ وَالْعُلُوِّ فِي
 رِفْعَةِ الْمَحَبَّةِ يَا مَنْ سَلَّمَ ثُمَّ إِلَيْهِ الْكُونُ يَأْمَنُ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي التَّكْمِينِ تَقَدَّمَ
 بِهَا فِي الْمُقَدَّمَ يَا مَنْ لَهُ يَدٌ بَيْضَاءٌ فِي الْحَقَائِقِ امْتَّازَ بِهَا فِي الْأَزَلِ يَا مَنْ لَهُ
 لِسَانٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ يَا مَنْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ فِي وَقْتِهِ سَائِرُ الطَّالِبِينَ
 عَلَى مَنْزِلَةٍ بَيْنَ رَفِيعِ الْعَارِفِينَ يَا مَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي وَقْتِهِ يَا
 مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْبَهْمُوتِ الْأَسْفَلِ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى يَا جَبَلٌ رَاسِخٌ يَا
 طَوْدٌ مُنِيفٌ يَا سَيِّدَ الْعَارِفِينَ يَا مَنْ دُعِيَ فِي الْمَلَكُوتِ بِالْبَازِ الْأَشْهَبِ يَا مُنْفَرِدٌ
 فِي وَقْتِهِ يَا مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْأَمْرَ وَيَصْدُرُ مِنْهُ يَا مَنْ لَمْ يُخْلَقْ فِي الْعَجْمِ مِثْلَهُ وَلَا
 يُرَى فِي الْآفَاقِ بَطْرًا يَا مَنْ يُفْضَلُ بِهِ الْمَشْرِقُ عَلَى الْمَغْرِبِ يَا مَنْ عِلْمُهُ وَ
 نَسْبُهُ تُمَيِّزُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ تَمَيِّزًا وَاضِحًا يَا بَحْرَ الْمُحِيطِ يَا مَالِكَ أَرْمَةِ
 الْأَوْلِيَاءِ يَا مَنْ يُفْضَلُ بِهِ الْمَشْرِقُ عَلَى الْمَغْرِبِ يَا سَيِّدَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَا أَعْلَى
 الْأَوْلِيَاءِ وَاكْمَلَهُمْ يَا أَوْرَعَ الْعُلَمَاءِ وَأَزْهَدَهُمْ يَا أَعْلَمَ الْعُرَفَاءِ وَاتَّمَمَهُمْ يَا

أَمْكَنَ الْمَشَائِخِ وَأَقْدَرَهُمْ يَا مَنْ إِلَيْهِ انْتَهَى الرَّئِيسَةُ يَا مَنْ عِنْدَهُ يُحِيطُ رَجُلٌ
 جَلالَتُهُ الشَّانِ يَأْمَنُ إِلَيْهِ يُلْقَى أَمْرُ الْكَوْنِ وَأَهْلِهِ يَا مَنْ قَلَدَ الْأَمْرَ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَ
 الْأَبْدَالِ وَمَنْ دُونَهُمْ تَقْلِيدًا وَعَمَّ أَحْوَالَهُمْ وَأَسْرَارَهُمْ يَا مَنْ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى جِهَةِ
 مِنْ جِهَاتِ الْأَرْضِ إِلَّا خَافَ سُكَّانُ ذَلِكَ الْقَطْرِ يَا أَقْصَى الْأَرْضِ مِنْ هَيْبَةِ
 نَظَرِهِ يَا مَنْ يَرْجُوا النَّاسُ الزِّيَادَةَ مِنْ بَرَكَتِهِ نَظَرَهُ الْخَائِفُونَ سَبَبَ أَحْوَالِهِمْ مِنْ
 سَطْوَةِ هَيْبَتِهِ. يَا مَنْ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى كُلِّ وَلِيٍّ فِي زَمَانِهِ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِي
 ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَا مَنْ لَهُ الْكَلَامُ فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ بِإِذْنِهِ يَأْمَنُ أُعْطِيَ
 فِي الْأَكْوَانِ التَّصْرِيفُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَا فَرْدَ الْأَحْبَابِ يَا قُطْبَ الْأَوْلِيَاءِ يَا مَنْ لَمْ
 يُوَصَّلِ اللَّهُ تَعَالَى دُنْيَا إِلَى مَكَامٍ إِلَّا وَكَانَ لَهُ أَهْنَاءُ وَلَا ذَهَبَ اللَّهُ الْقَرَبِ إِلَّا
 وَهُوَ أَجَلُهُ بِقُرْبٍ حَالًا إِلَّا وَأَنْتَ أَجَلُهُ يَأْمَنُ تَأَدَّبَ مَعَهُ كُلُّ وَلِيٍّ كَانَ أَوْ يَكُونُ
 فِي سِرِّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا إِمَامَ الصِّدِّيقِينَ يَا حُجَّةَ الْعَارِفِينَ يَا
 رُوحَانِي الْمَعْرِفَةِ يَا مَنْ شَانَهُ الْعَرَبَةُ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ يَأْمَنُ يَتَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ
 الْإِنْفَسِ وَاحِدًا وَمَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ كَلَامٍ مِنْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْإِنْفَسِ يَأْمَنُ لَمْ يَظْهَرَ
 اللَّهُ وَلَا يَظْهَرُ إِلَى الْوُجُودِ مِنْهُ الْأَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ يَا مَنْ كَانَتْ كَرَامَتُهُ
 كَالْقَعْدِ الْمُنْضَدَةِ يَأْمَنُ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَوَارِيِّينَ مِثْلَهُ يَا سَيِّدَ الْأَوْلِيَاءِ يَا أَقْرَبَ
 الْأَوْلِيَاءِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا أَفْضَلَ الْمَشَائِخِ يَا مَنْ يَدُهُ فَوْقَ أَيْدِي رِجَالِ الْغَيْبِ
 وَقَدَمُهُ عَلَى رِقَابِهِمْ وَأَمْرُهُ نَافِذٌ عَلَيْهِمْ يَا مَنْ بِبَرَكَتِهِ يَحْرُسُ اللَّهُ الْأَرْضَ بِرُهَا وَ
 بَحْرَهَا وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا يَا مَنْ بِدَعْوَتِهِ وَبَرَكَتِهِ يُرْحَمُ الْخَلِيقَةُ بِرُهَا وَفَاجِرُهَا
 يَا مَنْ كَانَ سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ فِي خَفَاوَةِ أَنْفَاسِهِ وَظِلِّ قَدَمِهِ وَدَائِرَةِ أَمْرِهِ يَا مَنْ لَهُ

الْوُجُودِ يَا مَنْ صَرَّفَ فِي الْوُجُودِ يَا مَنْ يُوحَىٰ بِهِ فِي الْمَلَكُوتِ يَا مَنْ صَرَّفَهُ
 اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ وَ أَحْوَالِهِمْ إِنْ شَاءَ أَرْسَلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا يَا خَيْرَ
 النَّاسِ فِي زَمَانِهِ يَا سُلْطَانَ الْأَوْلِيَاءِ يَا سَيِّدَ الْعَارِفِينَ يَا مَنْ يَتَادَبُ بَعْدَ مَلَائِكَةِ
 يَامَنْ يُخْبِرُ قَلْبَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَا سُلْطَانَ الطَّرِيقِ وَ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْوُجُودِ
 عَلَى التَّحْقِيقِ يَا بَحْتَ الْوُجُودِ يَا هَدِيَّةَ اللَّهِ إِلَى الْكُونِ يَا مَنْ لَهُ الْيَدُ الْمَبْسُوطَةُ
 مِنَ اللَّهِ فِي التَّصْرِيفِ وَالْفِعْلِ الْخَارِقِ الدَّائِمِ يَامَنْ رَفَعَ الْأَوْلِيَاءَ أَلْفًا سَنَةً بَيْنَ
 يَدَيْهِ يَا صَدْرَ الْحَضْرَةِ يَا أَمِيرَ الْوُجُودِ يَا مَنْ نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ يَا مَنْ سَلِمَتْ إِلَيْهِ
 أَحْكَامُ التَّصْرِيفِ فِي كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ يَا خَلِيفَةَ الْأَوْلِيَاءِ يَا سُلْطَانَ الْوُجُودِ يَا
 شَيْخَ الْأَوْلِيَاءِ وَ إِمَامَهُمْ يَا مَنْ أُعْطِيَ مَوَاهِبَ الْأَوْلِيَاءِ كُلَّهُمْ عَلَى يَدَيْهِ وَ مَوَاهِبُهُ
 كُلُّهَا عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا مَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُ عَلَيْهِ سِوَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ
 رَسُولِهِ يَا إِمَامَ أَهْلِ الطَّرِيقِ يَا شَيْخَ الشُّيُوخِ يَا مَنْ بِنُورِهِ لِيُضِيَّ أَهْلَ الْقُلُوبِ
 فِي أَحْوَالِهِمْ يَا مَنْ نُورُهُ مَضَىٰ مِنَ النُّورِ النَّبَوِيِّ وَ بِهِ قُوَّتُهُ وَ بِهِجَتُهُ وَ مُسْتَمِدُّ
 مِنَ الْأَصْلِ النَّبَوِيِّ بِهِ قِوَامُهُ وَ عَلَيْهِ عِمَادُهُ يَا مَنْ هُوَ عَلَى قَدَمِ جَدِّهِ الْمُصْطَفَىٰ
 يَا مَنْ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ الْمُصْطَفَىٰ قَدَمًا إِلَّا وَضَعَ قَدَمَهُ فِي ذَلِكَ الْوَضْعِ
 عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ يَا مَنْ لَهُ صِيْتٌ وَ صَوْتٌ وَ صَمْتٌ وَ سَمْتٌ يَا مَنْ لَهُ سَمْتٌ
 بِهِيٌّ وَ قَدْرٌ عَلَى وَعِلْمٌ وَ فِيٌّ يَا فَائِقُ فِي الْكُلِّ عَلَى الْكُلِّ يَا مَنْ أَوْقَعَ اللَّهُ لَهُ
 بِالْقُبُولِ التَّامِ عِنْدَ الْخَاصِّ وَ الْعَامِّ يَا مَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ
 يَامَنْ ظَهَرَتْ عِلْمَاتُ قُدْرَتِهِ وَ بَهْرَتْ أَمَارَاتُ وَ لَائِتِهِ وَ ثَبَّتَتْ شَوَاهِدُ
 تَخْصِيصِهِ يَا رَاسِخًا فِي الْمُجَاهِدَةِ وَ يَا خَالِصًا مِنْ دَوَاعِي الْهَوَىٰ وَ مُقَاطِعًا

لِجَمِيعِ الْحَقَائِقِ يَا مَنْ لَهُ صَبْرٌ جَمِيلٌ فِي طَلَبِ مَوْلَاهُ يَا مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ طَلِبَةُ
الْعِلْمِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ يَا مَنْ لَهُ صَبْرٌ جَمِيلٌ فِي طَلَبِ مَوْلَاهُ مِنَ الْآفَاقِ
وَأَنْتَهَتْ إِلَيْهِ تَوَلِيَةُ الْمُرِيدِينَ بِالْعِرَاقِ يَا مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَقَالِيدُ الْحَقَائِقِ وَسَلَّمَتْ
إِلَيْهِ أَرْزَمَةُ الْمَعَارِفِ يَا مَنْ أَنْتَهَتْ إِلَيْهِ الرَّئِيسَةُ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحَالًا يَا قُطْبَ
الْوَقْتِ حُكْمًا وَعِلْمًا يَا مُبْرَهِنًا عَلَى الْعِلْمِ فَرْعًا وَأَصْلًا يَا مُبِينَ الْعُلُومِ نَقْلًا وَ
عَقْلًا يَا مَنْ أَنْتَصَرَ لِلْحَقِّ قَوْلًا وَفِعْلًا يَا مَنْ أَنْتَشَرَتْ صِيَّتُهُ فِي الْآفَاقِ وَ التَّوْتُ
نَحْوَهُ الْأَعْنَاقِ يَا مَنْ تَزَهَّتْ فِي حَدَائِقِ مَجْلِسِهِ الْأَعْيُنُ وَ اخْتَلَفَتْ بِبَدَائِعِ
أَوْصَافِهِ الْأَلْسُنُ يَا ذَالِبِيَّائِنِ وَاللِّسَانِيْنَ يَا كَرِيْمَ الْحَدِيْثِيْنَ وَ الطَّرْفِيْنَ يَا صَاحِبَ
الْبُرْهَانِيْنَ وَ السُّلْطَانِيْنَ يَا إِمَامَ الْفَرِيْقِيْنَ وَ الطَّرِيْقِيْنَ يَا قُطْبَ الْخَافِقِيْنَ يَا
غَوْثَ الثَّقَلِيْنَ يَا مَنْ أُفْتَقِرَ إِلَيْهِ فِي عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَ الطَّرِيْقَةِ وَ عِلْمِ عَلَى الْحَالِ
وَ فِعْلِ الْحَالِ يَا مَنْ كَانَ قَدَمُهُ التَّفْوِيْضُ وَ الْمُوَافِقَةُ مَعَ التَّبَرِّيِّ مِنَ الْحَوْلِ
وَ الْقُوَّةِ يَا مَنْ طَرِيْقَةُ تَجْرِيْدِ التَّوْحِيْدِ التَّفْرِيْدِ مَعَ الْحُضُوْرِ فِي الْمَوْقِفِ
الْعَبُوْدِيَّةِ يَا مَنْ كَانَتْ عَبُوْدِيَّةٌ مُسْتَمِدَّةٌ مِنَ الْحِظِّ كَمَالِ الرَّبُوْبِيَّةِ يَا سَمَاعِنُ
مُصَاحِبَةُ التَّفْرِيقَةِ إِلَى مُطَالَعَةِ الْجَمِيْعِ مَعَ آدَمَ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ يَا ذَائِلَاتِ تَحْتَ
مَجَارِي الْاِقْرَارِ يَا مَنْ وَاقِفَ قَلْبُهُ وَ رُوْحُهُ وَ نَفْسُهُ وَ اتَّحَدَ بَاطِنُهُ وَ ظَاهِرُهُ يَا
غَائِبًا عَنِ رُؤْيَةِ الْخَلْقِ وَ النِّفْعِ وَ الضَّرِّ وَ الْقُرْبِ وَ الْبُعْدِ يَا مَنْ اتَّحَدَ قَوْلُهُ وَ فِعْلُهُ
يَا مَنْ كَانَ طَرِيْقُهُ مُعَانِقَةُ الْاِخْلَاصِ وَ التَّسْلِيْمِ وَ تَحْكِيْمِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فِي
كُلِّ حَضْرَةٍ وَ لِحُظَّةٍ يَا فَارِغَ الْقَلْبِ وَ يَا خَالِي السِّرِّ يَا مَنْ لَا يُطِيْقُ مِثْلَ قُوَّتِهِ
أَحَدٌ يَا مَنْ فَاقَتْ قُوَّتُهُ قُوَى أَهْلِ الطَّرِيْقِ لِشِدَّةِ وَ لُزُوْمًا يَا مَنْ لَهُ سِرٌّ لَا يَتَنَازَعُهُ

الْأَغْيَارُ وَ قَلْبٌ لَا يُفَرِّقُهُ الْأَبْطَالُ يَا مَنْ جَعَلَ الْكَنْزَ الْأَكْبَرَ مِنْ وَرَائِهِ وَ الْمُلْكَ
 الْأَعْظَمَ تَحْتَ قَدَمِهِ يَا مَنْ كَانَ حَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَرْكَ الْإِخْتِيَارِ وَ سَلْبَ الْأَرَاءِ يَا
 مَنْ كَانَ نُورُهُ يَخْطِفُ الْأَبْصَارَ يَا مَنْ حَمَاهُ اللَّهُ مِنَ التَّفَاوُتِ إِلَى الدُّنْيَا
 وَ زَخَارِفِهَا يَا مَنْ نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّفْسِ وَ شَهْوَاتِهَا وَ أَيْدِهِ وَ ثَبَّتَهُ بِنُصْرَةِ
 عَلَى مُحَارَبَةِ السُّلْطَانِ وَ جُنُودِ يَامَنْ أَيْسَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ يَامَنْ أَطَاعَهُ هَوَاهُ
 وَأَسْلَمَ شَيْطَانُهُ يَا مُتَوَكِّلُ يَا شَاكِرُ يَا فَانِي يَا مُقْرَبُ يَا مَشَاهِدُ يَا فَقِيرُ يَا مَنْ
 أُعْطِيَ الْعِزَّ الْأَعْظَمَ وَ الْحُرِّيَّةَ الْخَالِصَةَ يَا مَنْ لَمْ يَقُمْ لِأَحَدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَ لَا أَلَمَ
 بِبَابِ ذِي سُلْطَانٍ يَا مَنْ لَمْ يَجْلِسْ عَلَى بَسَاطِ السَّلَاطِينِ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ
 طَعَامِهِمْ يَا صَادِقَ الْأَقْوَالِ . يَامَنْ ثَبَّتَ عَلَى الصِّدْقِ وَ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ يَا ثَابِتَ
 الْأَحْوَالِ فِي الشَّدَائِدِ يَا صَابِرًا عِنْدًا لِمَصَائِبِ يَامَنْ أَنْصَتَ لَهُ كُلُّ وَلِيٍّ فِي
 الْأَرْضِ يَامَنْ أَرْدَحَمَ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْمَلَائِكَةَ فِي مَجْلِسِهِ يَامَنْ يُفَرِّقُ الْخَلْعَ عَلَى
 أَهْلِ مَجْلِسِهِ يَا مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ بِطَائِفِ الْمُلْكِ وَ خَوَاصِهِ وَيَتَكَلَّمُ فِي مَجْلِسِهِ
 عَلَى رِجَالٍ مِنْ وَرَاءِ جَبَلٍ قَافٍ . يَا خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي وَقْتِهِ يَامَنْ سَيْفُهُ
 مَشْهُورٌ يَامَنْ قَوْسُهُ مَشْهُورٌ يَامَنْ قَوْسُهُ مَوْتُورٌ يَا مَنْ سَهْمُهُ صَائِبٌ يَا مَنْ رُمْحُهُ
 مُصَوَّبٌ يَا مَنْ قَوْسُهُ مَسْرُوجٌ يَا نَارَ اللَّهِ الْمُوقَدَةَ يَا سَلَابَ الْأَحْوَالِ يَا بَحْرًا لَا
 سَاحِلَ لَهُ يَا دَلِيلَ الْوَقْتِ يَا مُتَكَلِّمًا فِي الْغَيْرِ يَا مَحْفُوظٌ يَا مَلْحُوظٌ يَا أَمْرَ اللَّهِ
 يَامَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ السُّعْدَاءُ وَ الْأَشْقِيَاءُ يَا نَاطِرًا فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ . يَا
 غَائِصًا فِي بَحَارِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى يَا حُجَّةَ اللَّهِ تَعَالَى الْخَلْقِ يَا شَيْخَ الْكُلِّ يَا شَيْخَ
 الْجِنِّ يَا شَيْخَ الْإِنْسِ يَا شَيْخَ الْمَلَائِكَةِ يَامَنْ لَا يُقَاسُ عَلَى أَحَدٍ وَ لَا يُقَاسُ أَحَدٌ

عَلَيْهِ يَأْمَنُ هُوَ مِنْ وَرَاءِ عُقُولِ الْخَلْقِ أُمُورِهِمْ يَا مَنْ يُقَالُ لَهُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 سَبْعِينَ مَرَّةً: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ يَا مَنْ يُقَالُ لَهُ، تَكَلَّمْتُ تَسْمَعُ مِنْكَ يَا مَنْ لَمْ يَفْعَلْ
 شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِهِ يَا مَنْ أَمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الرَّدِّ يَا مُتَكَلِّمًا عَنْ يَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ
 يَا مَنْ نَطَقَ فَنَطَقَ يَا مَنْ أَمَرَ فَفَعَلَ يَا مَنْ تَكْذِيبُهُ سَمٌّ قَاتِلٌ وَسَبَبٌ لِدِهَابِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ يَا عَالِمًا بِمَا فِي ظَاهِرِ النَّاسِ وَبَاطِنِهِمْ وَالنَّاسُ كَالْقَوَارِيرِ فِي نَظَرِهِ يَا
 مُنَازِعًا فِي أَقْدَارِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ لِلْحَقِّ يَا مَنْ ظَهَرَ ثِوَابُهَا فِي صَبَاحِ يَوْمِ بَارَكَا
 فِي أَوْلَادِهِ وَأَخْرَاهُ يَا مَنْ يُعْطَى فَلَا يَمْنَعُ يَا مَنْ يَقْرَبُ فَلَا يَمْكُرُ بِهِ يَا مُخْبِرًا عَلَى
 الْغُيُوبِ يَا مَنْ لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْهِ يَا مَنْ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ عَلَى
 رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ يَا مَنْ أَمَدَّ النَّاسَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّهِ كَلَّمَا شَاءَ يَا مَاحِي يَا مُحْيِي يَا
 مَمِيتُ يَا مَنْ كَانَ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيَشْفِي السَّقِيمَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
 يَا مَنْ كَانَ يَنْقَطِعُ الْخَرِيفُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ وَيَنْطَفِئُ بِذِكْرِ اسْمِهِ يَا مَنْ بِيَدِهِ
 قُلُوبُ النَّاسِ إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ أَقْبَلَهَا عَلَيْهِ. يَا وَليَّ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ يَا مَنْ لَا يُنَا زِعُهُ أَحَدٌ فِي حَالِهِ الْأَضْرِبِ عُنُقُهُ فِي حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا
 أَحْسَنَ خُلُقًا يَا أَوْسَعَ صَدْرًا يَا أَكْرَامَ نَفْسًا يَا أَعْطَفَ قَلْبًا يَا أَحْفَظَ عَهْدًا يَا مَنْ
 يَرْحَمُ الصَّغِيرَ يَا مَنْ يُوقِّرُ الْكَبِيرَ يَا مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَا مَنْ يُجَالِسُ الضُّعْفَاءَ يَا
 مَنْ يَتَوَاضَعُ الْفُقَرَاءَ يَا رَضِيَ الْأَخْلَاقَ يَا زَكِيَّ الْأَوْصَافِ يَا أَوْلَى النَّفْسِ يَا
 سَخِيَّ الْكَفِّ يَا حَامِيَ الْحَقِيقَةَ يَا مَنْ لَا يَرْفَعُ الطَّرْفَ إِلَّا عِنْدَ مَكْرَمَةٍ يَادَائِمَ
 الْبِشْرِ يَا كَثِيرًا الْبَهَاءِ يَا شَدِيدَ الْحَيَاءِ يَا رَحْبَ الْجَنَابِ يَا سَهْلَ الْقِيَادِ يَا كَرِيمَ
 الْأَخْلَاقِ يَا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ يَا عَطُوفَ يَا رَوْفَ يَا شَفُوقَ يَا مَنْ يَكْرُمُ الْجَلِيسَ

وَيُسِطُ الْمَهْمُومَ يَا ابْنَ لِسَانَا يَا أَظْهَرَ لَفْظًا يَا سَرِيعَ الْمَدْمَعَةِ يَا شَدِيدَ
الْخَشْيَةِ يَا كَثِيرَ الْهَيْبَةِ يَا مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ يَا أَبْعَدَ النَّاسِ فُحْشًا وَيَا أَقْرَبَهُمْ
إِلَى الْحَقِّ يَا شَدِيدَ النَّاسِ إِذَا انْتَهَكْتَ مَحَارِمَ اللَّهِ تَعَالَى يَا مَنْ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ
وَالَا يَتَغَيَّرُ لِغَيْرِهِ رَبِّهِ يَا مَنْ لَا يَرُدُّ السَّائِلَ يَا مَنْ التَّوْفِيقُ زَائِدُهُ وَالتَّائِيدُ مُعَاضِدُهُ
وَالْعِلْمُ مُهْدِبُهُ وَالْقُرْبُ مُؤَذِّبُ وَالْخِطَابُ مُبَشِّرُهُ وَاللَّحْظُ سَفِيرُهُ وَالْإِنْسُ
نَدِيمُهُ وَالْبَسِيطُ نَسِيمُهُ وَالصِّدْقُ رَاتِبُهُ وَالْفَتْحُ بَضَاعَتُهُ وَالْحِلْمُ صِنَاعَتُهُ
وَالذِّكْرُ وَزِيرُهُ وَالْفِكْرُ سَمِيرُهُ وَالْمُكَاشَفَةُ عِنْدُهُ وَالْمُشَاهَدَةُ شَفَاءُهُ يَا مَنْ
آدَابُ الشَّرِيعَةِ ظَاهِرُهُ يَا مَنْ أَوْصَافُ الْحَقِيقَةِ سَرَائِرُهُ يَا مَنْ أَخَذَ عَهْدًا مِنْ
اللَّهِ تَعَالَى لِمُرِيدٍ بِالتَّوَلِيَةِ يَا مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَدْخُلَ مُجِيبَهُ الْجَنَّةَ . يَا سَاتِرَ
عَوْرَاتِ الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ وَهَبَ لَهُ مَرِيدُوهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا مَنْ يَدُهُ عَلَى مُرِيدٍ
كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ يَا مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ مَنْ تَمَسَّكَ بِذِيْلِهِ نَجَا يَا مَنْ
يُخَفِّفُ مِنْهُ الْعَذَابَ عَمَّنْ مَرَّ عَلَى مَدْرَسَتِهِ يَا قَائِدَ الرَّاِكِبِ إِلَى الْمَنْزِلِ يَا مَنْ لَهُ
مَنْهَلٌ عَذْبُ الْمَشَارِبِ يَا مَنْ لَهُ هِمَّةٌ أَمْضَى مِنَ الصَّارِمِ يَا مَنْ لَهُ مِنْ كُلِّ طَوِيلَةٍ
فَحْلٌ لَا يُقَاوَمُ .

وَفِي كُلِّ أَرْضٍ خَيْلٌ لَا يُسَابِقُ يَا مَنْ لَهُ فِي كُلِّ جَيْشٍ سُلْطَانٌ لَا يُخَالِفُ
يَا مَنْ لَهُ فِي كُلِّ مَنْصَبٍ خَلِيفَةٌ لَا يُعْزَلُ يَا كَاشِفَ الْكُرْبَةِ يَا فَارِجَ الشَّدَةِ يَا
قَاضِيَ الْحَاجَاتِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ أَقْضِ حَاجَتِي بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّةِ اللَّهِ
تَعَالَى وَبِرِضَا اللَّهِ تَعَالَى وَامْدُدْنِي فِي قَضَائِ حَاجَاتِي كُلِّهَا بِحُرْمَةِ رَسُولِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ

الذَّاكِرُونَ وَبَعْدَ كُلِّ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

”اے شیخ عبدالقادر، اے محی الدین، اے شیخ الاسلام اے اللہ کے ولی، اے وقت کے
قطب غوث زمان، یکتائے روزگار، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو اپنے زمانہ میں سب
سے اشرف ہیں بلند مراتب والے نوجوان۔ عجمی، تصرف فرمانے والے، شریف، خاص و عام
جن کے محتاج ہیں، تمام مخلوق نے جن سے استفادہ کیا، شفاعت کرنے والے، مادر زاد
اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا دینے والے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے
والے، جن کے آگے تمام اولیاء نے عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، قول و فعل میں صادق، اللہ
کے بندے جن کو عام تصرف حاصل ہے جن کا نسب عربی ہے جن کو بحر قدس سے شرف حاصل
ہو جو معرفت کی چادر پر بیٹھنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا۔

بارگاہ کبریا میں گم ہو جانے والے، جلال کے معائنہ میں فنا ہو جانے والے، اے وہ ہستی
جس پر محبت کی چادر پھیل چکی ہے، اے وہ ذات عنایت کو دونوں اطراف سے سمونے والی
ہے، مقام قرار تک پہنچ جانے والے، جنہوں نے معدن انوار سے حکمت کے ساتھ کلام کیا، جو
پوشیدہ رازوں کے صحرا میں مل گئے، حضور میں ساتھ دینے والے، سکر و صحو کی حالت کو دور کر
دینے والے، حیا کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ادب سے نسبت رکھنے والے تواضع سے
کلام کرنے والے، فقیری میں شاہی کے مالک خصوصی طور قریب کرنے والے، عزت کے
ساتھ خطاب فرمانے والے، سید اولیاء، قطب عالی، بلند و بالا شخصیت، رئیس علوم معرفت جن
کو حقائق کی لگا میں سونپ دی گئیں۔ تمام بازاں اشہب کے سردار، عاشقوں کے گروہ کے
قائد جن کا کلام سینوں میں پوشیدہ باتوں کو نکال لیتا ہے، جن کے انفاس قبروں میں مردوں کو

الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے قبعیین پر رحم کیا شاہ زمان، امام مکان، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور نامور سب آپ کے محتاج ہیں، جن کی دعا سے قطر گھومنے لگتا ہے اور جن کی برکت سے تھنوں میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، جن کی ہیبت اور جلال کے آگے تمام اولیاء کے سرنگوں ہو گئے اے مامون، اے وہ ہستی کہ جن کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے زمین میں رہنے والے ہر ولی نے اطاعت کر لی، اے وہ ذات جو دوہری مضبوطی حاصل کرنے والے ہیں جو ہر ایک کیلئے ممکن نہیں، اور نیک لوگوں کی تمام مجالس نے آپ کی بارگاہ کا رخ کیا آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے دروازے پر ہجوم کر لیا۔ جنہوں نے اپنے عرفان کے چشموں سے اولیاء کو پیالے پلائے، جن کا سچا سانس باہر نکلتا ہے اور اس نور تمام نے آفاق و اشراق میں بلند ہو کر ہر چیز کو روشن کر دیا ہے۔

اے صدر اولیاء، صدر اقطاب، مقربین میں سب سے اعلیٰ، مکاشفین میں سب سے اجل، جن کے افعال و اقوال کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام امتوں پر فخر کرے گا۔

جو مقامات ہیبت میں نمایاں ہوتے ہیں اور کرامات کے جلال میں ظاہر ہوتے ہیں جو حال کی زیادتی اور محبت کی رفعت و بلندی کے باعث غلبہ پالیتے ہیں۔ اے وہ ذات جو خود سالم اور کائنات کی سلامتی ان کے سپرد ہے، جن کا قدم پختگی اور مضبوطی میں راسخ ہے۔ تمام متقدمین پر سبقت لے گئے۔ جو حقائق میں ید بیضاء رکھتے ہیں جس کے ذریعے ازل میں ممتاز ہو گئے۔ جن کی حضرت قدس میں اللہ کے سامنے بھی کلام ہے۔

تمام طالبین حق، عارفین کے مقام رفعت پر ہونے کے باوجود، جن کے محتاج ہو گئے،

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اپنے وقت کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ جن کے لئے انتہائی تہہ سے لیکر ملکوتِ اعلیٰ تک حصہ ہے۔ اے راسخ و مضبوط پہاڑ، بلند و بالا مینار، سید العارفین جنہیں ملکوت میں باز اشہب کہہ کر بلایا گیا۔ اپنے وقت میں سب سے منفرد و نمایاں، انہی پر معاملہ لوٹایا جاتا ہے اور انہی سے صادر ہوتا ہے جن کی مثل عجم میں کوئی پیدا نہ ہوا اور جن کے باعث مشرق، مغرب پر فضیلت لے گئی جن کا علم اور نسب دوسرے اولیاء سے واضح طور پر ممتاز و نمایاں ہے اے بحر محیط اولیاء کی لگام کے مالک جن کے باعث مشرق کی مغرب پر فضیلت ہے اپنے ہم عصروں کے سردار تمام اولیاء سے اعلیٰ و اکمل۔ تمام علماء سے زیادہ پرہیزگار اور زاہد، تمام عرفاء سے زیادہ عالم اور کامل تمام مشائخ سے بڑھ کر قدرت و طاقت رکھنے والے جن پر حکومت و سیادت ختم ہوگئی، تمام لوگوں کی شانِ جلالت کے مرکز، کائنات اور اس میں بسنے والوں کے معاملات جن کے سپرد کئے جاتے ہیں، جنہوں نے معاملات اولیاء و ابدال کے سپرد کر دیئے اور ان کے احوال و اسرار کو عام کر دیا، اے وہ ذات کہ جس نے زمین کی جس سمت دیکھا اس قطر کے باشندے خوفزدہ ہو گئے جن کی نظر جلال زمین پر سب سے زیادہ دور جاتی ہے جن کی برکت سے لوگ اضافے کی امید رکھتے ہیں، اپنے حالات سے ڈرے ہوئے لوگ آپکی ہیبت سے مرعوب ہو کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے عہد لیا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر ظاہری و باطنی تصرف نہیں کریں گے، جن کے لئے حضرت قدس میں اللہ کی اجازت سے کلام ہے جنہیں کائنات میں موت کے بعد بھی تصرف عطا کیا گیا دوستوں میں یکتا قطب اولیاء، اے وہ ذات جس کے باعث ڈگمگاتے لوگوں کو دین میں ثابت قدمی اور قرب ملا اور جس کے باعث قرب حال ملتا ہے۔ جن سے ہر ولی نے ادب سیکھا اور قیامت تک ان ہی سے فیض

یاب ہوتے رہیں گے۔

اے امام صدیقین حجت عارفین، روحانی معرفت والے، اے وہ ذات جن کی شان اولیاء میں منفرد ہے۔ جن کی مثل کائنات میں اللہ نے نہ تو کوئی ولی ظاہر کیا اور نہ ہی کبھی ظاہر کرے گا، جن کی کرامات ان گنت ہیں جن کی مثل حواریوں میں سے کوئی نہ تھا اے سید اولیاء نبی کریم ﷺ کے ہاں تمام اولیاء سے زیادہ مقرب، تمام مشائخ سے افضل، جن کا ہاتھ رجال غیب کے ہاتھوں پر ہے اور جن کا قدم ان کی گردنوں پر ہے اور جن کا حکم نافذ ہونے والا ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین، خشکی، سمندروں دامنوں اور پہاڑوں کی حفاظت فرماتا ہے، جن کی دعا سے نیک و بد مخلوق پر رحم کیا جاتا ہے تمام اولیاء جن کے انفاس کے ظاہر ہونے، قدموں کے سائے اور حکم کے دائرے میں ہیں، جن کا وجود ہے اور جنہیں تمام موجودات میں (باذن اللہ) تصرف حاصل ہے جن کے ذریعے ملکوت میں پیغام بھیجا جاتا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے دلوں اور احوال میں تصرف عطا کیا، اگر چاہیں تو چھوڑ دیں اور چاہیں تو روک دیں، اپنے وقت کے سب لوگوں سے بہتر، سلطان اولیاء سید العارفین، جن سے ان کے فرشتے ادب کرتے ہیں اور جن کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے باخبر ہے۔ سلطان الطریق اور بالاتفاق تمام موجودات میں تصرف کرنے والے، اے موجودات کے بخت اللہ کی طرف سے مخلوق کے لئے تحفہ جنہیں تصرف کرنے اور خرق عادات میں تائید خداوندی حاصل ہے۔ اے وہ ذات جنہوں نے اولیاء کو ایک لمحہ میں دو ہزار سال کی منزل پر فائز کیا۔ اے صدر حضرت، امیر موجودات، حکمت کے ساتھ کلام کرنے والے قریب و بعید میں تصرف کے تمام احکامات جن کے سپرد کئے گئے ہیں۔ اے خلیفہ اولیاء، سلطان الوجود، شیخ اولیاء، امام اولیاء، جن کے ہاتھ سے تمام اولیاء کو مواہب دیے گئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم ﷺ کے دست مبارک سے مواہب دیئے گئے۔ جن پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﷺ کے سوا کسی کا احسان نہیں۔ اہل طریقت کے امام شیخ شیوخ، جن کے نور سے اہل قلوب اپنے احوال میں روشنی حاصل کرتے ہیں جن کا نور، نور نبوی کی ایک کرن ہے اسی سے اس کی قوت و بہجت ہے۔ اسے اصل نور نبوی سے اخذ کیا گیا ہے اور اسی پر اس کا انحصار ہے۔ جن کا قدم اپنے جد مکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﷺ کے قدم پر ہے، اے وہ ذات جن کیلئے نبی ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﷺ نے بلند مرتبہ کی دعا فرمائی۔ حضور کا قدم اٹھتے ہی جنہوں نے اپنا قدم آپ کے نشان پا پر رکھا جن کا ہر قدم، اقدام نبوت پر ہوتا ہے جن کی شہرت کا چرچا چہار دانگ عالم میں ہے، جن کی سمت واضح اور قدر بلند ہے جن کا علم نفع بخش ہے، جو ہر ایک پر فائق و برتر ہیں خاص و عام میں جن کو اللہ کے ہاں قبول تام حاصل ہے جن کے دل سے زبان پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو ظاہر کیا جن کی قدرت کی علامات ظاہر ہو گئیں۔ جن کی ولایت کی نشانیاں واضح ہو گئیں اور جن کی خصوصیت کے شواہد ثابت ہو گئے۔ اے مجاہدہ میں راسخ، خواہشات کے اسباب و محرکات سے پاک، تمام حقائق کو قطع کرنے والے، جنہیں طلب مولیٰ میں صبر جمیل حاصل ہے، جن کی طرف تمام مخلوق سے طالب علموں نے قصد کیا، جنہیں آفاق میں طلب مولیٰ کے لئے صبر جمیل حاصل ہے۔ عراق میں مریدوں کی سیادت انہی پر ختم ہو گئی جنہیں تمام حقائق کی چابیاں عطا کر دی گئیں اور معرفت کی عنان جن کے سپرد کر دی گئی اور جن پر علم، عمل، حال کی تمام سیادت ختم ہو گئی، اے حکمی اور عملی طور پر قطب وقت علم کے اصول و فروع میں دلائل سے آراستہ عقلی و نقلی علوم کو واضح کرنے والے۔ قولی و فعلی طور پر حق کی نصرت کرنے والے جن کی شہرت آفاق میں پھیل گئی اور جن کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑ گئیں۔ جن کی مجلس کے گلستان میں آنکھیں روشن ہو گئیں اور زبانیں جن کے عمدہ اوصاف بیان

کرنے لگ گئیں۔ اے صاحب البیانین واللسانین۔ اے بزرگ طرفین وحدین اے صاحب البرہانین والسلطانین اے امام فریقین وطریقین اے قطب الخافقین اے غوث الثقلین، علم طریقت وشریعت میں جن کا محتاج ہونا پڑتا تھا اور علم حال اور فعل حال میں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اے وہ ذات جن کا قدم موافقت ومتابعت پر ہے؛ نیکی سے عامل ہو کر اور برائی سے بچ کر۔ اے وہ ذات جو عبودیت سے شناسا ہو کر توحید میں تجرد و تفرد رکھتے ہیں، جنکی عبودیت اللہ کے کمالات سے وافر حصہ پانے والی ہے، احکام شریعت پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مجموعی طور پر اطلاع پانے والے، اے میثاق میں شمولیت کرنے والے۔ جن کے قلب روح اور نفس میں موافقت ہوگئی اور جن کا ظاہر و باطن ایک ہو گیا۔ اے مخلوق کے دیکھنے اور قرب و بعد سے غائب جن کا قول و فعل ایک ہو گیا۔ جن کا طریقہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ اخلاص، تسلیم و رضا اور کتاب و سنت پر پابندی تھا، جو ہر لحظہ و ہر لمحہ اللہ کے حضور حاضر رہتے تھے، جن کا سر اور دل غیر کے خیال سے خالی تھا، جن کی مثل کسی شخص میں قوت و طاقت نہ تھی، جن کی قوت حق پر قائم رہنے میں تمام اہل طرق سے بڑھ گئی، جن کے اسرار میں کوئی غیر مداخلت نہیں کر سکتا اور جن کے دل کو بہادر نو جوان خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ جس نے بڑے بڑے خزانے پس پشت ڈال دیئے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے پاؤں تلے پھینک دیا۔ جو اللہ کے حضور اپنے اختیارات کو ترک کر دیتے۔ اپنی آراء کو سلب کر لیتے۔ جن کے چہرے کا نور آنکھوں کو خیرہ کر دیتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی آسائشوں کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھا۔ نفس اور اس کی خواہشات پر قابو پانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور تائید سے نوازا، بادشاہ اور اس کے لشکروں سے نبرد آزما ہونے میں اپنی نصرت کے ساتھ ثابت قدم رکھا۔ اے وہ ذات جن کو گمراہ کرنے میں شیطان مایوس ہو گیا اور جن کی خواہشات نے

اطاعت کر لی اور جن کا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اے متوکل شاکر، فانی، مقرب بارگاہ، مشاہدہ کرنے والے، فقیر، جنہیں عظیم عزت دی گئی اور خالص آزادی عطا کی گئی، جو کبھی کسی شخص کے لئے تعظیم کھڑے نہ ہوئے اور نہ ہی کسی بادشاہ کے دروازے پر گئے، جو کبھی کسی بادشاہ کے دسترخوان پر نہ بیٹھے اور نہ ہی ان کے ہاں کھانا کھایا اے قول میں سچے۔ جو صدق پر ثابت رہے اور کبھی جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا، سختیوں میں ثابت قدم رہنے والے، مصیبتوں میں صبر کرنے والے، روئے زمین پر ہر ولی جن کی بات غور سے سنتا تھا جن کی محفل میں اولیاء اور ملائکہ کا ہجوم رہتا تھا۔ جو اپنی مجلس کی خلوت کو جلوت میں بدل دیتے، جن سے فرشتے علم حاصل کرتے اور آپکی مجلس میں کوہ قاف کے پیچھے رہنے والے لوگ کلام کرتے۔ اپنے ہمعصروں میں روئے زمین پر سب سے افضل جن کی تلوار سونتی ہوئی تھی جن کی کمان کسی ہوئی تھی جن کی کمان میں تانت لگی ہوئی تھی جن کا تیر نشانے پر بیٹھتا تھا جن کا نیزہ سیدھا کیا ہوا تھا جن کی قوس کسی ہوئی تھی۔ اے اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ احوال کو سلب کر لینے والے۔

اے بحر بیکراں، راہنمائے زمان، اپنے آپ سے ماوری گفتگو کرنے والے، خطاؤں سے محفوظ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ملاحظہ میں رکھا ہوا ہے۔ جن پر نیک اور بد بخت پیش کیے جاتے ہیں، اے لوح محفوظ دیکھنے والے، اے قابل لحاظ، علم الہی کے سمندر میں غوطہ زن، مخلوق کے لئے حجۃ اللہ کل، شیخ جنات شیخ انسانیت، شیخ ملائکہ، جن کو کسی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ کسی دوسرے کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جو مخلوق کی عقلوں اور ادراکات سے ماورازات ہے۔ وہ ذات جسے رات اور دن میں ستر مرتبہ کہا جاتا ہے اور میں نے تمہیں چن لیا اور جسے کہا جاتا ہے: کچھ کہیے تمہاری بات سنی جائے گی۔“ جنہوں نے بغیر حکم خدا کے کوئی کام نہ کیا، جن کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے کبھی رد نہ کیا، یقین کے ساتھ کلام کرنے والے

جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوتا تھا۔ جنہیں بولنے کا حکم دیا گیا تو وہ بولے جنہیں جس کام کا حکم دیا گیا تو انہوں نے وہی کام کیا، جن کا جھٹلانا زہر ہلا ہل ہے اور دنیا و عاقبت کے ختم کر دینے کا سبب ہے۔ اے لوگوں کے ظاہری اور باطنی امور کو جاننے والے جن کی نگاہ میں لوگ شیشے کی طرح صاف تھے، اے بارگاہ حق میں تقدیر خداوندی سے جھگڑنے والے، جن کی ولایت بچپن میں آشکار ہو گئی، جو عطا کرتے ہیں، منع نہیں کرتے، جو قریب کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، غیبوں کی خبریں دینے والے، سورج اس وقت تک طلوع ہی نہیں ہوتا جب تک انہیں سلام نہ کر لے، اے حاضرین کے سروں پر ہوا میں چلنی والے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عطاء رب کو بڑھا دینے والے، باطل کو مٹا دینے والے، زندہ کرنے والے، موت دینے والے، جو اللہ کی اجازت سے مادر زاد اندھے اور برص کے مریض کو درست کر دیتے اور بیمار کو شفا دیتے۔ جن کے غصہ کی شدت کی وجہ سے خریف منقطع ہو جائے اور ان کے نام کے ذکر سے بچھ جاتی جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اگر چاہے تو اپنے سے پھیر دے اور چاہے تو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ دنیا و آخرت میں اللہ کے ولی، اے وہ ذات جس سے جب کوئی شخص جھگڑا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے۔ اے حسن اخلاق والے۔ وسیع ظرف والے۔ کریم النفس، رحم دل، وعدہ کے پابند، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بڑوں کی عزت کرنے والے سلام کی ابتداء کرنے والے، کمزوروں کو اپنے پاس بٹھانے والے۔ فقراء کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آنے والے، پسندیدہ اخلاق والے، عمدہ اوصاف والے، دست سخا رکھنے والے، حقیقت کے حامی، جو صرف عظیم کام کے لئے ہی اپنی آنکھیں اٹھاتے، خندہ روئی والے، پر رونق چہرے والے، بہت حیا دار، وسیع الظرف، منکسر المزاج، عمدہ اخلاق والے، عمدہ نسب والے، مہربان رحم کرنے والے، شفقت فرمانے والے، ساتھی کی

عزت کرنے والے، غمزہ کو خوش کرنے والے، فصیح اللسان، واضح گفتگو کرنے والے، جلد آنسو بہانے والے، سخت خوف اور خشیت والے، جلال خداوندی سے ڈرنے والے مستجاب الدعوات، برائیوں سے دور رہنے والے حق کے سب سے زیادہ قریب، جب اللہ کے محارم کی آبروریزی کیجائے تو سب لوگوں سے زیادہ سخت جنہوں نے اپنی ذات کے لئے کبھی غصہ نہ کیا، اور اپنے رب کی غیرت پر غیرت نہ فرماتے، سائل کو کبھی بے نیل و مرام واپس نہ کیا۔ جن کیلئے توفیق زیادہ ہے، تائید انکی مدد کرنے والی علم تہذیب کرنے والا ہے قرب ادب سکھانے والا، خطاب بشارت دینے والا، خیال سفارت کے فرائض انجام دینے والا، انس و محبت ان کے ساتھ، کشادہ روئی ان کا راستہ، سچائی ان کا وظیفہ، فتح ان کا ساز و سامان، حلم و بردباری ان کا پیشہ، ذکر ان کا وزیر، فکر ان کے لئے قصہ گو مکاشفہ ان کی غذا اور مشاہدہ ان کے لئے شفا ہے۔ آداب شریعت ان کا ظاہر ہیں۔ اوصاف حقیقت ان کے اسرار ہیں۔ اے وہ ذات جس نے مرید کی ذمہ داری کا اللہ سے وعدہ لیا اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کے مریدوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اے مریدوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے جنہیں قیامت تک اپنے مرید عطا کر دیے گئے، جن کا ہاتھ اپنے مرید پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان اے وہ ذات جس نے اللہ سے عہد لیا کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ نجات پا جائے گا اے منزل تک پہنچانے کے لئے سواروں کے قائد اے وہ ذات جس کے چشمے کا پانی میٹھا ہے۔ جس کی ہمت تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جس کے لئے ہر ایک گوشہ میں ایسے لشکر ہیں جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ (☆)

(☆) دراصل ان کلمات میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ ذیل دو اشعار کی طرف اشارہ

”اور جس کا ہر سرزمین میں ایک شہسواروں کا ایسا گروہ ہے کہ اس سے سبقت نہیں لی جا سکتی۔ جن کے ہر ایک لشکر میں ایک بادشاہ ہے جس کی مخالفت کرنا محال ہے۔ ہر منصب پر جن کا ایک خلیفہ ہے جسے معزول نہیں کیا جاسکتا۔ اے تکلیف کو دور کرنے والے اے سختی کو کھولنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاجات روا کرنے والے۔ میری حاجت کو اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کی محبت اور رضا کے ساتھ پورا فرمائیے اور پروردگارِ عالم کے رسول معظم ﷺ کے طفیل میری تمام حاجات کو پورا کرنے میں میری مدد فرمائیے اے اللہ محمد ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیج جس وقت ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہو جائیں اے اللہ آپ ﷺ پر درود و سلام بھیج اے ارحم الراحمین تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔“

قضائے حاجات کے لیے اسماء غوثیہ کا وظیفہ

قضائے حاجت اور کفایت مہمات کے لئے حضرت غوث الاعظم کے مندرجہ ذیل اسماء والقباب کا وظیفہ کرے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بعض نیاز مندوں نے ان اسماء کو اپنا وظیفہ بنائے رکھا اور ان کے ذریعے اپنی مہمات کے کشف کے لئے توسل کیا۔ ان اسماء کے اول و آخر

(حاشیہ صفحہ سابقہ) ہے:

وَلِيٌّ مِنْ كُلِّ طَوِيلَةٍ فَحُلٌّ لَا يُقَاوِمُ وَلِيٌّ فِي كُلِّ أَرْضٍ خَيْلٌ لَا يُسَابِقُ

وَلِيٌّ فِي كُلِّ جَيْشٍ سُلْطَانٌ لَا يُخَالِفُ وَلِيٌّ فِي كُلِّ مَنْصَبٍ خَلِيفَةٌ لَا يُعْزَلُ

”ہر ایک گوشہ میں میرے ایسے لشکر ہیں جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ ہر سرزمین میں میرا ایک ایک لشکر ہے کہ اس سے سبقت نہیں لی جا سکتی۔ میرے ہر ایک لشکر میں ایک بادشاہ ہے جس کی مخالفت کرنا محال ہے۔ ہر منصب پر میرا ایک خلیفہ (نائب) ہے جسے معزول نہیں کیا جاسکتا ہے۔“

سرور انبیاء ﷺ پر درود بھیجے اور نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ ورد کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا شَيْخَ الْمَلِكِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِالِاتِّفَاقِ يَاقُطَبَ الْأَقْطَابِ بِالِاسْتِحْقَاقِ
يَا صَاحِبَ الْمَنْزِلَةِ وَالْجَاهِ عِنْدَ اللَّهِ يِنَا مَنْ قَدَمُهُ عَلَى رِقَابِ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ يَا
حَاجِيَ الْحَرَمَيْنِ يَا صَاحِبَ النَّسَبَيْنِ يَا كَرِيمَ الطَّرْفَيْنِ يَا فَرَزَنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ يَا غَوْثَ الْأَعْظَمِ يَاقُطَبَ الرَّبَّانِي يَا مُحِبَّ
السُّبْحَانِي يَا شَفِيعَ الصَّمَدَانِي مِيرَا سَيِّدَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي.

”اے بالاتفاق جن وانس اور بلا تکہ کے شیخ اے حقدار ہونے کے ساتھ تمام اقطاب کے قطب اے اللہ کے ہاں اونچا مرتبہ اور شان رکھنے والے اور وہ ذات جن کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اے حاجی حرمین شریفین، اے خالص نسب والے کریم الطرفین، اے شہیدوں کے سردار امام حسن ؑ اور امام حسین ؑ کے فرزند ارجمند اے غوث الاعظم قطب ربانی محبت سبجانی شفیع الصمدانی میرا سید عبدالقادر جیلانی۔

حضور مجھے نفسانی خواہشات سے بچا لیجئے اور عیب اوصاف سے پاک کیجئے اے وہ ذات جن کا آفتاب کرامات کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اے دستگیر، اے فریاد کرنے والوں کے فریادرس: اَغْنِنِيْ وَامْدُدْنِيْ فِيْ قَضَائِ حَاجَاتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَالْأُمُوْرِ بِإِذْنِ اللّٰهِ آمِيْن.

”میری فریادرسی کیجئے اور میری حاجات کے پورا کرنے میں مدد کیجئے، اے حاجات اور کاموں کے اللہ کی اجازت سے پورا فرمانے والے۔ آمین۔“

مزید: (قضائے حاجات سے ہی متعلقہ القاب و اسمائے مبارکہ)

قضاء حاجت کے لئے مندرجہ ذیل اسماء و القاب کے ذریعے بھی توسل کرے:

إِلَهِي بِحُرْمَةِ قُطْبِ الْأَرْضِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي ﷺ إِلَهِي بِحُرْمَةِ
 شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ غَوْتِ الثَّقَلَيْنِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي ﷺ إِلَهِي بِحُرْمَةِ
 شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ قُطْبِ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي
 بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ بَازِ أَشْهَبِ قُطْبِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مُجِيبِ كَلَامِ مَلَائِكَانَ
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي ﷺ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ قُطْبِ الْكَوَاكِبِ
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
 عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ مُحْيِي الدِّينِ قُطْبِ الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ
 سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي أَقْضِ حَاجَاتِي يَا
 قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. آمِينَ

”اے میرے اللہ، زمین کے قطب سید عبد القادر جیلانی ﷺ کے طفیل، شیخ محی الدین
 غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی ﷺ کے طفیل، قطب مشرق و مغرب سید عبد القادر جیلانی
 ﷺ کے طفیل، باز اشہب، خشکی اور تری کے قطب ملائکہ کی سننے والے سید عبد القادر جیلانی ﷺ
 کے طفیل۔ اے اللہ ستاروں کے قطب شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کے طفیل شیخ محی
 الدین ابو محمد سید عبد القادر جیلانی ﷺ کے طفیل۔ شمال و جنوب کے قطب شیخ محی الدین سید
 عبد القادر جیلانی ﷺ کے طفیل اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی ﷺ کے طفیل میری حاجات کو پورا
 فرما اے حاجات کے پورا کرنے والے۔ آمین۔“

مزید :

کفایت مہمات کے لئے اگر طاقت ہو تو ہزار دفعہ یا سو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ ہر روز

مندرجہ ذیل وظیفہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِلَهِي بِحُرْمَةِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ مَخْدُومِ
عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ مَوْلَانَا عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ سُلْطَانِ
عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَاهِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ مُرْشِدِ
عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ قُطْبِ الرَّبَّانِي عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ
مَسْكِينِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي بِحُرْمَةِ دَرُوَيْشِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي إِلَهِي
بِحُرْمَةِ شَاهِ شَاهَانَ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي

”اے اللہ سید محمدی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی کے طفیل، مخدوم عبدالقادر جیلانی کے طفیل
مولانا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل سلطان عبدالقادر جیلانی کے طفیل شاہ عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل مرشد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل قطب ربانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل
مسکین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل درویش عبدالقادر جیلانی کے طفیل۔ اے اللہ شہنشاہوں
کے شہنشاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل۔“

اے اللہ ان مبارک ناموں کے طفیل مجھ مسکین و بے کس کی حاجت روائی فرما وظیفہ خوان
کو چاہیے کہ گیارہ قسم کے مختلف کھانے یا پھل وغیرہ لے کر بطور نذر و نیاز حضرت غوث الاعظم
رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کرے۔

کفایت مہمات اور کشف حاجات کے لئے ہر روز گیارہ مرتبہ مندرجہ ذیل اسماء کے

ساتھ تو سل کرے۔

يَا سَيِّدُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا وَلِيَّ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا سُلْطَانَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا بَادِشَاهَ
 مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا مَخْدُومَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا خَوَاجَهَ مُحَمَّدٍ
 الدِّينِ يَا دَرُوَيْشَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا فَاقِيْرَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا غُوْثَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا
 مَسْكِيْنَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا غَرِيْبَ مُحَمَّدٍ الدِّينِ يَا غُوْثَ الثَّقَلَيْنِ اَغْنِيْ وَاْمُدُّنِيْ
 فِيْ قَضَاءِ حَاجَاتِيْ اَشْفَعْ يَا وَلِيَّ اللّٰهِ كُنْ وَاِسْطَةً بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللّٰهِ.

”اے سید محمدی الدین اے ولی محمدی الدین یا سلطان محمدی الدین اے بادشاہ محمدی الدین اے
 خواجہ محمدی الدین۔ اے درویش محمدی الدین۔ اے فقیر محمدی الدین اے غوث محمدی الدین اے مسکین
 محمدی الدین اے غریب محمدی الدین اے غوث الثقلین میری حاجات کے پورا کرنے میں مدد
 فرمائیے۔ شفاعت کیجئے اے اللہ کے ولی میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ و وسیلہ بن
 جائیے۔“

اس کے بعد گیارہ بار کہو:

يَا سَيِّدُ مُحَمَّدٍ الدِّينِ اَغْنِيْ وَاْمُدُّنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَاتِيْ اَشْفَعْ يَا شَفِيْعِيْ
 كُنْ وَاِسْطَةً بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللّٰهِ.

اس وظیفہ سے قبل سات بار سورۃ فاتحہ، گیارہ بار سورۃ اخلاص اور تین بار درود شریف پڑھ
 کر حضرت غوث الثقلین کی روح پر فتوح کو ایصالِ ثواب کرے اور اگر قدرت ہو تو گیارہ
 (۱۱) قسم کے کھانے یا پھل وغیرہ تقسیم کرے۔

وظیفہ برائے کفایت مہمات تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھا جائے تو امید واثق ہے کہ
 وظیفہ خوان حضرت غوث الثقلین کی نظر کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ پہلی
 شرط یہ ہے کہ چالیس دن روزہ رکھے اور حلال کی کمائی سے افطار کرے، کپڑے اور بدن کو

صاف رکھے۔ فضول کلامی ترک کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء کو چالیس مرتبہ دن اور چالیس بار رات میں پڑھے اور اول و آخر درود شریف پڑھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر چالیس دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو سات دن روزہ رکھے اور ہر رات تنہائی میں جا کر اکتالیس بار ان اسماء کو پڑھے اور ان کے ذریعے تو سل کرے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے پیرومرشد سے اجازت لے کر وظیفہ کرے کیونکہ بغیر اجازت فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا شَيْخَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا شَيْخَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ يَا شَيْخَ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا شَيْخَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ يَا شَيْخَ الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ
يَا شَيْخَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا يَا شَيْخَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ يَا شَيْخَ الْمُلْكِ وَالْجِنِّ
وَالْإِنْسِ بِالْإِتْفَاقِ يَا قُطْبَ الْأَقْطَابِ بِالْإِسْتِحْقَاقِ وَيَا مَنْ قَدَّمَاهُ عَلَى رِقَابِ
جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى يَا سُلْطَانَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَا بُرْهَانَ الْمُدَقِّقِينَ وَيَا قِبْلَةَ
السَّالِكِينَ وَيَا كَعْبَةَ الْوَاصِلِينَ وَيَا حَاجِيَ الْحَرَمِينَ الشَّرِيفِينَ وَيَا صَاحِبَ
النَّسَبِينَ وَيَا كَرِيمَ الطَّرْفَيْنِ وَيَا وَلَدَ أَمِيرَيْنِ مَقْتُولَيْنِ مَظْلُومَيْنِ مَعْصُومَيْنِ
مَغْفُورَيْنِ مَقْبُولَيْنِ مَخْدُومَيْنِ الْمَشْهُودَيْنِ الْمَشْغُولِينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ. غَوْثُ الْأَعْظَمِ قُطْبُ
الزَّمَانِ مُحِبُّ سُبْحَانِي شَفِيعُ صَمَدَانِي سَيِّدُ السَّادَاتِ سُلْطَانُ الْأَوْلِيَاءِ
مِيرَاةُ شَاهِ مُحْيِي الدِّينِ سُلْطَانُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ غَوْثُ عَبْدِ الْقَادِرِ
الْجِيلَانِيِّ قُطْبُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ سَيِّدِ سَالَرِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ بَازِ

أَشْهَبُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي شَاهِ مِيرَانَ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي فَقِيرِ عَبْدُ الْقَادِرِ
الْجِيلَانِي مَخْدُومِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي دَرُوَيْشِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي مَسْكِينِ
عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي ضَعِيفِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي خَوَاجِهِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي
وَلِيِّ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي أَحْبَابِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي شَاهِ شَاهَانَ عَبْدُ
الْقَادِرِ الْجِيلَانِي. ابْنِ أَبِي مُوسَى جَنكِي دُوسْتِ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي پَاكِ
از حظوظ نفسانی صاف از كدورات انسانی، خالص از ظلمات
مکر شیطانی ای پیر دستگیر یا شیخی یا مُرشدی یا مَخْدُومِی یا وَلِیُّ یا
بَادِشَاهِ عَرَبِ و عجمِ رومِ و رَمِی، هند و سندھ، جابلقا سابقا، مشرق و
مغرب، شمال و جنوب یا شَيْخِ الثَّقَلَيْنِ یا قُطْبِ رَبَّانِي یا غُوثِ الصَّمَدَانِي یا
أَبُو مُحَمَّدٍ یَا حَسَنِي یَا حُسَيْنِي یَا عَبْدَ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيزَ
إِقْضِ حَاجَتِي یَا قَاضِي الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اے زمین و آسمان کے شیخ، اے شمس و قمر اور نجوم کے شیخ، اے شب و روز کے شیخ، اے
خشکی و سمندر اور دامن و پہاڑ کے شیخ، اے جانوروں اور پرندوں کے شیخ، اے دین و دنیا کے
شیخ، اے جن و انس اور ملائکہ کے بالاتفاق شیخ، اے حق رکھنے کے باعث تمام اقطاب کے
قطب، اے اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اور شان والے، اے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔
اے محققین کے سلطان، اے غور و فکر کرنے والوں کے لئے دلیل و برہان، سالکین کے قبلہ،
واصلین کعبہ، حرمین شریفین کے حاجی، صحیح النسبین کریم الطرفین، اے دو شہزادوں مقتول
مظلوم، معصوم، مقبولان بارگاہ، مخدوم شہید، شاعلم، نوجوانان اہل جنت کے سردار ابو محمد الحسن
اور ابو عبد اللہ الحسین رضی اللہ عنہما کے بیٹے۔

غوث اعظم، قطب زمانی، محبت سبحانی شفیق صمدانی سید السادات سلطان الاولیاء میراں، شاہ محی الدین سلطان عبدالقادر جیلانی۔ غوث عبدالقادر جیلانی؛ سپاہ سالار عبدالقادر جیلانی۔ لاہور کے رازداں، باز اشہب عبدالقادر جیلانی، فقیر عبدالقادر جیلانی، مخدوم عبدالقادر جیلانی، مولانا عبدالقادر جیلانی، درویش عبدالقادر جیلانی، مسکین عبدالقادر جیلانی، ولی عبدالقادر جیلانی، احباب عبدالقادر جیلانی، شہنشاہوں کے شہنشاہ عبدالقادر جیلانی، ابو موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے عبدالقادر جیلانی، نفسانی خواہشات سے پاک، انسانی غلاظتوں سے صاف، شیطانی مکر کے اندھیروں سے محفوظ۔، اے پیر دستگیر، اے میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مخدوم، اے ولی اے شاہ عرب و عجم اور روم، ری، ہند، سندھ، جابلقا، سابقا، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے بادشاہ اے شیخ الثقلین، قطب ربانی، غوث صمدانی۔

اے ابو محمد عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی (اللہ تعالیٰ آپ کے اسرار کو پاکیزہ فرمائے) میری حاجت کو پورا فرمائیے۔ اے قاضی حاجات اے رحم الراحمین تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔

ذکر وصال مبارک

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ۷۴۷ھ اور ایک روایت کے مطابق ۷۴۷ھ میں جیلان میں ہوئی اور وصال باکمال ۱۱ ربیع الثانی ۵۶۱ھ کو۔ آپ کی عمر شریف نوے سال تھی۔ صاحب ہجرت الاسرار کی روایت کے مطابق آپ کا وصال ہفتہ کی رات ۹ ربیع الثانی ۵۶۱ھ کو ہوا۔ بعض حضرات، حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سترہ ربیع الثانی کو کرتے ہیں اور اس کی سند یہ پیش کرتے ہیں کہ کتاب ”مفتاح الاخلاص“ میں آپ کے وصال کی تاریخ سترہ ربیع الثانی نقل کی گئی ہے۔ حالانکہ مؤلف کتاب مفتاح الاخلاص، ہمارے شیخ و مخدوم اور میرے جد امجد شیخ سید محمد قادری نے بے شمار روایت بغیر

تحقیق کے کتاب ”خلاصۃ المفاخر“ اور روضۃ الریاض“ سے نقل کر دی ہیں اور مؤلف نے سترہ ربیع الثانی کا حوالہ امام یافعی کی کتاب خلاصۃ المفاخر“ سے دیا ہے جبکہ امام یافعی نے اس کتاب میں صرف ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے اور تاریخ نقل نہیں کی اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ (عدم یقین عدم علم کا سبب ہے) یا چونکہ امام یافعی نے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا قریبی زمانہ پایا تھا اور یوم وصال لوگوں پر پوشیدہ نہ تھا اس لئے تاریخ ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا۔

حضرت میرے شیخ و مولا و سردار اور جد محترم، قطب عالم شیخ عبدالقادر ثانی قائم مقام شیخ محمد قادری اپنی کتاب ”اورادِ قادریہ“ (۱) میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم کا وصال گیارہ ربیع الثانی کو ہوا۔ ان کے بعد شیخ و مرشد والد ماجد سید حامد خلیفہ حضرت عبدالقادر ثانی نے مشائخ کے اعراس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا وصال گیارہ ربیع الثانی کو ہوئی اور جن لوگوں نے سترہ ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے ان سے تسامح ہوا ہے اور انہوں نے غلطی سے یازدہم کی بجائے ہفد ہم نقل کر دیا۔ واللہ اعلم تحقیق الحال۔

عرب و عجم اور سندھ و ہند کے لوگ حضرت غوث الاعظم کا عرس گیارہ ربیع الثانی کو کرتے ہیں اس روز طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں اور ذکر کی محفلیں قائم کرتے ہیں چنانچہ عرب و عجم کا اس تاریخ پر اجماع ہو چکا ہے اور اس صورت میں اصول یہ ہے کہ کثرتِ عمل سے ضعیف روایت بھی قوی ہو جاتی ہے اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوتی۔

(۱) یہاں تسامح ہے، ”اورادِ قادریہ“ حضرت مخدوم سید عبدالقادر ثانی کی کتاب نہیں بلکہ یہ سید نور الدین محمود قادری بھکھری کا اورادِ غوث الاعظم پر قلمی نسخہ ہے۔ جس پر حضرت مخدوم ثانی اور آپ کے پوتے سید حامد گنج بخش نے حاشیہ تحریر فرمایا تھا، اُج شریف کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

(سفر نامہ اُج، علامہ شرافت ٹوشاہی)

نسب و صفات جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ

سید السادات، شیخ الاسلام، شیخ شیوخ العالم غوث الاعظم شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی بن ابی صالح جنگی دوست بن ابی عبداللہ بن یحیی الزاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبد اللہ بن موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المحض ملقب بالمجل بن حسن المثنیٰ بن امام حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ۔

ولادت کے وقت آپ جیلان میں تھے، جیلان یا جیل (بکسر جیم و سکون یا) یہ قصبہ طبرستان میں واقع ہے کہتے ہیں کہ گیلان، جیلان و گیل ایک قریہ ہیں جو دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جیلانی لقب آپ کے جد امجد سے منسوب ہے جو جیلان سے تعلق رکھتے تھے۔

یاد رہے کہ نسب نامہ میں لفظ ”جون“ استعمال کیا گیا ہے یہ اسماء اضداد میں سے ہے بعض اسے ابیض (سفید) پر اطلاق کرتے ہیں اور بعض اسود (سیاہ) پر یہاں وجہ اول مراد ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کا رنگ گندم گوتھا۔

حضرت عبداللہ کا لقب محض ذکر کیا گیا ہے۔ محض سے مراد خالص ہے کیونکہ آپ کے والد حسن بن حسن بن علی اور والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھیں اسی طرح آپ کا نسب خالص ہے اور اس نسب میں کوئی موالی نہیں، آپ حنی حسینی کریم الطریفین سید تھے۔

حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا اسم گرامی ام الخیر بنت ابی عبداللہ صومعی تھا آپ بڑی راسخ العقیدہ اور خیر و اصلاح کی مالک تھیں۔ حضرت ابو عبداللہ صومعی جیلان کے اجلاء مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی کرامات بہت مشہور ہیں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی شیخ ابو احمد عبداللہ آپ سے ایک سال چھوٹے تھے۔ آپ علم وزہد میں بڑے معروف تھے اور

جوانی میں اس دارفانی سے رحلت فرما گئے۔

حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی ام محمد عائشہ بنت عبداللہ بڑی نیک اور صالحہ عورت تھیں۔ ان سے بڑی کرامتیں ظہور میں آئیں۔ ایک بار جیلان میں قحط کی شدت ہوئی تو لوگوں نے طلب دعائے باران کی لیکن نماز استسقاء کے باوجود بھی باران رحمت کا نزول نہ ہوا۔ لوگ اس نیک بی بی کے پاس آئے اور طلب باران رحمت کی درخواست کی کہتے ہیں حضرت ام محمد عائشہ نے اپنے صحن میں جھاڑو دیا اور کہا: ”بارالہا! میں نے جھاڑو دے دیا ہے اب پانی برسانا تیرا کام ہے۔“ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ زوردار بارش برسنے لگی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے آسمان سے مشکوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو پانی سے شرابور ہوتے پایا۔ اس نیک بی بی نے بڑی عمر پائی اور جیلان میں ہی مدفون ہوئیں۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہم

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد

وآلہ وصحبہ اجمعین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ختم غوثیہ قادریہ

﴿بسلسلہ گیارہویں شریف﴾

سورة فاتحہ شریف (۱۱) بار	(۱۱) بار	بسم اللہ الرحمن الرحیم
کلمہ تمجید (۱۱) بار	(۱۱) بار	سورة اخلاص
لا اله الا الله محمد رسول الله (۱۱) بار		کلمہ طیبہ
الله الله (۳۳) بار	(۳۳) بار	الا الله
يا هادي انت الهادي (۳) بار	(۵) بار	يا باقى انت الباقي
يا شافي انت الشافي (۳) بار	(۳) بار	يا كافي انت الكافي
أَنْتَ الْهَادِي أَنْتَ الْحَقُّ. لَيْسَ الْهَادِي إِلَّا هُوَ (۱۱) بار		
	(۱۱) بار	درود غوثیہ شریف
	(۱) بار	سورة منزل شریف
	(۳) بار	سورة الشرح

يَا حَضْرَتُ شَيْخِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْئاً لِّلّهِ

أُمِدُّذُنِي بِإِذْنِ اللَّهِ

(۳) بار

(دعائے ایصالِ ثواب روح پُرفروش شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

﴿ ادارہ صوت ہادی کے اغراض و مقاصد ﴾

- ☆ قرآن و سنت کی دعوت عمل
- ☆ عربی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت عامہ
- ☆ اسلامی ادب و تہذیب اور رسم و رواج کا پرچار
- ☆ شریعت اسلامیہ اور طریقت قادریہ کی خدمت
- ☆ حب ملک و ملت اور اصلاح معاشرہ کی دعوت۔
- ☆ سالمیت پاکستان اور دوقومی نظریہ کے دوام و قیام کا ہر لمحہ تحفظ اور امت مسلمہ کی جامعیت اور فکری تطہیر۔
- ☆ مسلم معاشرہ کے غریب اور مستحق طبقہ کیلئے مفت دینی اور جدید علوم کا بندوبست۔
- ☆ ادارہ صوت ہادی آپ سے مال و زر کا نہیں، فکر و نظر کا اشتراک چاہتا ہے۔
- ☆ ادارہ صوت ہادی آپ سے بھرپور علمی، عملی اور قلبی معاونت کا طلبگار ہے۔

☆☆☆

